



# دوسرے دو داماد

سیرتِ خلفائے راشدینؓ پر پہلی غیر منقوٹ کتاب

ابو محمد  
محمد عظیم راتی

تقریباً

حضرت ابوالفضل محمد اسلم صاحب شیخوپورہ

ادارہ اسلامیات ایف۔ اے۔ جی

سیرتِ خلفائے راشدینؓ پر پہلی غیر منقوٰط کتاب

دوسرے دو داماد

محَرَّر

والدِ مُحَمَّد رَاقِی

ادارہ اساسِ اِسلام

جامعہ اقصیٰ، تھانوی مسجد، جیکب لائن کراچی  
موبائل: 0300-2832857, 0345-3033109

## جملہ حقوق طبع بحق مؤلف محفوظ ہیں

نام کتاب:	دوسر دواماد
مؤلف:	ابومحمد، محمد عظیم رانی
کمپوزنگ:	غازی گرافکس
تعداد:	گیارہ سو
سن طباعت:	۱۴۳۲ھ بمطابق ۲۰۱۱ء
ناشر:	ادارۃ الانوار بنوری، جامعہ احشامیہ نزد دھانوی مسجد، کراچی

اسٹاکسٹ

ادارۃ الانوار بنوری، جامعہ احشامیہ نزد دھانوی مسجد، کراچی

جامعہ احشامیہ نزد دھانوی مسجد، جیکب لائن کراچی

موبائل: 0300-2832857, 0345-3033109

## ملنے کے پتے

- ☆ ادارۃ الانوار بنوری ٹاؤن کراچی
- ☆ اسلامی کتب خانہ بنوری ٹاؤن کراچی
- ☆ زمزم پبلشرز اردو بازار کراچی
- ☆ مکتبہ انعامیہ، اردو بازار کراچی
- ☆ مکتبہ لدھیانوی بنوری ٹاؤن کراچی
- ☆ جامعہ احشامیہ نزد دھانوی مسجد جیکب لائن کراچی



## درمدح خلفائے راشدین ﷺ

(از نسخ المصنف حاجی (مراد) (اللہ مہاجر ملکی نور اللہ مرفذہ

شہسواران جہاں مردانِ دین	چار یارِ مصطفیٰ اہل یقین
اولاً ابوبکر صدیق! اہل دین	دوسرے عادل عمر والا یقین
تیسرے عثمان با علم و حیا	چوتھے ہیں حضرت علی شیر خدا
اور سب اصحاب اس کے ذی علوم	ہیں ہدایت کے فلک پردے نجوم
صدق اور عدل اور شجاعت اور حیا	ہے انہی چاروں سے دین کو ارتقاء
ان سے راضی ہے خدائے دوسرا	اور خوش ہیں ان سے مصطفیٰ
تو بھی جان و دل سے اے امداد اب	رہ خدا ان پر سدا ہر روز و شب
جو کوئی بد اعتقاد ان سے ہے ہوا	وہ مردودِ جنابِ کبریا

(منقول از غذائے روح)

نکتہ: بعض علمائے کرام نے حضرات خلفائے راشدینؓ کی فضیلت اور ترتیب کے متعلق ایک عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ حدیث شریف میں آیا ہے: ”خیر القرون قرنی“ سواس حدیث میں خلفائے اربعہؓ کے نام کے آخری حروف بہ ترتیب آئے ہیں یعنی ”ق“ صدیق کا اور ”د“ عمر کی اور ”ن“ عثمان کی اور ”ی“ علی کی۔

کسی باریک بین، اعلیٰ ذوق کے حامل شاعر نے اس کو یوں نظم کیا ہے:

ابوبکر یک سو علی ایک جانب	خلافت کو گھیرے ہیں با صد صفائی
الف اور یے کی طرح ان کو جانو	کہ محصور ہے جن میں ساری خدائی
یہ تشبیہ ہے واقعی تو جگہ بھی	الف اور یے نے یہ ترتیب پائی
وہ اول خلیفہ کے اول میں آیا	یہ آخر خلیفہ کے آخر میں آئی

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ اس شعر کو پڑھتے اور فرماتے:

”بھلا کوئی شعر کہے تو ایسے کہے“

## تقریظ

مفسر قرآن حضرت مولانا محمد اسلم شیخوپوری صاحب کثر اللہ فیوضہ  
بسم اللہ الرحمن الرحیم

تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے قلم کو عزت و حرمت عطا فرمائی اور درود و سلام  
اس نبی امی پر جو لکھنا نہ جانتے تھے مگر کروڑوں لکھنے والوں نے ان کے دم قدم سے لکھنا سیکھا۔  
اما بعد!

جب مولانا محمد عظیم صاحب نے اپنی کتاب ”دوسرے دو اماں“ کے بارے میں اپنے  
تاثرات لکھنے کے لیے مجھ سے کہا تو خیال آیا کہ اس غیر منقوط کتاب پر تقریظ بھی غیر منقوط ہی  
ہونی چاہیے، مگر سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس خیال سے جھرجھری سی آگئی اور میں ایک سطر بھی  
اردوئے معرا میں لکھنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔

حیرت ہوئی کہ ایک نو آموز قلم کار جس نے اس سے قبل کتاب تو کیا کوئی رسالہ بھی  
نہیں لکھا تھا وہ ایک ایسی کتاب لکھنے میں کیسے کامیاب ہو گیا جس میں خلفائے راشدینؓ کے  
حالات، ولادت سے وفات تک جمع کیے گئے ہیں؟ یقیناً اس کتاب سے قارئین کی معلومات میں  
تو اضافہ نہ ہوگا کہ اس موضوع پر پہلے سے اسلامی کتب خانوں میں بی شمار کتابیں موجود ہیں۔  
البتہ اس میں شک نہیں کہ جس اسلوب میں مؤلف زید مجدہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم  
کے چاروں خلفاء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، کم از کم میرے مطالعہ کی حد تک اردو زبان میں  
اس کی کوئی مثال موجود نہیں۔

اردوئے معرا میں لکھنے کی سب سے کامیاب کوشش حضرت مولانا محمد ولی رازی زید  
مجدہم نے کی تھی جن کی سیرت پر لکھی گئی کتاب ”ہادی عالم“ کو صداتی ایوارڈ عطا کر کے صداتی

ایوارڈ کو معتبر بنانے کی سنجیدہ کوشش کی گئی، عوام اور خواص نے بھی اس لا جواب کتاب کو بہت پسند کیا تھا۔

”دوسرے دو داماد“ کے مؤلف ”ہادی عالم“ کے مصنف کے مقابلے میں اس چھوٹے بچے کی حیثیت رکھتے ہیں جو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے لازماً ان کی تصنیف میں کچھ کمزوریاں بھی ہوں گی، زبان کی جس صنف کا انہوں نے انتخاب کیا ہے اس میں کمزوریوں کا ہونا کوئی انہونی بات نہیں۔

مجموعی طور پر مولانا محمد عظیم صاحب اپنی کوشش میں کامیاب ثابت ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے!

محتاج دعا:

(حضرت مولانا) محمد اسلم شیخوپوری

۱۴۳۲/۴/۱۷ھ

## باسم سبحانہ و تعالیٰ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين

اما بعد!

سفر میں دو یا سو، مگر معرئی لکھنا آسان نہیں ہے الا یہ کہ حق تعالیٰ شانہ جس کو توفیق عطا فرمائیں۔

باری تعالیٰ نے یہ سعادت عزیزم برخوردار حضرت مولانا محمد عظیم صاحب سلمہ نوابشاہی کے مقدر میں لکھی تھی۔

اس سے قبل اکبر کے زمانہ میں ”فیضی“ نے عربی میں ”سواطع الالہام“ نامی بے نقط تفسیر لکھنے کی کوشش کی تھی اور اپنے زمانے میں بڑی شہرت بھی حاصل کی تھی، لیکن غلط نظریات کا حامل ہونے کی وجہ سے اس کی تفسیر کو قابل اعتناء نہیں سمجھا گیا۔

اس کے بعد اردو میں حضرت مولانا محمد ولی رازی صاحب نے سیرت طیبہ کے خوبصورت عنوان پر ”ہادی عالم“، صلی اللہ علیہ وسلم نامی بے نقط کتاب لکھ کر دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ میری دانست کے مطابق مولانا محمد عظیم سلمہ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سیرت مبارکہ پر ”دوسر دو داماد“ نامی کتاب لکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔

مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ عزیز موصوف نے اس سے قبل کوئی تصنیف و تالیف کا کام نہیں کیا اور یہ ان کی پہلی کاوش ہے جو کہ یقیناً ایک بھرپور کامیاب کوشش ہے، جو تصنیف و تالیف کی پر پیچ وادی میں قدم رکھنے کے لیے موصوف کے نام کی طرح ایک ”عظیم“ سنگ میل ثابت ہوگی۔



حق تعالیٰ شانہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موصوف کی اس تحقیقی کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور مزید آگے بڑھنے کا ذریعہ بنائے اور موصوف اور ان کے والدین، اساتذہ کرام اور جملہ معاونین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین بجزمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

دعا گو

(حضرت مولانا مفتی) محمد یونس غفرلہ

استاذ الحدیث جامعہ دارالعلوم نواب شاہ

خطیب و امام جامع مکی مسجد مریم روڈ نواب شاہ

۱۴۳۲/۵/۲۳ھ

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ عرضِ مَوْلٰف

یہ محض خالق کائنات کا فضل و احسان ہے کہ اس نے مجھ جیسے معدوم العلم والعمل انسان کو، حضرات کو خلفائے راشدینؑ کی سیرت مبارکہ کو غیر منقوط اردو میں لکھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ فللہ الحمد

میرے لئے یہ امر انتہائی خوش کن ہے کہ ”دوسر دو داماد“ بندہ کی پہلی تالیف ہے جو بفضلہ تعالیٰ وصفِ غیر منقوط سے متصف ہے۔

احقر نے یہ کتاب اگست 2007ء میں شروع کی مگر چند صفحات کے بعد ہی ہمت جواب دے گئی اور تصنیف و تالیف کا کام ایک سال سے زائد عرصے تک موقوف رہا، دریں اثناء اس کام کا تذکرہ استاذ محترم مولانا کلیم اللہ (سندھی، لغاری، مدظلہ العالی، سابق استاد جامعہ احتشامیہ کراچی) کے سامنے کیا تو موصوف نے خوب حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمایا کہ اس کام کو جلد پایہ تکمیل تک پہنچاؤ اور مفید مشوروں سے نوزا۔

استاذ محترم کی حوصلہ افزائی سے ہمت بڑھی اور اللہ کا نام لے کر پھر سے کام شروع کر دیا، مگر حوادثِ زمانہ اور نوع در نوع مصائب، سد راہ ہوئے، حوصلہ سرد ہو گیا اور ایک بار پھر یہ مبارک کام تعطل کا شکار ہو گیا۔

مگر اللہ رب العزت کا ارادہ، اس ناکارہ سے حضراتِ خلفائے راشدینؑ کی سیرت مبارکہ کی خدمت کا کام لینے کا ہی تھا، اس لیے میرے ایک مہربان دوست، جامعہ احتشامیہ کراچی کے نرم مزاج استاذ اور ہر دل عزیز شخصیت؛ مولانا ارشد محمود صاحب کو وسیلہ بنایا۔ موصوف کی داسے، درمے، سخنے معاونت رہی اور بالاخر دس، مئی، دو ہزار دس کو یہ کام پایہ تکمیل

تک پہنچا، بندہ دل کی گہرائیوں سے مذکورہ دونوں حضرات کا ممنون ہے۔  
 میں اپنی رفیقہ حیات کا بھی بے حد مشکور ہوں جس نے ہمیشہ کی طرح قدم بقدم  
 منید مشوروں اور دعاؤں سے میرا ساتھ دیا اور روز اول سے اس کتاب کے منصہ شہود پہ آنے تک  
 میری حوصلہ افزائی کی۔

میں اپنی ہمیشہ کا بھی مشکور ہوں جس نے حوالہ جات کی تخریج اور مسودے کے لیے  
 صفحات پر حاشیہ کشی کر کے میرا بہت سا وقت بچایا۔ (جزاہم اللہ احسن الجزاء فی  
 الدنيا والاخرة)

آج جب یہ سطور لکھ رہا ہوں، مسودے کو مکمل ہوئے ایک سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔  
 اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مقبولیت عامہ عطا فرما کر مؤلف اور اس کے اساتذہ، والدین، جملہ  
 معاونین اور قارئین کرام کے لیے باعث فلاح دارین بنائے اور صحابہ کرام کی سچی اتباع نصیب  
 فرمائے۔ آمین

ابو محمد

محمد عظیم رانی عفی عنہ

خادم تدریس جامعہ احتشامیہ جیکب لائن کراچی

۲۰۱۱/۵/۱۳

03002832857

## اہم کردار کے حامل

گوکہ ہر کتاب کے صفحہ اول پر مصنف یا مؤلف کا نام ہی مکتوب ہوتا ہے اور فی زمانہ یہی رائج ہے، مگر کتاب کو آپ تک پہنچانے میں کچھ لوگ اہم کردار کے حامل ہوتے ہیں، میں ایسے تمام حضرات کا تذکرہ نہایت ضروری سمجھتا ہوں۔

میں استاد محترم مولانا کلیم اللہ سندھی، لغاری مدظلہ العالی، مولانا ارشد محمود صاحب کشمیری کے علاوہ محترم جناب مفتی عبداللہ حسن زئی صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں جن کی رہنمائی سے تقاریظ کا مرحلہ طے ہوا۔

میں اپنے ہونہار اور محنتی شاگردانِ عزیز، عبدالاحد، نالوی اور محمد عباسی اور رحمت اللہ آرکانی (مستعلمین درجہ سابعہ) کا بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے اپنے قیمتی لمحات اس کتاب کے لیے صرف کیے۔

میں عزیزم بھائی محمد شکیل انجم (بہاولپور) کا بھی بے حد مشکور ہوں، جن کی معاونت سے آج یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

( جزاهم اللہ احسن الجزاء فی الدنيا والاخرة )

## ایک نظر ادھر بھی

☆..... زیر نظر کتاب میں تمام تر آیات و احادیث کے لفظی ترجمے اردوئے معر میں مشکل تھے، اس لیے مفہومی اور مرادی معنی لکھے گئے ہیں۔

☆..... زبان کی سلاست و روانی کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کی گئی ہے کہ نادر الوقوع الفاظ کا استعمال کم سے کم ہو، اگر کہیں ایسا ہوا ہے تو حاشیہ میں اس کی تشریح کر دی گئی ہے۔

☆..... اصطلاحات جدیدہ کی وضاحت اور حوالوں کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔

☆..... اٹھارہ حرفی، تنگ دارے میں مقید رہ کر غیر منقوٹ کتاب لکھنے کا مقصد ”خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین“ کو خراج عقیدت پیش کرنا اور عوام الناس کے دلوں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت کو اجاگر کرنا ہے۔

☆..... زبان کی جس صنف کا انتخاب کیا گیا ہے اس میں کمزوریوں کا ہونا کوئی انہونی بات نہیں، لہذا اگر کہیں کوئی قابل اصلاح بات نظر آئے تو ضرور مطلع فرمائیں۔

# دوسرے دو دَامَادِ سازگار سے مستور ہوا

رسول اللہ کے دوسرے دو داماد کے احوال سے معمور عام اردو  
سے ہٹ کر اردوئے معرا سے لکھا ہوا اک اہم رسالہ

والدِ مُحَمَّدِ رَائِي

ادارہ اساسِ اَلْعِشْمِ

اللہ کے اسم سے کہ وہ عمومی رحم و کرم والا ہے

## ساحلِ مراد

اعداد	حالِ اوّل	حوالے
۱	صدائے دل	۲۷
۲	ہمدوں کے اکرام سے معمور، کلامِ الہی کے حصے	۳۱
۳	ہمدوں کے اکرام سے معمور، کلامِ رسول کے حصے	۳۲
۴	اک مکروہ گوجاسد کی روئداد	۳۸
۵	حاصلِ کلام	۳۹
۶	حصہ اول	۴۱
۷	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے	۴۱
۸	ہمدِ مکرم اور عمرِ مکرم (اللہ ہر دو سے مسرور ہو)	۴۱
۹	مطالعہ سیرِ رسول، مسلم اول	۴۲
۱۰	سیرِ رسول کا اصل اسم	۴۳
۱۱	عالمِ مادی کو آمد	۴۳
۱۲	مولودی سلسلہ	۴۳
۱۳	رسول اکرم کے عطا کردہ اسماء	۴۳
۱۴	دوسرا اسم	۴۴
۱۵	سیرِ رسول کے والد	۴۶
۱۶	سیرِ رسول، حاکمِ اول کی والدہ	۴۵
۱۷	دورِ لاعلمی کے احوال	۴۵
۱۸	دورِ اسلام کے احوال	۴۶



۴۷	اعلائے اسلام	۱۹
۴۹	مکی دور	۲۰
۵۱	حاکم اول کے لئے اک اہم اکرام	۲۱
۵۱	رحلہ اول کا ارادہ	۲۲
۵۴	معاہدہ عدم سلوک اور مسلم اول کی ہمدی	۲۳
۵۵	رسول اللہ کا اسماء سماوی اور سر رسول	۲۴
۵۶	وداع مکہ اور اکرام رسول	۲۵
۵۹	رحلہ مسلم اول اور اسماء کا کردار	۲۶
۵۹	ہمد مکرم ملی حوصلہ دہری	۲۷
۶۲	مسلم اول کا لڑکے کو حکم	۲۸
۶۲	مسلم اول کا راعی عامر کو حکم	۲۹
۶۲	مسلم اول کا طے کردہ راہ داں	۳۰
۶۳	راہ کے مراحل	۳۱
۶۴	اک گھوڑے سوار کی آمد اور مسلم اول کو صدمہ	۳۲
۶۶	معمورہ رسول کی ہوا اور ماحول	۳۳
۶۷	معاہدہ عمدہ سلوک	۳۴
۶۷	حرم رسول کی معماری اور مسلم اول کے مال سے ادائے گی	۳۵
۶۹	معر کے	۳۶
۶۹	معرکہ اول اور سر رسول مسلم اول	۳۷
۷۲	محصوروں کا معاملہ اور مسلم اول کی رائے	۳۸
۷۲	معرکہ احد اور مسلم اول	۳۹
۷۳	گمراہوں کی گواہی	۴۰

۷۴	معرکہ حراء الاسد اور مسلم اول	۴۱
۷۴	اسرائیلی گروہ سے معرکہ	۴۲
۷۴	کھائی والا معرکہ	۴۳
۷۵	عروس مطہرہ کے لئے مکاروں کی مکروہ کاروائی اور مسلم اول کا حکم	۴۴
۷۷	معابدہ صلح اور مسلم اول	۴۵
۷۹	اسرائیلی گروہ سے اک اور معرکہ	۴۶
۷۹	مسلم اول کی اک مہم	۴۷
۷۹	مسلم اول کی دوسری مہم	۴۸
۷۹	معرکہ مکرمہ اور مسلم اول	۴۹
۸۰	معرکہ وادی واوطاس اور مسلم اول	۵۰
۸۰	اہل کہسار کا محاصرہ	۵۱
۸۱	معرکہ رعرہ اور مسلم اول	۵۲
۸۲	موسم احرام کی سرداری	۵۳
۸۳	ہادی اکرم کا وصال مسعود اور اسلام کا اول امام و حاکم	۵۴
۸۴	ہمد مکرم کی دلداری کے لئے اللہ کے رسول کا کلام	۵۵
۸۶	عالم اسلام کی سرداری کا اہم معاملہ	۵۶
۹۰	داماد رسول علی کریم اللہ کا سر رسول مسلم اول سے عہد	۵۷
۹۱	حاکم اول کا کاراول	۵۸
۹۴	امروچی کے دعوے داروں سے معرکہ آرائی	۵۹
۹۹	مخروموں کے حصے سے روگرد گروہ سے معرکہ آرائی	۶۰
۱۰۰	کلام الہی اور حاکم اول	۶۱
۱۰۰	اس معاملے کی اہم سطور	۶۲

۱۰۱	روم و کسریٰ سے معرکہ آرائی	۶۳
۱۰۲	مہم ملک کسریٰ	۶۴
۱۰۳	ملک کسریٰ کے اہم حصے کی کامگاری	۶۵
۱۰۴	ملک روم کے اہم حصے کی لڑائی	۶۶
۱۰۸	وصال حاکم اول اور حاکم دوم کے لئے لوگوں سے رائے	۶۷
۱۱۳	مطالعہ سسر رسول، داماد علی، عمر مکرم (اللہ اس سے مسرور ہو)	۶۸
۱۱۳	اسم مسعود	۶۹
۱۱۳	مولودی سلسلہ	۷۰
۱۱۳	حاکم دوم کے گھر والے	۷۱
۱۱۳	عالم مادی کو آمد	۷۲
۱۱۳	رسول اللہ کا عطا کردہ اسم	۷۳
۱۱۴	دورِ لاعلمی کے احوال	۷۴
۱۱۴	مالی آسودگی کی راہ	۷۵
۱۱۴	رسول اللہ کی آمد اور عمر مکرم	۷۶
۱۱۵	سسر رسول عمر مکرم کا اسلام	۷۷
۱۲۰	وداع مکہ	۷۸
۱۲۱	معاہدہ ہمدردی	۷۹
۱۲۱	صدائے عماد اسلام کے لئے عمر مکرم کی رائے	۸۰
۱۲۲	معرکہ اور دوسرے احوال	۸۱
۱۲۲	معرکہ اول اور عمر مکرم	۸۲
۱۲۲	لڑائی کا اک اہم مرحلہ	۸۳
۱۲۳	محصوروں کے لئے عمر مکرم کی رائے	۸۴

۱۲۴	اللہ مالک الملک کا جہمکی والا کلام	۸۵
۱۲۴	معمورۃ رسول کے اسرائیلی گروہ سے معرکہ	۸۶
۱۲۵	معرکہ احد اور عمر مکرم	۸۷
۱۲۸	عمر مکرم کے لئے اک اہم اکرام	۸۸
۱۲۸	دوسرے اسرائیلی گروہ سے معرکہ	۸۹
۱۲۹	معرکہ موعدا اور عمر مکرم کا کردار	۹۰
۱۳۰	گمراہوں سے اک معرکہ اور عمر مکرم	۹۱
۱۳۰	مکاروں کے سردار کی مکروہ کلامی اور عمر مکرم	۹۲
۱۳۱	مکاروں کی عروس مطہرہ کے لئے مکروہ کاروائی اور عمر مکرم کی رائے	۹۳
۱۳۱	کھائی والا معرکہ اور عمر مکرم	۹۴
۱۳۱	معاهدۃ صلح اور عمر مکرم	۹۵
۱۳۴	اسرائیلی گروہ سے معرکہ اور عمر مکرم	۹۶
۱۳۵	معرکہ مکہ مکرمہ اور عمر مکرم	۹۷
۱۳۸	معرکہ وادی اوواطاس	۹۸
۱۳۹	معرکہ عسره	۹۹
۱۳۹	وصال رسول اور حال عمر	۱۰۰
۱۴۰	عمر مکرم، اسلام کے دوسرے حاکم	۱۰۱
۱۴۰	ملک کسریٰ اور دوسرے ملکوں کی کامگاری	۱۰۲
۱۵۰	کالی سواری والا معرکہ	۱۰۳
۱۵۴	اک اہم معاملہ	۱۰۴
۱۵۵	اک دوسری لڑائی	۱۰۵
۱۵۷	ملک جمص کے معرکہ	۱۰۶

۱۵۹	تحصص کی کامگاری	۱۰۷
۱۵۹	دارالمطہر کی کامگاری	۱۰۸
۱۶۰	عمر مکرم کا مرحلہ دارالمطہر	۱۰۹
۱۶۱	دوسرے معرکوں کے احوال	۱۱۰
۱۶۲	مصر کی کامگاری	۱۱۱
۱۶۲	گوانبی (رحلہ دارالسلام)	۱۱۲
۱۶۶	حصہ دوم	۱۱۳
۱۶۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو داماد	۱۱۴
۱۶۶	دہراداماد رسول اور ہمد علی (اللہ ہر دو سے مسرور ہو)	۱۱۵
۱۶۷	مطالعہ والدی عمر و رسول اللہ کا دہراداماد، اسلام کا حاکم سوم	۱۱۶
۱۶۷	مولودی سلسلہ	۱۱۷
۱۶۷	عالم مادی کو آمد	۱۱۸
۱۶۸	حاکم سوم کا اسلام	۱۲۹
۱۶۸	اک اہم کلام	۱۴۰
۱۶۹	دامادی رسول کا عالی اکرام	۱۴۱
۱۶۹	رحلہ اول	۱۴۲
۱۷۰	رحلہ دوم	۱۴۳
۱۷۱	ماء رومہ اور داماد رسول	۱۴۴
۱۷۲	معرکے اور دوسرے احوال	۱۴۵
۱۷۲	اسلام کا معرکہ اول اور اسلام کے حاکم سوم	۱۴۶
۱۷۳	دامادی رسول کا دہراداماد اکرام	۱۴۷
۱۷۳	معرکہ اعد	۱۴۸

۱۷۶	دوسرے معرکے	۱۲۹
۱۷۶	معاهدہ صلح اور حاکم سوم	۱۳۰
۱۷۷	حاکم سوم کے صلہ دم کے واسطے اہل اسلام کا رسول اللہ سے عہد	۱۳۱
۱۷۹	معرکہ عسره اور اسلام کے حاکم سوم کی داد و عطا	۱۳۲
۱۸۰	ہادی اکرم کا رحلہ و داغ اور رسول اللہ کا دہرا داماد	۱۳۳
۱۸۱	دہرے داماد رسول کی مدح سسر رسول سے	۱۳۴
۱۸۳	اسلام کے حاکم سوم کی درگاہ کا اول معاملہ	۱۳۵
۱۸۵	علو اسلام اور کامگاری کے احوال	۱۳۶
۱۸۶	اگلے سال کے معرکے	۱۳۷
۱۸۶	اہل روم سے معرکہ	۱۳۸
۱۸۷	اہل رے و ہمدان کی حکم عدولی	۱۳۹
۱۸۷	عسکر روم سے معرکہ اور کامگاری	۱۴۰
۱۸۸	مصر کے احوال	۱۴۱
۱۹۱	اک صحرائی ملک کی کامگاری	۱۴۲
۱۹۱	رومی لوگوں سے معرکہ	۱۴۳
۱۹۱	اک اور ملک کی کامگاری	۱۴۴
۱۹۲	سائر کی مہموں کے احوال	۱۴۵
۱۹۲	روڈس اور اس سے ملے ہوئے ملک کی کامگاری	۱۴۶
۱۹۴	والد موسیٰ کی معظلی	۱۴۷
۱۹۴	موسم احرام	۱۴۸
۱۹۶	اک حاکم کو کوڑے اور اس کی معظلی	۱۴۹
۱۹۷	اک کسروی ملک کی کامگاری	۱۵۰

۱۹۸	اک ہدم رسول کا حال	۱۵۱
۱۹۸	رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کی مہر	۱۵۲
۱۹۹	اس سال کے دوسرے احوال	۱۵۳
۲۰۰	کلام اللہ کا معاملہ	۱۵۴
۲۰۰	کسرتی کی بلا کی	۱۵۵
۲۰۱	دور مکارہ	۱۵۶
۲۰۳	ولد سوداء	۱۵۷
۲۰۵	ہدم طلحہ کی رائے	۱۵۸
۲۰۵	روگردوں کی مکروہ سعی	۱۵۹
۲۰۷	مخاصرہ	۱۶۰
۲۰۸	حاکم سوم کا روگردوں سے کلام	۱۶۱
۲۱۰	دل دادوں کی رائے	۱۶۲
۲۱۲	گواہی (رحلۃ دار السلام)	۱۶۳
۲۱۳	حاکم سوم کی گواہی اور اہل اسلام کا رد عمل	۱۶۴
۲۱۵	مطالعہ داماد رسول، مسلم اول، علی کرمہ اللہ	۱۶۵
۲۱۵	اسم واسرہ	۱۶۶
۲۱۵	ہدم علی کرمہ اللہ کے والد	۱۶۷
۲۱۶	والدہ علی کرمہ اللہ	۱۶۸
۲۱۶	عالم مادی کو آمد	۱۶۹
۲۱۶	رسول اللہ کی ہمراہی	۱۷۰
۲۱۷	اسلام	۱۷۱
۲۱۸	کئی دور	۱۷۲

۲۱۸	اہم امور کی حوالگی	۱۷۳
۲۲۰	وداع مکہ	۱۷۴
۲۲۱	علیٰ کرمہ اللہ کی دلدادگی	۱۷۵
۲۲۳	اللہ کے گھر کے معماری	۱۷۶
۲۲۴	معرکوں اور مہموں کے احوال	۱۷۷
۲۲۴	اسلام کا معرکہ اول اور ہمد علیٰ کرمہ اللہ	۱۷۸
۲۲۷	علم رسول	۱۷۹
۲۲۷	دامادی رسول کا عالی اکرام	۱۸۰
۲۲۹	معرکہ احد اور داماد رسول علیٰ کرمہ اللہ	۱۸۱
۲۳۰	اک اسرائیلی گروہ سے معرکہ	۱۸۲
۲۳۱	کھائی والا معرکہ	۱۸۳
۲۳۲	دوسرے اسرائیلی گروہ سے معرکہ	۱۸۴
۲۳۳	اولاد سعد کے لئے علیٰ کرمہ اللہ کی مہم	۱۸۵
۲۳۴	معاہدہ صلح اور داماد رسول علیٰ کرمہ اللہ	۱۸۶
۲۳۵	اسرائیلی گروہ سے اک اہم معرکہ	۱۸۷
۲۳۸	معرکہ مکہ کرمہ	۱۸۸
۲۴۰	مہم حسام اللہ اور علیٰ کرمہ اللہ	۱۸۹
۲۴۱	معرکہ وادی واوطاس	۱۹۰
۲۴۲	معرکہ عسره اور علیٰ کرمہ اللہ کا اکرام	۱۹۱
۲۴۳	ہمسائے ملک کے لئے مہم علیٰ کرمہ اللہ	۱۹۲
۲۴۳	گروہ طے کے لئے مہم علیٰ کرمہ اللہ	۱۹۳
۲۴۳	احکام الہی کی اطلاع رسائی	۱۹۴



۲۴۴	احرام الوداع اور علی کرمہ اللہ	۱۹۵
۲۴۵	رسول اللہ کا وصال مسعود اور علی کرمہ اللہ	۱۹۶
۲۴۶	حاکم اول ہمد مکرم اور علی کرمہ اللہ	۱۹۷
۲۴۶	ہمد مکرم سے علی کرمہ اللہ کا لگاؤ	۱۹۸
۲۴۷	عمر مکرم اور علی کرمہ اللہ	۱۹۹
۲۴۸	عہد عمر اور عہدہ علی کرمہ اللہ	۲۰۰
۲۴۸	اہم امور کے لئے علی کرمہ اللہ سے رائے	۲۰۱
۲۴۸	عمر مکرم کی ولی عہدی	۲۰۲
۲۴۸	علی کرمہ اللہ عمر مکرم کے سر	۲۰۳
۲۴۹	وصال عمر اور ولی عہدی کے لئے اسم علی کرمہ اللہ	۲۰۴
۲۴۹	عمر مکرم کی علی کرمہ اللہ کو داد و عطا	۲۰۵
۲۴۹	علی کرمہ اللہ کے مہوں سے عمر مکرم کے رسالہ اعمال کی مدح سرائی	۲۰۶
۲۴۹	لنجد عمر مکرم کے لئے علی کرمہ اللہ کی مددگاری	۲۰۷
۲۴۹	دو عمر کے واسطے علی کرمہ اللہ کا کلام	۲۰۸
۲۵۰	داماد رسول حاکم سوم اور علی کرمہ اللہ	۲۰۹
۲۵۰	اسرو کی واسطہ	۲۱۰
۲۵۰	حاکم سوم سے عہد	۲۱۱
۲۵۰	علی کرمہ اللہ، حاکم سوم کے مددگار	۲۱۲
۲۵۰	مخاصرہ حاکم سوم اور علی کرمہ اللہ کا کردار	۲۱۳
۲۵۱	حاکم سوم کی گواہی اور علی کرمہ اللہ کا رد عمل	۲۱۴
۲۵۱	حاکم سوم کے امور لنجد علی کے حکم سے	۲۱۵
۲۵۱	عہد طلوی	۲۱۶

۲۵۱	اول معاملہ	۲۱۷
۲۵۲	عمال و حکام کی معطلی	۲۱۸
۲۵۳	علیٰ کرمہ اللہ، محرومی کے ہاں	۲۱۹
۲۵۴	ہدمِ ظلیہ و ولد عوام کا نکلے کا ارادہ	۲۲۰
۲۵۴	عروسِ مطہرہ اصلاح احوال کے ارادہ سے ہمراہ ہوئی	۲۲۱
۲۵۵	اسی ملک کے لئے رحلہ علیٰ کرمہ اللہ	۲۲۲
۲۵۶	عروسِ مطہرہ کا اکرام	۲۲۳
۲۵۷	روگردوں مکاروں کی مکروہ کاروائی	۲۲۴
۲۵۷	سواری والا معرکہ	۲۲۵
۲۵۹	عروسِ رسول کا اکرام	۲۲۶
۲۶۰	سوئے معرکہ گاہ	۲۲۷
۲۶۱	مدعائے علیٰ و محرومی	۲۲۸
۲۶۱	اہل اسلام سے معرکہ دوم	۲۲۹
۲۶۲	صلح کے لئے علیٰ کرمہ اللہ کی اک اور سعی	۲۳۰
۲۶۲	اک ہدمِ رسول ہمراہی علیٰ کا معاملہ	۲۳۱
۲۶۳	دو جنگوں کا مسئلہ	۲۳۲
۲۶۳	الحکم للہ کی صدا	۲۳۳
۲۶۵	مراسلہ علیٰ کرمہ اللہ	۲۳۴
۲۶۵	محرومی کا کلام	۲۳۵
۲۶۶	الحکم للہ والوں کا معاملہ	۲۳۶
۲۶۶	عمدہ کلمہ کھوئی مراد	۲۳۷
۲۶۷	معرکہ آرائی سے اول	۲۳۸

۲۶۷	الحکم للہ والوں سے معرکہ	۲۳۹
۲۶۸	لوگوں کا وسوسہ اور اس کا حل	۲۴۰
۲۶۸	ملکی امور	۲۴۱
۲۶۹	کسروی روگردوں سے معرکے	۲۴۲
۲۷۰	مکہ اور معمورہ رسول	۲۴۳
۲۷۱	علی کریمہ اللہ و ملکوں کے اولوالامر	۲۴۴
۲۷۱	ولد ام اور ولد عم روٹھ گئے	۲۴۵
۲۷۲	گواہی علی کا حال	۲۴۶
۲۷۵	مرادی کا مال	۲۴۷
۲۷۵	امور لحد	۲۴۸
۲۷۶	سراسر کھوٹا کلام	۲۴۹
۲۷۶	اے اہل علم! رائے دو	۲۵۰
۲۷۶	اردوئے معرہ سے عام اردو کلمے	۲۵۱
۲۸۴	رسائل و مصادر	۲۵۲

اللہ کے اسم سے کہ وہ عمومی رحم و کرم والا ہے  
 حمد اللہ کے لئے، سلام رسول اللہ اور اس کے ہمدموں کے لئے  
 صدائے دل

رسولوں کے علاوہ اس عالم کے سارے لوگوں سے مکرم گروہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدموں کا ہے اور سارے ہمدموں سے سوا مکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے اور دو داماد ہے۔

رسول اللہ کے ہمدم، ہمراہی رسول کی رو سے اس اکرام کے حامل ہو گئے کہ سارے عالم کے لوگوں کے عمدہ اعمال اس اکرام کے آگے رات کی طرح رہے۔  
 مصلح اہل اسلام، امام احمد رحمہ اللہ کا کلام ہے:

”محال ہے کہ کوئی ولی کسی ہمدم رسول کا ہمسرہ ہو۔ ولی کامل، امام اہل اسلام؛ ولد عامر ڈرگاہ رسول سے دور ہے، اسی لئے محروم رہے کہ وہ کسی ہمدم رسول کے ہمسرہ ہوں۔“

اک عالم کہ اس کے اسم کی مراد ملوک اللہ ہے، اس سے کوئی سائل ہوا کہ ہم کو آگاہ کرو کہ محرر روجی، اہل اسلام کا ماتمکون، مکرم ہے کہ عمر دوم؟ کہا: ”وہ مٹی کہ محرر روجی کے گھوڑے کے موم کو لگی ہو اور محرر روجی رسول اللہ کے ہمراہ رہے ہوں، وہ مٹی ہی عمر دوم سے سوا مکرم ہے“۔  
 اے اہل اسلام! اک لمحہ ٹھہر کر دل سے دہراؤ کہ رسول اللہ کے ہمدموں کی اک وہ عماد اسلام ہے کہ رسول اللہ اس کے امام ہوئے ہوں، سارے عالم اسلام کی عماد اسلام اس کے

اصحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ۱۲ رسول اللہ کی صحبت۔ سی یعنی کمتر۔ ۱۳ امام ربانی مجدد الف ثانی۔ ۱۴ او ایس قرنی بن عامر نے رسول اللہ کا زمانہ پایا تھا مگر زیارت رسول سے محروم رہے۔ ۱۵ امام المجاہدین عبد اللہ بن مبارک۔ ۱۶ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ۱۷ عمر بن عبد العزیز عدل و انصاف کی بناء پر عمر ثانی کے لقب سے مشہور تھے۔ ۱۸ اختلاف امت اور صراط مستقیم ج: ۱۲۷ بحوالہ مکتوبات دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۰۷۔ ۱۹ نماز

مساوی ہو سکتے گی؟

وہ اکرام کہ رسول اللہ کے ہمدیوں کو معمولی سے طعام کے واسطے رسول اللہ کو مدعو کر کے حاصل ہوا، سارا عالم اسلام اگر کروڑوں درہم کا طعام اور کوہ کے مساوی طلائی مال اللہ کی راہ دے دے، کہو کہ وہ اس اکرام کو حاصل کر سکتے گا؟ اسی طرح دوسرے عمدہ اعمال کا معاملہ ہے۔

اس کے علاوہ رسول اللہ کے ہمدیوں کے گروہ کو وہ لامعدوم و لامحدود اکرام حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ کے مدرسے سے علم حاصل کردہ ہوئے اور رسول اکرمؐ، ہمدیوں کے معلم و ہادی ہوئے۔ اس گروہ کے لئے اطوارِ علم، مہذا اعلیٰ سے آئے، اس گروہ کے علم و عمل و اصلاح کی رکھوالی وحیِ مساوی سے ہوئی، اس عالی گروہ کے دلوں کے احوال، اللہ، علّام الاسرار کو معلوم رہے کہ ہر ہمدی رسول، کامل و اکمل، طاہر و مطہر ہے، اس لئے اس عالی گروہ کو اللہ کے ہاں سے:

”مسرور ہوا اللہ اس گروہ سے اور وہ اللہ سے“

کی اعلیٰ ڈگری عطا ہوئی، اس سے اطلاع ملی کہ وہ گروہ سارے عالم کے لوگوں کا امام، معلم اور مصلح ہوگا۔

مگر ملحدوں<sup>۱</sup> گمراہیوں کا اک ٹولہ سدا سے سماعی رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدیوں کو لوگوں کے آگے رسوا کرے اور کسی طرح لوگوں کو آگاہ کرے کہ ہمدیوں کا وہ عالی گروہ عام لوگوں کی طرح کا ہی ہے اور عام لوگوں ہی کی طرح اس گروہ سے معاصی کا صدور ہوا ہے۔ اس لئے ادھر ادھر کی معدوم سلسلہ راوی<sup>۲</sup> والی مروی اکٹھی کر کے عوام کے آگے لارکھی اور دعوے دار ہوا کہ وہ اس مسئلے کے لئے ہر طرح کے کھوٹ سے دور ہے، مگر سطحی دعوے کے علی العکس،

۱۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم۔ ۲۔ یہودی مستشرقین اس کام پر لگے ہوئے ہیں اور بزعم خود تاریخ کے منتشر کلاموں کو جوڑ کر ایک فرضی تصویریں تیار کرتے ہیں اور دنیا کو باور راتے ہیں کہ وہ پوری غیر جانب داری کے ساتھ اور کسی قسم کے تعصب کی آمیزش کے بغیر تاریخی حقائق دنیا کے سامنے لارہے ہیں۔ (اختلاف امت، ص: ۱۲۹) ۳۔ مجبول روایت۔

مخدوں اور گمراہوں کا ٹولہ ابہم مسلمہ اصولوں سے روگرداں اور اس طرح سے رائی کا کہسار کر کے رہا کہ اک معمولی سے معمولی علم والے کو معلوم ہوگا کہ زہ ٹولہ دل کا کھوٹا، ہمدوں سے حاسد اور عدو اسلام ہے۔

اک کھرے مسلم سے اس کی آس کہاں کہ وہ مخدوں اور گمراہوں کے ٹولے کو امام کر کے مکمل طور سے اس کی راہ لگے گا، مگر سوئے مال کہ کئی لوگ مخدوں اور گمراہوں کی راہ کے راہی ہوئے، حالاں کہ وہ اسلام کے دعوے دار رہے اور اس طرح کے کئی رسالے لکھ دئے کہ ہر اک رسالے کا مطالعہ کر کے عوام کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے ہمدوں کے اکرام سے مکمل طور سے عاری ہوں گے اور اہل مطالعہ کو لگے گا کہ اس رسالے کا محرر ہر طرح کے رکھ رکھاؤ سے کلی طور سے الگ ہے کہ کس طرح معمولی سے معمولی مسئلے کو کھول کھول کر لکھا ہے، مگر عوام اہل مطالعہ لا علم ہوں گے کہ اس رسالے کا محرر کس راہ کا راہی ہے؟ اور اس کا دل رسول اللہ کے ہمدوں کے حسد سے معمور ہے اور کس طرح اصل کلام سے مومن موڈ کر ادھر ادھر کے لا اصل ولا حاصل دلائل اور سلسلہ راوی سے معدوم کلام کا سہارا لے کر وہ اس راہی رسالے کا محرر ہوا ہے۔

اس طرح کے رسالوں کے محرروں اور مداحوں کا کلام ہے:

”مال کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے ہمد آدمی ہی رہے، ملائک کہاں کہ معاصی سے معصوم ہوں؟ اور معلوم ہے کہ ہمدوں سے مکروہ عملی اور معاصی کا صدور ہوا ہے، وہ کہاں کا اسلام ہے کہ دوسرے لوگوں کے معاصی کو معاصی کہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے ہمدوں کے معاصی کے لئے کہو کہ اس سے دور ہو کہ رسول اللہ کے ہمدوں کے معاصی کو معاصی کہو؟“

اس کا حل اس طرح ہے کہ معلوم رہے کہ اللہ علام الاسرار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے گروہ کے دلی احوال معلوم رہے اور معلوم رہا کہ ہر ہمد رسول آدمی ہی ہے اور وہ

معاصی سے معصوم کہاں؟ اور معلوم رہا کہ آگے اس گروہ سے کس کس طرح کی مکروہ عملی ہوگی، مگر سارے امور کا علم رکھ کر، اللہ علام الاسرار کے ہاں سے اس گروہ کو:

”اللہ مسرور ہو اس گروہ سے اور وہ مسرور ہو اللہ سے“

کا اہم اکرام عطا ہوا، اس سے اس عالی گروہ کی مکروہ عملی، عمدہ عملی ہوگئی۔ حالاً کس کے لئے روا ہے کہ وہ اس عالی گروہ کے لئے مکروہ کلامی کرے۔

کلام الہی سے معلوم ہوا کہ اللہ مالک الملک، رسول اللہ کے ہمدوموں سے سدا کے لئے مسرور ہوا۔

مگر حاسدوں، ملحدوں اور مگراہوں کا نولہ سوء مآلی کی رو سے محروم ہے کہ وہ اس عالی گروہ سے مسرور ہو، اس لئے وہ سماعی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے ہمدوموں کے معمولی سے معمولی مسئلے کو کوہ گراں کر کے لوگوں کو دکھائے کہ لوگوں کے دل ہمدوموں کے اکرام سے عاری ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے ہمدوموں کے آگے عام لوگوں کی طرح ہوں اور مدعی وہ رہا کہ کسی طرح اسلام کی اساس کھوکھلی ہو۔

معلوم رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے ہمدوموں کو اللہ کے ہاں سے وہ اکرام ملا ہے کہ اس اکرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے ہمدوموں کے عالم کے لوگوں کے امام، بادی، اور مصلح ہو گئے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے:

”لوگو! رسول اللہ کے ہمدوموں کی راہ لگو! اور اس گروہ کو مکرم رکھو!“

اور کہا:

”حرام ہے کہ کوئی اس عالی گروہ کی مکروہ عملی کو ٹٹولے، اگر کوئی اس طرح کرے گا وہ اللہ کے کرم سے دور ہوگا۔“

اہل علم کو معلوم ہوگا کہ کلامِ الہی اور کلامِ رسول کے کئی حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدموں کے ہمدموں کے اکرام کے لئے وارد ہوئے، اس لئے دل کہہ رہا ہے کلامِ الہی و کلامِ رسول سے وہ دس دس حصے ادھر لکھوں کہ وہ ہمدموں کے اکرام سے معمور رہے۔ اس سے اہل مطالعہ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدموں کا وہ گروہ کہ اس کے لئے مکروہ کلامی کر کے کئی لوگ دارالآلام کے راتنی ہوئے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کس طرح مکرم ہے۔

### ہمدموں کے اکرام سے معمور، کلامِ الہی کے حصے

۱..... رسول اللہ کے ہمدموں! عمدگی اور کمال والے ہو کہ لوگوں کی اصلاح کے لئے لائے گئے ہوئے۔

۲..... رسول اللہ کے ہمدموں! اللہ کے حکم سے اوسط روی والے ہو اور گواہ ہو گئے لوگوں کے لئے۔

۳..... محمد، اللہ کا رسول ہے اور وہ لوگ کہ ہم اپنی رسول رہے، وہ گمراہوں کے واسطے کڑے اور اک دوسرے کے لئے رحم والے رہے۔ معلوم ہوگا کہ وہ گاہے رکوع کر رہے ہوں گے اور گاہے اللہ کے آگے سر ٹکائے ہوں گے۔ وہ اللہ کے کرم اور آمادگی کے لئے ساعی ہوں گے۔ سر ٹکائی کا علم ہر کسی کے منہ سے دکھے گا۔

علماء کرام سے مروی ہے کہ کلامِ الہی کے اس حصے سے سارے ہمدموں کی مدح، اللہ

---

اَکْتُم خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. الْاٰیةُ (آل عمران: ۱۱۰) ۲. وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُوْنُوْا اَشْهَادًا عَلٰی النَّاسِ. الْاٰیةُ (البقرة: ۱۴۳) ۳. علامت۔ ۴. چہرہ۔

۵. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یتبتغون فضلاً من اللہ ورضواناً سیمامہم فی وجوہہم من اثر السجود. (التح: ۲۹) (مقام صحابہ، ص: ۳۳)



کے ہاں سے آگئی ہے۔

۴..... دل سے دہراؤ اس گھڑی کو کہ اللہ، رسول اکرمؐ اور اس کے ہمدوموں کو  
رسوائی سے دور رکھے گا!ؑ

۵..... اور وہ ہمدومؑ و مددگارؑ کہ اول اول اسلام لائے اور وہ لوگ کہ اللہ ہی  
کے لئے ہمدوموں اور مددگاروں کی راہ لگے، اللہ ساروں سے مسرور ہوا اور وہ  
سارے اللہ سے مسرور ہوئے۔ اللہ ساروں کو اس طرح کے گل کدے  
عطا کرے گا کہ وہاں ماءِ عطا ہر رواں ہوگا۔ؑ

۶..... اے محمد! کہہ دو! کہ اسی طرح کی ہے مری راہ، اللہ کے لئے عمدہ طور  
سے داعی ہوں، محمد اور اس کے مامورؑ۔

اور معلوم ہے کہ سارے ہمدوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مامور و محکوم رہے۔

۷..... اے محمد! کہہ دو! حمد اللہ ہی کے لئے ہے اور سلام والے وہ لوگ  
ہوئے کہ اللہ کے ہاں مکرم ہوئے (اور کہا) ہمارے حکم سے رسول اللہ کے  
ہمدوم کلام الہی کے مالک ہوئے کہ وہ اللہ کے ہاں مکرم رہے۔ کئی ہلاکی  
والے اعمال کے عامل ہوئے اور کئی اوسط روئی والے رہے اور کئی عمدہ عملی  
کی رو سے ساروں سے آگے ہو گئے، وہ اللہ ہی کا اعلیٰ کرم ہے۔ؑ

کلام الہی کا مسطورہ حصہ گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدوم اکرام

۱۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین امنوا معہ. الایة (التحریم: ۸) ۲۔ مہاجرین ۳۔ انصار۔

۴۔ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعواہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا  
عنه وأعد لهم جنت تجری من تحت الانهار. الایة (التوبہ: ۱۰۰)

۵۔ قل ہذہ سبیلی ادعوا الی اللہ علی بصیرة انا و من اتبعنی. الایة (یوسف: ۱۰۸) ۶۔ قل الحمد للہ  
وسلام علی عبادہ الذین الصطفی (النمل: ۵۹) اور: ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا  
فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات یأذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر

(الفاطر: ۳۲)

والے اور عمدگی والے رہے، اگر کسی ہمدِ رسول سے سوءِ عملی ہوئی، وہ اللہ کے کرم سے محو کر دی گئی، اس لئے کہ وہ اللہ کے ہاں مکرم رہے۔

۸..... وہی لوگ کھرے رہے۔<sup>۱</sup>

۹..... وہی لوگ کامگار و کامراں ہوئے۔<sup>۲</sup>

۱۰..... مگر اللہ کے حکم سے رسول اللہ کے ہمد، اسلام کے دلدادہ ہوئے

اور سارے ہمدوں کا اسلام سے دلی لگاؤ ہو اور اسلام سے روگردی، بڑائی

اور معاصی، ساروں کے لئے مکروہ ہو گئی، وہی لوگ اللہ کے کرم سے مہدی

ہوئے اور اللہ عالم و حاکم ہے۔<sup>۳</sup>

کلامِ الہی کا مسطورہ حصہ گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے سارے

ہمد، اسلام کو سدا گئے لگا کر رہے اور اسلام سے روگردی، بڑائی اور ہر طرح کے معاصی سے سدا

دور رہے۔

مسطورہ کلام، اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہر آدمی کے کئے ہوئے اور وہ اعمال کہ آدمی آگے

کرے گا، ساروں کا عالم ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمدوں کے

لئے اللہ کی آمادگی کا اعلام ہوا، اللہ اعلام الاسرار کو معلوم رہا کہ کس ہمدِ رسول سے کس طرح کے

اعمال صادر ہوں گے۔

محرر ”الصارم المسلول“ کا کلام ہے: اللہ اسی آدمی سے مسرور ہوگا کہ اس کے لئے

اللہ کو معلوم ہو کہ وہ آدمی ساری عمر اللہ کی آمادگی والے اصولوں کو تکمیل کرے گا اور وہ آدمی کہ اللہ

۱ أولئك هم الضّٰقون (الحشر: ۸) ۲ أولئك هم المفلحون (الحشر: ۹) ۳ أولئك هم

اليكّم الإيمان و زينة في قلوبكم و كره اليكّم الكفر و الفسوق و العصيان ، أولئك هم

الراشدون . فضلاً من الله و نعمه و الله عليهم حكيم . (الحجرات: ۷، ۸)

۳ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ”الصارم المسلول علی شاتم الرسول“

اس سے مسرور ہو، سدا مسرور ہی رہے گا۔

ہمدموں کے اکرام سے معمور، کلامِ رسول کے حصے

..... عمدہ دور، دورِ رسول ہے اور وہ دور کہ اس سے ملا ہوا ہے اور وہ دور کہ اس سے ملا ہوا ہے۔<sup>۱</sup>

اور معلوم ہے کہ دورِ رسول سے ملا ہوا دور، ہمدموں کا دور ہے۔

۲..... اس سے دور رہو کہ مرے ہمدموں کے لئے مکروہ کلامی کرو! اس لئے کہ اگر کوہِ احد کے مساوی طائنی مالِ اللہ کی راہ دو گے، مجروح رہو گے کہ مرے ہمدموں کی دی ہوئی اک مُد کہاں؟ آدھے مُد کے ہی مساوی ہو۔<sup>۲</sup>

اور لوگوں کو معلوم ہے کہ اک مرد و نولے کا مسلک ہی اسی طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدموں کے لئے گالی اور مکروہ کلامی اک عمدہ عمل ہے، اللہ اس نولے کے ٹکڑے کے ٹکڑے کرے اور اس کو ہر دو عالم کے ڈکھ دے۔ (اللہ اسی طرح کرے)

۳..... مرے ہمدموں کے معاملے کے لئے اللہ سے ڈرو! اللہ سے ڈرو! مری رحلہ کے آگے مرے ہمدموں کی روک ٹوک سے دور رہو! اس لئے کہ اگر کسی کو مرے ہمدموں سے لگاؤ ہے، مرے لگاؤ ہی سے لگاؤ ہے اور اگر کسی کو مرے ہمدموں سے حسد ہوگا، مرے حسد ہی سے حسد ہوگا،<sup>۳</sup> اگر کوئی مرے ہمدموں کو دکھی کرے گا، وہ ہم کو دکھی کرے گا اور وہ آدمی کہ ہم کو دکھی کرے گا، وہ اللہ کو دکھی کرے گا اور اگر کوئی اللہ کو دکھی کرے گا لا محالہ اس کو اللہ سے دکھوں والا صلہ ملے گا۔

۱۔ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلون ہم (صحاح - ۲) (بخاری و مسلم)

۲۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضامن بعدی، فمن احبہم فیحبی احبہ ومن ابغضہم فیبغضی ابغضہم ومن اذاہم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذای اللہ ومن اذی اللہ فیشک ان یاخذہ۔ (ترمذی)

۴..... اگر مسوع ہو کہ کوئی مرے ہمدموں کے لئے مکروہ کلامی کر رہا ہے، اسی لئے کہو: ”اللہ کرے مکروہ عملی والا مردود ہو۔“

۵..... دارالسلامؑ کے اکرام والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے اک ہمدم والد اعمودؑ کو معلوم ہوا کہ لوگوں کا داماد رسول علی کرمہ اللہ کے لئے مکروہ کلامی کا معمول ہے، کہا:

”دکھ کا لمحہ ہے کہ لوگوں کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کے لئے مکروہ کلامی ہو رہی ہے اور لوگ دم سادھے ہوئے اور روک ٹوک کے حوصلے سے محروم رہے۔“ اور کہا:

”آگاہ رہو! کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کا کلام ہے، مگر معلوم رہے کہ والد اعمود کو کہاں گوارا کہ کسی اس طرح کے کلام کو کلام رسول کہے کہ اس کلام کے لئے معاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم اس سے سائل ہوں؟ (مراد ہمدم رسول والد اعمود کی اس سے وہ رہی کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ کلام کہ کہوں گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم ہی کا کلام ہے) اس کے آگے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کا کلام ہے کہ ہمدم مکرمؑ، اسلام کا حاکم اول، دارالسلام والا ہے، عمر مکرم، دارالسلام والا ہے، رسول اللہؐ دہرا دامادؑ، دارالسلام والا ہے، علیؑ، دارالسلام والا ہے، ہمدم طلحہؑ، دارالسلام والا ہے، ولد عوامؑ، دارالسلام والا ہے، سعدؑ، دارالسلام والا ہے، عامرؑ، دارالسلام والا ہے، والد محمدؑ دارالسلام والا ہے۔

۱۔ إذا رأيتهم الذين يسيئون أصحابي فقولوا لعنة الله على شرکم (ترمذی) یعنی، یعنی وہ صحابہ جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی، اس طرح کے دس صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ۲۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ ان کے بیٹے کا نام اعمود ہے۔ ۳۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ۴۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ ۵۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ ۶۔ سیدنا سعد بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ۷۔ سیدنا ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ۔ ۸۔ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت ابوجمہ ہے۔

اس کے آگے والدِ اعمورک گئے۔ لوگ سائل ہوئے کہ دسواں آدمی کس اسم سے موسوم ہے؟ کہا: ”وہ والدِ اعمود ہے“ اور کہا:

”واللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کا رسول اللہ کے ہمراہ ہو کر معرکہ آرائی کا عمل کہ اس سے موں گرد آلود ہوں، اگر سارے عالم کے لوگوں کو آدم دوم کی عمر عطا ہو اور ہر آدمی ساری عمر عمدہ اعمال کرے، معلوم ہو کہ سارے عالم کے لوگوں کے اعمال سے ہمدموں کا عمل اعلیٰ ہی رہے گا۔“  
 ۶..... امام احمد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ولید مسعود کا کلام ہے: اگر کسی کا دل کرے کہ وہ کسی کی راہ لگے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کی راہ لگے، اس لئے کہ رسول اللہ کے ہمدموں کے دل ظاہر، علم گہرا، طبع گرمی اور رکھ رکھاؤ سے دور اور ہر طرح سے اعلیٰ رہے، وہ وہ گروہ ہے کہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ کی ہمراہی اور اعلائے اسلام کے لئے آمادہ رہا۔ لوگو! رسول اللہ کے ہمدموں کی راہ لگو کہ وہی لوگ راہِ ہدئی کے رہو رہے۔“<sup>۲</sup>

۷..... ولید مسعود سے مروی ہے کہ اللہ کا ارادہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں کو ٹٹولے، اس لئے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، محمدؐ کا دل سارے لوگوں کے دلوں سے عمدہ لگا، محمدؐ کو امیرِ وحی کا عہدہ عطا ہوا، اس کے آگے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کے دل سارے لوگوں

۱۔ سیدنا سعیدؓ نے اپنا نام بوجہ تواضع ذکر نہیں کیا تھا لوگوں کے اصرار پر ظاہر کیا۔ (مقامِ صحابہ، ص: ۴۷) حضرت سعید بن زیدؓ نے فرمایا: واللہ لمشہد رجل منہم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغیر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم ولو عمر عمر نوح۔ (ایضاً، ص: ۴۷) حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے فرمایا: من کان متأسیا فلیتأس بأصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانہم ابر ہذہ الامۃ قلوبا واعمقہا علما و اقلہا تکلفا واقومہا ہدیبا واحسنہا حالا، قوم اختارہم اللہ بصحبۃ نبیہ و امامۃ دینہ فاعرفوا لہم فضلہم واتبعوا آثارہم فانہم کانوا علی الہدی المستقیم۔ (ایضاً، ص: ۴۸)

کے دلوں سے عمدہ لگے، اس لئے سارے ہمد ہمراہی رسول اور مدد اسلام کے لئے طے ہوئے۔

۸..... رسول اکرمؐ کا کلام ہے کہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ، اللہ کے لئے مکرم ہوئے اور رسول اللہ کے ہمد رسول اللہ کے لئے مکرم ہوئے، کئی ہمد رسول اللہ کے صلاح کار ہوئے، کئی سسر اور کئی داماد ہوئے، اگر کوئی مرے ہمدوں کے لئے مکروہ کلامی کرے گا سو وہ اللہ اور اس کے رسول اور سارے لوگوں کے کرم سے محروم ہوگا اور معاد کو اس کا ہر عمل مردود ہوگا۔<sup>۲</sup>

۹..... رسول اللہ کا کلام ہے کہ لوگو! کئی طرح کے مکارہ کا مطالعہ کرو گے، اس لمحے عائد ہے کہ رسول اللہ اور اس کے ہادی و مہدی ہمدوں کے اطوار کے عامل رہو اور دور رہو کہ اسلام کے لئے بلیغ گری کرو! اس لئے ہر بلیغ گری گمراہی ہے اور ہر گمراہی راہ دار الالام ہے۔<sup>۳</sup>

۱۰..... رسولوں سے ہٹ کر اللہ کو سارے عالم کے لوگوں سے مرے ہمد عمدہ لگے اور مرے لئے مرے ہمدوں سے دو اور دو ہمد طے کئے، اسلام کا حاکم اول، حاکم دوم، حاکم سوم اور علی کریم اللہ اور مرے ہمدوں کے لئے کہا کہ سارے کے سارے عمدگی والے رہے۔<sup>۴</sup>

کلام اللہ اور کلام رسول سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمد،

۱۔ آپؐ نے فرمایا: إن الله نظر في قلوب العباد فنظر قلب محمد صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فاخترهم لصحبة نبيه ونصرة دينه. (مقام صحابہ، ص: ۲۹) ۲۔ ان الله اختارني واختار لي اصحابي فجعل منهم وزراء وَاختانا واصهار فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ولا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. (ايضا) ۳۔ بدعتي... إنه من عيش منكم فسيري اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ واياكم والبدعة.... الخ ۴۔ ان الله اختار اصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي من اصحابي اربعة يعني ابا بكر وعمر وعثمان وعلي فجعلم اصحابي وقال في اصحابي كلهم خير. (ايضا، بحوالہ مسند بزاز)

اللہ اور رسول کے ہاں کس طرح مکرم رہے، رسول اللہ کے ہمدموں کا گروہ عام لوگوں کی طرح کہاں؟ وہ سدا مکرم رہا، مکرم ہے اور مکرم رہے گا، اہل اسلام کا مسلک اسی طرح ہے اور وہی مسلمہ اصول ہے، اس لئے اگر کوئی مروی اس طرح کی ہو کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدموں کا اکرام کم ہو، سو وہ مروی اور اس کا راوی کلام اللہ اور کلام رسول کے آگے مردود ہوں گے۔

### اک مکروہ گو حاسد کی روئداد

لکھا ہے کہ اک گمراہ ٹولے کا عالم، طوسیٰ اک رسالے کا محرر ہوا اور اس رسالے کو اس طرح مکمل کر کے رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدموں کے لئے گالی لکھی، مرگ کے لئے اس مردود کے موں سے کھوٹے رسول کی طرح ٹٹی آئی، وہ لوگوں سے سائل ہوا کہ اس طرح کس لئے ہوا؟ اک اللہ والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدموں کا مملوک آگے ہوا اور کہا:

”او مردود! وہ وہی ٹٹی ہے کہ اس کو کھا کر رسالے کو مکمل کر کے مسرور ہوا“۔<sup>۱</sup>

اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدموں کے لئے مکروہ کلامی سے سدا دور رکھے۔  
(اللہ اسی طرح کرے)

۱۔ شیعوں کے عالم محقق طوسی نے اپنی کتاب تجرید العقائد کے آخر میں نعوذ باللہ صحابہ کرام پر تمرا کیا ہے۔ (اختلاف امت اور صراط مستقیم، ص: ۱۳۳) ۲۔ جھوٹے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کی موت وراثی ہیضہ سے ہوئی وقتی کی شکل میں دونوں راستوں سے نجاست خارج ہو رہی تھی، طوسی مردود کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا۔ (ایضاً)

۳۔ (ایضاً، ص: ۱۳۵)

## حاصلِ کلام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے ہمدم، وحی الہی کے اول سامع ہوئے، رسول اللہ کے ہمدموں کا کردار، کردارِ رسول ہی کا اک حصہ ہے۔ ہمدموں کا طور و کردار، رسول اللہ کے امر و وحی کے لئے دال ہے اور وہ آگے کے سارے لوگوں کے سردار، امام، معلم اور مصلح ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم، امر اسلام ہمدموں کے حوالے کر کے دار اسلام کو راہی ہوئے اور آگے کے لوگوں کو کلامِ الہی، کلامِ رسول اور دوسرے اسلامی علوم رسول اللہ کے ہمدموں کے واسطے سے ہی ملے، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے ہمدموں سے لگاؤ، دراصل رسول اللہ ہی سے لگاؤ ہے اور ہمدموں سے حسد، دراصل رسول اللہ سے حسد ہے۔ ہمدموں سے لگاؤ اسلام کا حصہ ہے اور ہمدموں کے لئے مکروہ کلامی اسلام سے محرومی کا واسطہ ہے اور ہمدموں کے کھڑاؤں کی مٹی ہر دو عالم کے اکرام کے کمال کے حصول کا واسطہ ہے، اگر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم سے معمولی سا لگاؤ ہوگا، وہ لامحالہ رسول اللہ سے لگاؤ والے آدمی سے لگاؤ رکھے گا۔

الحاصل گمراہوں اور حاسدوں کے ٹولے اور اس کے آلہ کاروں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کے لئے مکروہ کلامی کا مطالعہ کر کے دل دکھا، ارادہ ہوا کہ رسول اللہ کے دوسرے اور دواماد کے احوال کا حامل اردو کا اک اس طرح کا رسالہ لکھوں کہ وہ ”ہادی عالم“ کے اکرام کا حامل ہو اور ہر کوئی لامحالہ اس کا مطالعہ کرے اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کے دلدادہ ہوں اور لوگوں کے دل رسول اللہ کے ہمدموں کے اکرام سے معمور ہوں، مگر احساس ہوا کہ اک عاصی، معدوم العلم والعمیل

۱۔ جوتے۔ ۲۔ ”ہادی عالم“ جناب محمد ولی رازی صاحب کی غیر منقوٰط کتاب ہے جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی۔ زیادہ تر اصلاحات اور خلفائے راشدین کے غزوات کے احوال ہادی عالم سے ہی ماخوذ ہیں۔



آدمی کے لئے کہاں بہل ہے کہ وہ اس امر محال کا ارادہ کرے؟ ہاں! کلامِ الہی کے اک حصے اور رسولِ اکرمؐ کے ہمدموں سے معمولی لگاؤ سے حوصلہ ہوا۔ کلامِ الہی ہے ”اور آدمی کو وہ مل کر رہے گا کہ اس کے لئے آدمی کی سعی ہوگی۔“

اس لئے اس عاصی کو حوصلہ ہوا کہ وہ اس راہ کے کوہ ہائے گراں اور ہر ہر گام ٹھوکروں سے معمور اور کئی کئی طرح کی روکاؤں سے مسدود گھائی کو سر کرے۔

الحمد للہ! اللہ کا کرم ہوا کہ وہ لمحہ آ کے رہا کہ اس رسالے کی لکھائی کا کام مکمل ہوا۔

اللہ کا کرم ہے کہ اس عاصی کا دل اس امر سے کمال مسرور ہو رہا ہے کہ اس کا اسم، رسالہ ”دوسرے دو داماد“ کے واسطے سے رسولِ اکرمؐ کے ہمدموں کے احوال کے محضروں کے ہمراہ آئے گا۔

اہلِ مطالعہ کو آگاہی ہو کہ ہم کو اس رسالے کی لکھائی کے لئے علمائے اسلام کے کئی رسالوں سے مواد ملا ہے مگر رسالہ ”ہادیٰ عالم“ اس رسالے کے لئے اہم مصدر رہا۔

اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس رسالے کی لکھائی کو وصول کر کے اس کے محضر کے لئے صلہٴ مسلسل کر دے۔ اور اللہ ہر کسی کو اس سے دور رکھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدموں کے لئے لکھ کر، کہہ کر اور دل سے مکر وہ کلامی کا عامل ہو۔

اہلِ علم کو رسالہ ”دوسرے دو داماد“ کا مطالعہ کر کے اگر کسی محل کوئی سہود کھائی دے، محضر کو اس سے آگاہ کر کے اس کی دعاؤں کے حصہ دار ہوں۔

سائل دعا

رسول اللہ کے ہمدموں کا مملوک

”والدِ محمد“

سوموار، دس مئی، سال اٹھارہ سوار دو سو دس

حمد اللہ کے لئے، سلام رسول اللہ اور اس کے ہمدموں کے لئے

## حصہ اول

رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے

دوسرے

ہمد مکرّم اور عمر مکرّم

(اللہ ہر دو سے مسرور ہو)

کے احوال کا حائل ہے

اللہ کے اسم سے کہ وہ عمومی رحم و کرم والا ہے

### مطالعہ

سسر رسول، مسلم اول، والد اسماء، ہمد مکرّم، اسلام کا حاکم اول، سردار دار السلام، وار و اول دار السلام، ماہ عالم، مہر عالم، سمع رسول، رسول اللہ کے دکھ درد کا حصہ دار، اساس علم، ہمد رسول، ہمراہی کھوہ، حامی رسول، ارحم عالم، صالح عالم، دلارائے رسول، ہمراہی ماء اعلیٰ، امام ملائک، حرّ دار الآلام، مملوک اللہ، ولد ولد عامر صلاح کار رسول محمود رسول،

۱۔ آپ رضی اللہ عنہ مریدہ لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لائے (تاریخ الخلفاء، ص: ۱۳۹) ۲۔ اسماء رضی اللہ عنہا آپ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام ہے۔ ۳۔ (بادی عالم، ص: ۷۳) ۴۔ ایضاً ۵۔ حدیث میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ معمر جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ ۶۔ آپ رضی اللہ عنہ ساری امت کے لوگوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ (ابوداؤد) ۷۔ دنیا کا چاند۔ ۸۔ دنیا کا سورج۔ ۹۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر (رضی اللہ عنہما) میرے کان اور آنکھ ہیں۔ (ترمذی) ۱۰۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر دکھ و درد میں آپ ﷺ کے ساتھ شریک رہے۔ ۱۱۔ آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اس کی بنیاد ہے۔ ۱۲۔ رسول اللہ کا ساتھی۔ ۱۳۔ یار غار (ترمذی) ۱۴۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ رسول اللہ ﷺ کی حمایت کی (متفق علیہ) ۱۵۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے۔ (ترمذی) ۱۶۔ آپ رضی اللہ عنہ سارے عالم میں زیادہ صالح تھے۔ (ترمذی) ۱۷۔ بلاشبہ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے پیارے تھے۔ (ترمذی) ۱۸۔ آپ رضی اللہ عنہ حوض کوثر پر بھی حضور ﷺ کے ساتھ ہوں گے۔ (ترمذی) ۱۹۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا تو فرشتوں نے بھی اقتداء کی اور ٹاٹ کا لباس پہنا۔ (تاریخ الخلفاء) ۲۰۔ آپ کا لقب عتیق یعنی جہم سے آزاد تھا۔ ۲۱۔ یہ عبد اللہ کا منہوم ہے اور عبد اللہ آپ رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ ۲۲۔ عامر آپ کے دادا کا نام ہے۔ (سیر الصحابہ) ۲۳۔ آپ ﷺ اکثر و بیشتر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے رائے لیتے تھے۔ (ترمذی) ۲۴۔ آپ ﷺ نے کئی مواقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی۔ (ترمذی)

مددگار رسولؐ دلدادہ رسولؐ، داعی اولؐ، رسول اللہؐ کا ہم عمرؑ (اللہ اس سے مسرور ہو)

## سسر رسول کا اصل اسم

سسر رسول، مسلم اول (اللہ اس سے مسرور ہو) کے اصل اسم کی مراد، مملوک اللہ ہے۔

## عالم مادی کو آمد

سسر رسولؐ کی اس عالم مادی کو آمد سرور عالمؐ سے دو سال کنی ماہ ادھر ہوئی۔

## مولودی سلسلہ

سسر رسولؐ کا مولودی سلسلہ ہادی اکرمؐ کے مولودی سلسلے کے عدد آٹھ، ۸ مرہ سے

ملا ہوا ہے۔

## رسول اکرمؐ کے عطا کردہ اسماء

سرور عالمؐ کے اسماء سماویؑ کے احوال کو سارے لوگوں سے آگے صادر کر کے سسر

رسولؐ کو اک اہم اسم، رسول اکرمؐ سے ملا کہ اس کی سرحد عہدہ رسولؐ کی سرحد سے ملی ہوئی

ہے۔<sup>۱۳</sup>

۱۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے مال و جان سے سدا آپؐ کی مدد کی۔ متفق علیہ۔ ۲۔ آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ آپؐ پر مرٹنے

کو تیار تھے۔ (تاریخ اہلخفاء) ۳۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مسلمان ہوتے ہی دعوت کا کام شروع فرمادیا تھا۔ (سیر صحابہ)

۴۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہؐ کے ہم عمر تھے۔ (داعی اسلام) ۵۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عبد اللہ اور کنیت ابو بکرؓ ہے۔

۶۔ (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۲۷)۔ بے شجرہ نسب۔

۷۔ آپؐ کی آٹھویں پشت مطابق چھٹی پشت) میں ایک نام مرہ ہے، ان کے دو فرزند کلاب اور تیم تھے، کلاب کی

اولاد سے آنحضرتؐ اور تیم کی اولاد سے سیدنا صدیق اکبرؓ ہیں۔ ۹۔ معراج۔ ۱۰۔ تصدیق کرنا۔ ۱۱۔ صدیق۔

۱۲۔ نبوت۔ ۱۳۔ صدیق کے معنی ہیں بہت سچا اور شریعت میں ایک خاص مرتبہ ہے جس کی سرحد نبوت کی سرحد سے ملی

ہوئی ہے۔ (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۲۷)

## دوسرا اسم

عروس<sup>۱</sup> مطہرہ سے مروی ہے کہ سرور عالم سے اک دوسرا اسم ”حردار اللآلام“<sup>۲</sup>  
والد مکرم کو عطا ہوا۔

## سسر رسول کے والد

مسلم اول سسر رسول کے والد، ولد عامر، صلحائے اہل مکہ سے رہے اور حد سے سوا<sup>۳</sup>  
معمر! اس دور کے ہر معمر آدمی کو اول اول اسلام لہو معلوم ہوا، اسی طرح سسر رسول کے  
والد کو لگا کہ اس کا لڑکا رومی کام کر رہا ہے۔<sup>۴</sup>

مسلم اول کے والد، اسلام سے محروم رہے اور والد، دادا کے مسلک کو دل سے لگائے  
رکھا کہ معرکہ مکہ مکرمہ ہوا اور عسکر اسلام کو کامگاری حاصل ہوئی۔

مسلم اول، والد مکرم کو ہمراہ لے کر رسول اکرم کے آگے آئے۔ سرور عالم کے لمس<sup>۵</sup> سے ”لا الہ  
الا اللہ محمد رسول اللہ“ کہہ کر اسلام لائے۔

سرور عالم اور سسر رسول، مملک عدم سے دارالسلام کے لئے راہی ہو گئے، مگر ولد عامر اس عالم  
مادی کو معمور کئے رہے، مال کار، ماہ محرم الحرام اسلامی صدی کے دو کم سولہ سال<sup>۶</sup> کو، سہ کم سو سال  
اس عالم مادی کی عمر مکمل کر کے راہی ملک عدم ہوئے۔

۱۔ عقیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عتیق۔ آگ سے آزاد اس الوقافہ عثمان بن عامر ۷۷ زیادہ۔

۲۔ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ تو میں آپ کی تلاش میں صدیق اکبر کے گھر آیا وہاں ابو قحافہ موجود تھے انہوں نے  
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس طرف سے گزرتے دیکھ کر نہایت برہمی سے کہا کہ ان بچوں نے میرے لڑے کو خراب  
کر دیا۔ ۳۔ چھوٹا، آپ ﷺ نے نہایت شفقت سے ابو قحافہ کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کلمات طیبات کی تلقین کر کے  
مشرف باسلام فرمایا۔ ۴۔ ان کی وفات آنحضرت اور صدیق اکبر کی رحلت کے بعد ۱۳ھ ستانوے سال کی  
عمر میں ہوئی۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۱)

## سرسر رسول، حاکمِ اول کی والدہ

سرسر رسول، حاکم اول کی والدہ مکرمہ کا اسم سلتی ہے، اس کو کمال حاصل ہے کہ وہ اول اول اسلام سے مالا مال ہوئی۔ اس کے اسلام کا حال اس طرح ہے کہ سرسر رسول حاکمِ اول والدہ مکرمہ کو ہمراہ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی ورود گاہ، دار کوہ آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! مری والدہ آئی ہے، اس کو کہو کہ اسلام لے آئے!

رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا اس کو امر اسلام ہوا وہ اسی دم اسلام لائی۔ ولد عامر کی طرح معمر ہوئی، مگر اس سے آگے ہی راہی ملک عدم ہوئی۔

### دورِ لاعلمی کے احوال

سرسر رسول حاکم اول، دورِ لاعلمی کو اہل مکہ کے مردِ صالح، حوصلہ ور اور سارے اسرہ سے مکرم رہے، وہ اک مالدار سوداگر رہے، عمدہ راہ روی و ہمدردی، صلہ رحمی و درودنی، سادگی و عطا، علم و عدل، ہمسائے سے عمدہ سلوک اور اس طرح کے دوسرے اعمالِ صالحہ اور اطوارِ محمودہ کے مالک ہو کر سارے لوگوں کے ہاں مکرم و ممدوح ہوئے۔ معاملہ کسی کی ہلاکی کا ہو کہ مالِ دم کا، سرسر رسول حاکم اول اس طرح کے ہر مسئلے کے واسطے مسلمہ حکم رکھے۔ دورِ لاعلمی اور دورِ اسلام کو وہ مائے سکر سے دور رہے، ساری عمر مٹی کے گھڑے ہوئے الہوں کے آگے سر نکائی سے دور ہے، مولودی سلسلہ کے سارے لوگوں سے سوا عالم اور ماہر کلام رہے۔

سرسر رسول حاکم اول کو اول ہی سے سرورِ عالم سے دلی لگاؤ رہا، اس لئے وہ رسول اللہ صلی اللہ کے اہم لوگوں سے ہو گئے۔ رسول اکرم کے رحلہ سوداگری کے لمحے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ

۱۔ ان سے پہلے صرف اتالیس اصحابِ مسلمان ہوئے تھے (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۱)۔ ۲۔ دار کوہ (ہادی عالم ص: ۲۱۳)۔  
 ۳۔ زمانہ جاہلیت۔ ۴۔ خاندان۔ ۵۔ اخلاق حسد۔ ۶۔ خون بہا۔ ۷۔ فیصلہ کرنے والا۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۱)۔ ۸۔ سیرت خلفائے راشدین، ص: ۱۹)۔ ۹۔ شراب۔ ۱۰۔ پتھر کے بنائے ہوئے بت۔

وسلم کی ہمراہی کا کمال حاصل رہا، رسول اکرمؐ کم عمری کے لمحے والد علی کے ہمراہ اس ملک سو داگری کے واسطے آمادہ ہوئے کہ وہ ملک صد ہا رسولوں کی آرام گاہ ہے، اس لمحے سر رسولؐ حاکم اول، اک مملوک اور عمدہ طعام رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے واسطے لائے۔ صالح مکہ، عروس مکرمہؑ کی ہادی اکرمؐ سے عروسی کے لئے سر رسولؐ حاکم اول سماعی رہے۔

### دور اسلام کے احوال

ہادی عالم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کو امر جی کا عہدہ اعلیٰ عطا ہوا اور وہ سری طور سے لوگوں کے واسطے راہ ہدئی کے داعی ہوئے، سر رسولؐ حاکم اول، کئی سال سے رسول اللہ کے ہمدم رہے اور رسول اللہ کے گھر اس کی آمد رہی، رسول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے اللہ کا حکم معلوم ہوا، دل سے اسلام کے لئے آمادہ ہوئے اور اسی دم اسلام لا کر مسلم اول ہوئے۔

ہادی اکرم کا کلام ہے:

”سارے لوگ اول اول اسلام کے امر سے رکے اور ڈرے مگر ہمدم مکرم کہ ہر کاوٹ اور ہر ڈر سے دور رہے اور اسی لمحے اسلام لا کر رسول اللہ کے ہمدم ہوئے اور مسلم اول کہلائے۔“

گو کہ اہل علم کی کئی طرح کی رائے ہے کہ مسلم اول کا کمال کس کو حاصل ہے؟ کئی لوگوں سے مروی ہے کہ عروس مکرمہ اول اسلام لائی اور کئی علماء کی رائے ہے کہ اول اول داماد رسولؐ علی کریم اللہ اسلام لائے۔ کئی اہل علم کی رائے ہوئی کہ ولد رسولؐ مسلم اول ہے۔ اور کئی علماء کا دل ادھر مائل ہے کہ سر رسولؐ حاکم اول ہی کو مسلم اول کا کمال حاصل ہے۔

۱۔ ملک شام (ہادی عالم ص: ۵۳) ۲۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلالؓ کو کرایہ میں لے کر آپؐ کی خدمت کے لئے ساتھ بھیجا اور روٹی اور زیتون کا تیل ہدیہ دیا۔ (سیرت خاندانے راشدین ص: ۲۹) ۳۔ حضرت خدیجہ الکبریٰؓ۔ ۴۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۱) ۵۔ پوشیدہ۔ ۶۔ (تاریخ الخلفاء، ص: ۱۳۸) ۷۔ (ہادی عالم ص: ۷۳) ۸۔ زید بن حارثہ۔

اور ماہر کلام، مداح رسولؐ اسی رائے کا ہم رائے ہے۔ اس کا کلام ہے:

”اگر کسی کھرے ولدِ امؑ کا دکھ محسوس کرو، اس لمحے ولدِ ام، حاکمِ اول کا احساس کرو، اس کے عمدہ کاموں کی رو سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے لوگوں سے عادل اور اللہ سے ڈر کر اعلیٰ ہوا اور وہ عہدہ کہ اس کو عطا ہوا اس سے مکمل ہوا، وہی دوسرا ہے اور رسول اکرمؐ سے ملا ہوا ہے اور دکھ درد کے لمحے، ہمراہی رسول کی رو سے اس کی حمد کی گئی اور وہی مردِ اول ہے کہ رسول اس سے صادؑ ہوئے!“

مگر ماہر علماء کرام سے اس ساری کلام کا حل اس طرح مروی ہے کہ عروسِ مکرمہ ہر لڑکی سے اول، داماد رسولؐ علی کریمؑ اللہ سارے کم عمر لڑکوں سے اول اور ولد رسولؐ سارے مملوکوں سے اول اور حاکمِ اول سارے معمر لوگوں سے اول اسلام لائے۔

### اعلائے اسلام

اسلام لاکر مسلمِ اول سب رسولؐ اعلائے اسلام کے لئے سماعی ہوئے، اور اس کی سعی سے کئی لوگ سوئے اسلام مائل ہوئے۔

حضرت حسان بن ثابتؓ، بھائیؓ تصدیق کرنے والا صحیح حضرت حسان بن ثابتؓ کے اشعار یہ ہیں اذا تذكرت  
شجوا من اخي ثقة. فاذا ذكر اخاك ابا بكر بما فعل. خيرا بربه اتقاها واعد لها. بعد النبي  
واوفاها بما حملا. والثاني التالي المحمود مشهده. واول الناس منهم صدق المرسل (فتح الباری ج  
۷ ص ۱۳۰)۔ حضرت شیخ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفاء میں اس جگہ ایک نفیس نقطہ لکھا ہے، فرماتے ہیں: اولیت  
اسلام محض اس لئے فضیلت ہے کہ جو سب سے پہلے اسلام لایا ہوگا اس کو رسول خداؐ کے مصاحب میں شرکت کا موقع زیادہ  
ملا ہوگا نیز وہ دوسروں کے اسلام کا سبب بنا ہوگا یہ دونوں باتیں ان چاروں میں سے حضرت صدیقؓ کے ساتھ مخصوص  
تھیں (سیرت خاندانے راشدین، ص: ۳۰)



اسلام کا دور اول دکھوں اور رکاوٹوں کا دور ہے، اس لمحے آدمی کے لئے مجال رہا کہ وہ

اسلام کا مدعی ہو۔

سرسر رسول مسلم اول اس کڑے دور کو سدا اسلام کے لئے ساعی رہے اور اس کی مساعی سے ولد عوام<sup>۱</sup>، ہمدم طلحہ<sup>۲</sup>، ہمدم سعد<sup>۳</sup>، اسلام کے حاکم سوم، رسول اللہ کا دہرا داماد<sup>۴</sup> اور والد محمد<sup>۵</sup> اسلام لائے۔ عروس مکرمہ کے علاوہ کل آٹھ ہمدم اسلام لائے۔

اول اسلام والوں کا حال اس لئے اہم ہے کہ وہ دوسرے اہل مکہ سے سوا مکرم اور مسعود ہے، اس سے گمراہوں کی کمر ٹوٹی اور اسلام کی اساس<sup>۶</sup> محکم<sup>۷</sup> ہوئی اور کلام الہی سے

آج بھی اغیار کیلئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کا اسلام رسول خدا کی صداقت کی بہترین برہان ہے۔

چنانچہ میور صاحب سابق گورنر صوبہ متحدہ کی کتاب لائف آف محمد<sup>۸</sup> سے چند فقرات نقل کئے جاتے ہیں یہ متعصب یورپ کا عیسائی لکھتا ہے:

آپ کا عہد خلافت مختصر تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی ایسا نہیں ہوا جس کے اسلام کو ان سے زیادہ ممنون اور مرہون احسان ہونا چاہئے چونکہ ابو بکرؓ کے دل میں رسول اکرمؐ کے خلوص اور راسخ طور پر متمکن تھا اور یہی عقیدہ خود رسول اکرمؐ کے خلوص اور سچائی کی ایک زبردست شہادت ہے لہذا میں نے آپ کی حیات و صفات کے تذکرے کے لئے کچھ جگہ زیادہ وقف کی ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء سے اپنے کذاب ہونے کا یقین ہوتا تو وہ کبھی ایسے شخص کو دوست اور عقیدت مند نہ بنا سکتے جو نہ صرف دانا اور ہوشمند تھا بلکہ سادہ مزاج اور صفائی پسند بھی تھا۔ ابو بکر کو نفسانی عظمت و شوکت کا کبھی خیال نہ آیا نہیں شاہانہ اقتدار حاصل تھا اور بالکل خود مختار تھے مگر وہ اس طاقت و اقتدار کو اسلام کی بہتری اور فائدہ پہنچانے میں لایا کرتے، ان کی ہوشندی اس امر کی مقتضی نہ تھی کہ وہ خود فریب کھالیں اور وہ خود ایسے متدین تھے کہ کسی کو دھوکا نہ دے سکتے تھے۔ منقول از آیات مینات حصہ فدک۔ (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۳۱)

۱ حضرت زبیر بن عوامؓ ۲ حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ ۳ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ ۴ حضرت عثمان بن عفانؓ۔

۵ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت ابو جعد ہے۔ (سیر الصحابہ، ج ۱، ص: ۲۲) ۶ بنیاد۔ ۷ منظوم۔

سارے، اول اسلام ہمدوں کے واسطے گواہی آئی۔

کھلم کھلا اعلیٰ اسلام کے علاوہ سسر رسول، حاکمِ اول سری طور سے اعلیٰ اسلام کے لئے سارے لوگوں سے اول، گھر کے آگے اللہ کے گھر کے معمار ہوئے، ہر سحر اللہ کے اس گھر کو رو رو کے کلام الہی کی صداؤں سے معمور رکھا۔ اک کلام الہی، دوسرے مسلم اول سے اس کی ادائے گی، اللہ اللہ! ہر آدمی اس کو مسموع کر کے مسرور و مسحور ہو رہا۔

### مکی دور

رسول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کو عہدہ اعلیٰ عطا ہوا، رسول اللہ اعلیٰ اسلام کے لئے دس اور سہ سال ساعی رہے، مکہ کے گمراہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے عدو ہو گئے اور ہر گام تلے ردو کد تلے اور لڑائی کا سلسلہ ہوا، مگر سسر رسول، حاکمِ اول، روح و دل، مال و رائے ہر طرح سے سدا رسول اللہ کے ہمراہ رہے اور دکھ درد کے ہدم ہوئے، حاکمِ اول کا گھر ہر سحر رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی رو و گاہ رہا اور اہم امور کے واسطے دارالرائے تلے ہوا۔

اہم اہم لوگوں کے گروہوں کے ہاں رسول اللہ کو ہمراہ لے کر اعلیٰ اسلام کے لئے گئے، کئی لوگوں کو حاکمِ اول کے واسطے سے معلوم ہوا کہ محمد، اللہ کا رسول ہے۔

۱ (ہادی عالم، ص: ۷۳) بح مسجد، ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کے آگے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی تھی اسلام میں یہ سب سے پہلی مسجد تھی آپ اس میں تلاوت قرآن فرماتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے لوگ آپ کے گریہ و بکا دیکھ کر جمع ہو جاتے اور اس پر اثر منظر سے نہایت متاثر ہوتے، (بخاری باب الحجرة النبوی واصحابہ الی المدینہ، ہیرت خلفائے راشدین، ص: ۳۳، سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۳) سہ قدم سے روک نوک۔ ۵ اترنے اور آنے کی جگہ۔ لا مشورے کی جگہ، آنحضرت روزانہ صبح و شام حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے جاتے اور دیر تک مجلس راز قائم رہتی۔

۲ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۳، خلفائے راشدین، ص: ۳۳)

وہ لوگ کہ اول اول اسلام لائے وہ کئی گمراہ سرداروں کے مملوک رہے، ہر ہر مملوک کا گمراہ مالک اس کی رسوائی اور الم رسائی کے لئے ساعی رہا، مملوک اہل اسلام سرعام رسوا کئے گئے، دھمکائے گئے، کوڑوں سے مارے گئے اور ہر طرح کے آرام سے محروم کئے گئے۔

حاکم اول کو اس حال کا مطالعہ کر کے ملال ہوا، وہ مملوکوں کی رہائی کے واسطے ساعی ہوئے اور کئی مملوکوں کو ممول لے کر دکھ درد سے رہائی دی۔<sup>۱</sup>

اگر کسی لمحے مکہ مکرمہ گمراہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کو الم رسائی کے لئے آمادہ ہوئے، اسی لمحے سسر رسول حاکم اول رسول اللہ کے لئے ڈھال ہو گئے اور ہر دکھ کو سہہ گئے۔

اک سحر کو ہادی اکرم مکہ آ کر دار اللہ کے آگے کھڑے ہوئے اور صدادی:  
 ”اللہ واحد ہے، وہی الہ ہے۔“

اہل مکہ اس صدا سے کھول اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے گرد آ کر حملہ آور ہوئے اور اس طرح مارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کو اس کھو گئے۔<sup>۲</sup>

حاکم اول آگے آئے اور گمراہوں سے کہا:

”اللہ گمراہوں کو رسوا کرے، اس آدمی کو اس لئے مار دو گے کہ وہ اللہ کا موحد ہے“<sup>۳</sup>

اسی طرح اک سحر اللہ کا رسول دار اللہ کو عماد اسلام سے معمور کئے رہا کہ اک لاعلم اور گمراہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے گلے کو رو و مال ڈال کر کسا، سسر رسول حاکم اول کو اس حال کی اطلاع ہوئی، وہ آئے اور اس گمراہ کا گلام روڑا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ

۱۔ ان میں سے سات کے نام یہ ہیں: حضرت بلال، عامر، ہبیرہ، فہیرہ، زبیرہ، ام جس بنی موہب کی ایک کثیر رضی اللہ

تعالیٰ عنہم اجمعین (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۳۲، بحوالہ ازالۃ الخفاء) ۲۔ سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۳، ۲۴

۳۔ ایضاً، یہ گویا آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کی ترجمانی کی: اتقتلون ورجالان یقول ربی اللہ

وقد جاءکم بالبینات۔ (سورہ مؤمن۔) ۵۵ عقبہ بن معیط (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۳)

علیٰ کل رسدو سلم سے دور کر کے وہی کلمے کہے:

”اس آدمی کو اس لئے مار دو گے کہ وہ اللہ کا موحد ہے؟ اور وہ لوگوں کے لئے کھلے اعلام لائے۔“

## حاکم اول کے لئے اک اہم اکرام

مکی دور کو حاکم اول کی لڑکی شُعر و س رسول ہوئی اور وہ عروس رسول، رحلہ رسول کے دو سال ادھر رسول اللہ کے گھر آئی۔ اس طرح ہادی اکرم، مسلم اول ہمد مکرّم کے داماد اور مسلم اول رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسدو سلم کے سر ہوئے۔

## رحلہ اول کا ارادہ

اول اول اہل سلام کا عدد کم رہا، اس لئے اہل مکہ کو ملال کم ہوا، مگر رسول اکرم اور رسول اللہ کے ہمدوں کی مسلسل مساعی سے ارد گرد کے لوگوں کو راہ ہدیٰ ملی اور اک اک کر کے لوگ اس اسلامی کارواں سے ملے اور اہل اسلام کا عدد سوا ہوا، اس حال سے گمراہوں کے دلوں سے حسد کا دھواں اٹھا اور وہ اہل اسلام کے اور سوا عدو ہو کر اہل اسلام کی رسوائی اور الم دہی کے لئے ہر ہر گام ساعی ہوئے، مگر اس حوصلہ سے محروم رہے کہ وہ رسول اللہ کو آلام دے کر مسرور ہوں، اس لئے سارا حسد اور ملال، مادی وسائل سے محروم مسلموں کو دکھ دے کر دور ہوا، اس طرح رسول اللہ کے ہمدوں کے لئے مکہ کی وادی آلام اور دکھوں کا گھر ہو کر رہ گئی، اس لئے رسول اللہ کی رائے ہوئی کہ اہل اسلام مکے سے راہی ہو کر حاکم اصحمہؓ کے ملک رواں ہوں۔

اعفیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جب ام المؤمنین حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی اور آنحضرت کو بہت مغموم دیکھا تو اپنی صاحبزادی حضرت عائشہؓ کو جو اس وقت بہت کم سن یعنی چھ برس کی تھیں بڑے ادب و اخلاص کے ساتھ آپ کے نکاح میں دے دیا اور مہر کی رقم بھی اپنے پاس سے ادا کی۔ (سیرت خلفائے خلفائے راشدین، ص: ۳۸)

اس سرکار متبہ باپ جیسا ہوتا ہے اب ان لوگوں کے ایمان کے بارے میں غور کریں جو رسول اللہ کے سر اور والد کو غضب خلافت کا التزام دیتے ہیں اور طرح طرح سے ان پر تبرا بازی کرتے ہیں۔ سب حبشہ کے بادشاہ کا نام اصحمہ تھا جس کو نجاشی

کہتے تھے۔ (سیر خاتم الانبیاء، ص: ۱۳۶)

گوکہ مسلم اول سسر رسول اسرہ کے مکرم آدمی ٹھہرے، مگر اسلام کے لئے رسوا کئے گئے۔ اور مارے گئے! اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی رائے مسلم اول کے لئے اسی طرح کی ہوئی کہ وہ ملک اصحمہ رواں ہوں!

ہادی اکرم کی رائے سے وہ ملک اصحمہ کی رحلہ کے واسطے راہی ہوئے، اک مرحلے<sup>۲</sup> اک سوداگر<sup>۳</sup> ملا، سسر رسول سے سوال ہوا:

”کہاں کا ارادہ ہے؟“

کہا: ”اہل مکہ کی الم رسائی سے ملول ہو کر ملک اصحمہ کو راہی ہوں۔“

وہ سوداگر آڑے ہوا اور اصرار کر کے حاکم اول کو ہمراہ لے کر سوئے مکہ رواں ہوا اور مکہ آکر صدادی:

”اے روسائے مکہ! اس آدمی کو مکہ سے الگ کر رہے ہو کہ وہ صلہ معاہدہ کے حصول کے لئے سعی ہے اور ہمدردی، صلہ رحمی، عطا و کرم کا مالک ہے؟ معلوم ہو کہ وہ مسلم اول کا حامی و مددگار ہے، اس لئے سارے لوگ اس کی الم رسائی اور دکھ دہی سے دور ہوں۔“

اہل مکہ سوداگر کی اس صدا کو مسموع کر کے، سسر رسول کی آمد کے لئے آمادہ ہوئے، مگر مسلم اول کو کہاں گوارا کہ اس کا حامی و مددگار کوئی گمراہ سوداگر ہو، اس لئے کہہ اٹھے کہ اس کا مددگار اللہ اور اس کا رسول ہے اس کے علاوہ کسی کی مدد مردود ہے۔<sup>۴</sup>

مسلم اول سسر رسول، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے ملے اور سارا حال کہا۔ رسول اللہ کا کلام ہوا:

۱۔ چنانچہ جب حضرت طلحہ بن عبد اللہ ان کی تبلیغ سے حلقہ بکوش اسلام ہوئے تو حضرت طلحہ کے چچا نوفل بن خویلد نے ان دونوں کو ایک ساتھ باندھ کر مارا اور حضرت ابو بکر کے خاندان نے کچھ حمایت نہ کی (سیر الصحابہ ج ۱ ص ۲۳ بحوالہ طبقات

ابن سعد) ۲۔ مقام بکر انعماء ابن الدغترئیس قارہ۔ ۳۔ آخرت۔ ۴۔ (سیرت خلفائے راشدین ج ۱ ص ۳۵)

”اے مسلم اول! ہمارے ہمراہ رہو! اللہ ہم کو رحلہ کا حکم دے گا۔“  
 مسلم اول مکہ مکرمہ ٹھہرے رہے اور معمول کی طرح اعلائے اسلام کے لئے ساعی ہوئے۔

بعض روایتوں میں ہے کہ قریش نے ابن الدغنی کی امان اس شرط پر منظور کی کہ وہ ابوبکر کو سمجھادیں:  
 ”وہ جب اور جس طرح جی چاہے اپنے گھر میں نماز پڑھے اور قرآن کی تلاوت کرے لیکن گھر سے باہر نہیں نمازیں  
 پڑھنے کی اجازت نہیں!“

ابوبکر صدیقؓ نے عبادت الہی کے لئے مسجد بنائی تھی، کفار کو اس پر اعتراض ہوا انہوں نے ابن دغنی کو خبر دی کہ ہم نے  
 تمہاری ذمہ داری پر ابوبکر کو اس شرط پر امان دی تھی کہ وہ اپنے مکان میں چھپ کر اپنے مذہبی فرائض انجام دیں مگر اب وہ  
 گھر کے آگے مسجد بنا کر اعلان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اس سے ہم کو خوف ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے متاثر ہو کر اپنے  
 آبائی مذہب سے بد عقیدہ نہ ہو جائیں اس لئے تم انہیں مطلع کر دو کہ اس سے باز آجائیں ورنہ تم کو ذمہ داری سے بری  
 سمجھیں۔

ابن الدغنی نے ابوبکر سے جا کر کہا: ”تم جانتے ہو میں نے کس شرط پر تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا ہے؟ اس لئے یا تو تم اس  
 پر قائم رہو یا مجھے ذمہ داری سے بری سمجھو میں نہیں چاہتا کہ عرب میں مشہور ہو کہ میں نے کسی کے ساتھ بد عہدی کی۔“  
 ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہایت استعناء کے ساتھ جواب دیا: ”مجھے تمہاری پناہ کی حاجت نہیں میرے لئے  
 خدا اور اس کے رسول کی پناہ کافی ہے۔“ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۵ بحوالہ بخاری)

## معابدہ عدم سلوک اور مسلم اول کی ہمدی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے عہدہ اعلیٰ کو اک کم آٹھ سال ہوئے، مکہ کے سردار اور اہل رائے لوگ اکٹھے ہوئے کہ کس طرح اسلام اور اہل اسلام کا کارواں رکے؟

طے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم اور اس کے دادا کی ساری آل و اولاد سے ہر طرح کا سلوک کاٹ کر رکھو اور اسرہ رسول کے لوگوں سے ہر طرح کے معاملے روک لو، سارے لوگ اس رائے کے حامی ہوئے۔ ولد عکرمہ<sup>۱</sup> سے کہا کہ اس معاملے کے لئے اک معابدہ لکھو کہ اہل مکہ اس معابدے سے آگاہ ہو کر اس کے عامل ہوں۔

ولد عکرمہ سے معابدہ لکھو کر سارے سرداروں کی گواہی لی گئی اور اس کو دار اللہ کے در سے لڑکا کر عم رسول، والد علی کریمہ اللہ کو اطلاع دی کہ اس طرح کا معابدہ ہوا ہے اگر محمد کو ہمارے حوالے کر دو گے ہم اس معابدہ سے الگ ہوں گے۔

عم رسول کو معلوم ہوا کہ اہل مکہ ہم لوگوں کی رسوائی اور الم دہی کے لئے آمادہ ہو کر صلہ رحمی اور عدل کی راہ سے الگ ہو گئے، اہل اسرہ کو لے کر اس درہ کوہ آگئے کہ وہ درہ عم رسول کے اسم سے موسوم ہے۔<sup>۲</sup>

ہادی اکرم دو اور اک سال سارے اسرہ کے ہمراہ اس درہ کوہ کے محصور ہو کر رہے، وہ سارا عرصہ اسرہ رسول کے لئے دکھوں اور آلام کارہا، لوگ اکل و طعام سے محروم ہو گئے، گھاس اور کھال کے ٹکڑے کھا کھا کر اللہ اور اس کے رسول کے لئے سارے صدے سپے۔<sup>۳</sup>

مسلم اول سسر رسول اس سارے عرصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے ہمراہ رہے اور سارے دکھ درد کے مسا ہم ہوئے۔

اللہ کے حکم سے وہ معابدہ گل سڑ کے معدوم ہوا، اسرہ رسول اور مسلم اول رسول اللہ

۱۔ منصور بن نکریمہ۔ شعب ابی طالب۔ ۳ (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۳۷، ہادی عالم، ص: ۱۰۵)۔ شریک۔

صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کے ہمراہ درہ کوہ سے گھروں کو آئے اور سرسبز رسول کو رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کے ہمراہ اس درہ کوہ سے رہائی ملی۔<sup>۱</sup>  
عم رسول، والد علی کریم اللہ کا کلام ہے:

”سہل اہل مکہ سے مسرور ہو کر لوٹے (مراد ہے کہ صلح ہو گئی) اس صلح سے مسلم اول اور رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم مسرور ہوئے“۔<sup>۲</sup>

### رسول اللہ کا اسراء سماوی اور سرسبز رسول

ہادی عالم رحلہ اسراء کی راہ کے سارے مراحل، طرح طرح کے اسراء و احوال مطالعہ کر کے لوٹے اور اگلی سحر اہل مکہ سے اسراء سماوی کا حال کہا، وہ سارے لوگ اس حال کو معلوم کر کے اکٹھے ہو گئے اور ہادی اکرمؐ سے ٹھٹھا کر کہا کہ دارالمطہرہ مکہ سے دو ماہ کی راہ ہے، کس طرح وہاں سے سحر سے ادھر ہی ہو کر آ گئے؟ اور طرح طرح کے مہمل سوال ہوئے اور اہل مکہ ہٹ دھرمی کی راہ لگے رہے اور اہل مکہ ہمد مکرّم سے آ کر ملے اور کہا کہ اہل اسلام کے سردار کا معاملہ معلوم ہے؟ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ سحر سے ادھر ہی ادھر دارالمطہرہ ہو کر لوٹا ہے۔  
کہا:

”لوگو! ہم سے کہو، رسول اکرمؐ کا دعویٰ اسی طرح ہوا ہے؟“

کہا: ”ہاں! وہ اسی حال کا مدعی ہے۔“

ہمد مکرّم آگے آئے اور کہا:

”لوگو! معلوم ہو کہ اگر اللہ کے رسول کا دعویٰ وہ ہی ہے، گواہ رہو کہ وہ دعویٰ

لامحالہ اٹل ہوگا“۔<sup>۳</sup>

۱) سیرت خلفائے راشدین، ص: ۳۷۰، ۲) ابوطالب نے اسی واقعے کو اس شعر میں بیان کیا ہے: وہم رجعوا سہل بن

بیضاء راضیاً ۳) تفسیر ابوبکر بہاؤ محمد ۱۔ (ایضاً ص: ۳۸) ۴) بیت المقدس ۵) (ہادی عالم، ص: ۱۱۹)



## وداع مکہ اور اکرام رسول

اہل مکہ کی الم رسانی سے ملول ہو کر کئی اہل اسلام مکہ مکرمہ کو الوداع کہہ کر معمورہ رسول کو راہی ہوئے۔

مسلم اول کا ارادہ اسی طرح کا ہوا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کا کلام ہوا کہ ٹھہرو! اللہ ہم کو وداع مکہ کا حکم دے گا اور ہم اک دوسرے کے ہمراہ راہی ہوں گے۔<sup>۱</sup>

مسلم اول کو آس لگی رہی کہ اللہ کے حکم سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے رحلہ وداع کی ہمراہی سے مالا مال ہوں گے، اسی لئے وہ اس رحلہ رسول کے ہر طرح کے امور کے لئے سماعی رہے کہ کسے معلوم ہے کس لمحہ اللہ کا حکم ہوا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے ہمراہ راہی ہوں۔

علی کریمہ اللہ سے مروی ہے:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کا سردار ملائک ”الروح“ سے سوال ہوا کہ رسول کے ہمراہ اس رحلہ کی ہمراہی کسے ملے گی؟ کہا: ہمد مکرّم کو“۔ (رواہ الحاکم)

مال کار، اللہ کا حکم وارد ہوا کہ اللہ کا رسول مکہ مکرمہ کو الوداع کہہ کر معمورہ رسول کو راہی ہوا! ہادی اکرم اس حکم الہی سے مسرور ہوئے اور گھر سے اٹھ کر ہمد مکرّم کے گھر کے لئے راہی ہوئے اور ہمد مکرّم سے مل کر کہا:

”اللہ کا حکم ہوا ہے کہ ہم مکہ مکرمہ کو الوداع کہہ کر معمورہ رسول کو راہی ہوں۔“

ہمد مکرّم کا سوال ہوا:

”اس ہمد رسول کو اس رحلہ مسعود سے ہمراہی حاصل ہوگی؟“ کہا: ہاں!

دلی سرور کی اس اطلاع سے روح و دل کھل اٹھے اور ہمد مکرم کی لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عروس مطہرہ راوی ہوئی:

”والد اس اطلاع کو حاصل کر کے اس طرح مسرور ہوئے کہ رواٹھے، اس لمحے ہم کو اول اول معلوم ہوا کہ کمال سرور کس طرح سے آدمی کو رلا سکے گا۔“

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ راہ کے لئے سواری کا اور راہ رواں کا معاملہ طے کرو!

ہمد مکرم آگے آئے اور کہا:

”اے اللہ کے رسول! اللہ کے کرم سے دو سواری کا مالک ہوں، اک سواری ہم سے اللہ کی راہ کے لئے وصول کرو! اس سے ہمد رسول مسرور ہوگا۔“

ہادی عالم کا حکم ہوا کہ اس سواری کو مول دے کہ ہم سے مال حاصل کرو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار سے وہ سواری مول لی گئی۔

اس محل آ کر اہل مطالعہ کو احساس ہوگا کہ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار کس لئے ہوا کہ سواری مول ہی لوں گا، ہر گاہ کہ ہمد مکرم کا اس سے سوا مال ساری عمر، اسلام اور رسول اللہ کے لئے رہا؟ دراصل وداع مکہ اور اللہ کے واسطے دوسرے ملک کے لئے رحلہ، اک امر اہم اور اعلیٰ حکم ہے اس لئے رسول اللہ کا ارادہ ہوا کہ اس رحلے کے سارے مراحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل ہی سے طے ہوں کہ اللہ کے اس حکم کی ادائے گی مکمل ہو۔

رسول اللہ کا علیٰ کرم اللہ کو حکم ہوا:

”اے علی! اللہ کے رسول کو حکم ہوا ہے کہ ہمد مکرم کو لے کر سوائے معمرہ رسول راہی ہو اور حرم مکہ کو الوداع کہے، کئے کے سرداروں کا گروہ گھر کے

اور اس ارادے سے کھڑا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو مار ڈالے، اس لئے ہماری رائے ہے کہ مکہ مکرمہ ہی رکے رہو اور اہل مکہ کے رکھوائے ہوئے مال ہم سے لے لو! مالکوں کو اموال لوٹا دو اور معمورہ رسول آ کر ہم سے ملو اور اسے علی! ہماری ہری ردا اوڑھ کر سو رہو! اللہ کا وعدہ ہے کہ سرداروں کے آلام سے دور رہو گے۔“

علی کریمہ اللہ کو اس طرح مامور کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے آگے آئے، سارے سرداروں ہاں کھڑے ہوئے، علی، اللہ کے حکم سے کلام الہی کے اک حصے کا ورد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے اور اک مٹھی مٹی لے کر سرداروں کے سروں سے آلودہ کئے، اللہ کے حکم سے سارے سردار حواس گم کردہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور رسول اکرمؐ کے حال سے لاعلم رہے اور اس طرح اللہ کا رسول، اللہ کے اعداء کے سروں کو آلودہ کر کے وہاں سے رواں ہوا۔

وہاں سے رسول اکرمؐ ہمدم مکرم کے گھر آئے، سارے احوال کہے اور وہاں سے گھر کی کھڑکی کی راہ سے ہمدم مکرم کو ہمراہ لے کر رواں ہوئے اور دیکھے دل سے حرم مکہ کو الوداع کہا۔

سحر ہوئی اور مکہ کے سرداروں کے حواس اکٹھے ہوئے اک آدمی کی صدا آئی کہ لوگو! وہاں کس لئے کھڑے ہو رسول اللہؐ سرداروں کے سروں کو مٹی سے آلودہ کر کے وہاں سے عرصہ ہو رواں ہو گئے۔

وہ اطلاع حاسدوں کے لئے اک دھماکہ اور اک دھکا ہو کر گئی، سروں سے مٹی اڑا کے وہاں سے رسوائی کو گلے لگا کے رواں ہوئے اور لوگوں کو صدا دی:

”لوگو! دوڑو! کسی طرح رسول اسلام اور اس کے ہمدم کو لوٹا لاؤ! اگر ہو سکے ہر دو کو مار ڈالو!“

۱۔ آنحضرت ﷺ کی وہ چادر جو ہرے رنگ کی تھی، حضرت علیؑ اور کرسوئے۔ (سیرت مصطفیٰ)

اموال کی طمع دی گئی کہ اگر کوئی رسول اسلام کو مار ڈالے گا، وہ مکہ والوں سے سو سواری حاصل کرے گا۔ ہر سو ہر کارے دوڑائے گئے کہ وہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ہمدم کو روک کر امیر اسلام کے آڑے ہوں، مگر اللہ کا حکم سدا سے حاوی ہے اور سدا حاوی رہے گا مگر اہوں کے سارے ارادے مکروحد کے سارے دلوئے مٹی ہو کر رہے۔

### رحلہٴ مسلم اول اور اسماء کا کردار

ہمد مکرم کی وہ لڑکی کہ رسول اکرمؐ کی عروس مطہرہ ہوئی اس سے مروی ہے: ”ہمد مکرم کی دوسری لڑکی ”اسماء“ رسول اکرمؐ اور ہمد مکرم کی راہ کے لئے طعام لے کر آئی، مسئلہ ہوا کہ طعام کے لئے رسی کہاں سے آئے کہ اس سے طعام کو محکم لے کر کے ہمراہ کر لے۔

اسماء اوڑھی ہوئی رداء کے دو ٹکڑے کر کے لائی، اک ٹکڑا طعام کے لئے ہوا اور دوسرا ماء طاہرہ کے لئے۔

رسول اکرمؐ اس کی اس ادا سے مسرور ہوئے اور لاڈ سے اس کو ”دورسی والی“ کہہ صدادی، اسی لمحے سے اس کا اسم دورسی والی ہوا“۔<sup>۱</sup>

ہمد مکرم کی لڑکی اسماء سے مروی ہے:

”اگلی سحر کو مکہ کا سردار عمرو اس کے گھر آ کر سائل ہوا کہ والد کہاں ہے؟ اسماء آگے آئی اور کہا: اللہ کو معلوم ہے! وہ آگے ہوا اور اسماء کو مارا۔

### ہمد مکرم کی حوصلہ وری

ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمد مکرم کو ہمراہ لے کر ہمد مکرم کے گھر سے

۱۔ (ہادی عالم، تعمیر) ص ۳۵ مضبوط۔ سیدہ پاک پانی۔ یہ ناشتہ باندھنے کیلئے رسی کی ضرورت ہوئی تو حضرت اسماءؓ نے بعض روایات کے مطابق اوڑھی کے دو ٹکڑے کئے اور بعض کے مطابق کمر سے باندھے ہوئے پٹکے کے دو ٹکڑے کئے، اسی دن سے ان کا نام ذات الطاقین مشہور ہو گیا۔ (ہادی عالم، ابن سعد، سیرت مصطفیٰ، ص ۱۵۱) ابو جہل۔

رواں ہوئے، ہمد مکرّم کو اللہ کے رسولؐ کی ہمراہی کا وہ اکرام ملا کہ وہ اک عرصے سے اس کے لئے روح و دل سے دعا گو رہے، اللہ کی درگاہ سے وہ دعا کا مگار ہوئی، اس لئے احساس ہوا کہ اللہ کا رسول سارے اعداء کی مکاری اور مساعی سے دور رہے، گھر سے رواں ہو کر عام سڑک سے ہٹ کر مکہ کے اک کوہسار کی راہ لی، ہمد مکرّم کی وہ ساری راہ اس طرح ہوئی کہ گاہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کے آگے ہو کر راہی ہوئے اور گاہ رک گئے کہ اللہ کا رسولؐ آگے ہو۔ ہر ہر گام اس دلدادہ رسولؐ کو دھڑکا لگا رہا کہ ادھر ادھر سے کوئی عدو آ کھڑا ہوگا۔

رسول اکرمؐ کا سوال ہوا:

”اے ہمد! کس طرح کی راہ روی ہے کہ گاہ آگے ہو رہے ہو اور گاہ رک کر ہم کو آگے کر کے راہی ہو؟“

کہا: ”اے اللہ کے رسول! دل کو احساس ہوا کہ کوئی عدو آگے ٹوہ لگائے کھڑا ہوگا، اس لئے آگے ہوا کہ اس عدو کے وار کو روکوں، گاہ دھڑکا ہوا کہ کوئی مکہ مکرمہ کی راہ سے آ کر حملہ آور ہوگا، اس لئے رکا کہ اللہ کا رسولؐ آگے ہو۔“

اس طرح ہر ہر گام رسول اکرمؐ کے ارد گرد ہو کر ساری راہ طے کی اور مکہ مکرمہ سے ادھر اک کوہسار کی کھوہ کے آگے آ کھڑے ہوئے۔ وہاں آ کر ہمد مکرّم آگے ہوئے اور کہا:

”اے رسول اللہ! ٹھہرو! اول اس کھوہ کا کوڑا کر کٹ دور کرو۔“

اس طرح ہمد مکرّم، رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کو لے کر کوہسار کی اس کھوہ کو آ رہے کہ اک عرصہ وہاں ٹھہر کر مکہ مکرمہ کے اعداء سے دور ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم، مسلم اول کی گود کا سہارا لے کر سو رہے کہ اک دراڑ سے کالا مارٹا مسلم اول کو ڈس کر الم رساں ہوا۔ مسلم اول اس الم رسائی سے رواٹھے اس کے دموج سے رسول

اللہ کے مومن کو گرے، اس سے رسول اللہ اٹھ گئے اور رسول اللہ کا سوال ہوا:

”اے مسلم اول! کس لئے رور ہے ہو؟“

کہا:

”مارکا ڈسا ہوا ہوں۔“

رسول اکرم کے روئے مسعود کے ماء سے وہ الم، دم کے دم دور ہوا۔ مکہ مکرمہ کے لوگ رسول اکرم اور اس کے ہمد کے لئے گلی گلی اور سڑک سڑک گھومے اور مال کی طمع لئے ہوئے سرگرداں رہے کہ کسی طرح رسول اکرم اور اس کے ہمد کو روک کر مال کے حامل ہوں، اسی طرح کئی لوگ لاشی اور دوسرے اسلحہ لے کر اس کہسار اور کھوہ کے آگے آگئے، ہمد مکرم کو ڈر لگا کہ گمراہ لوگ اس کھوہ آکر ہم سے آگاہ ہوں گے۔ رسول اکرم سے کہا:

”اے رسول اللہ! وہ لوگ آگئے، لوگوں کو ہمارا حال معلوم ہوگا۔“

رسول اللہ کا کلام ہوا:

”دل سے الم کو دور رکھو اللہ ہمارے ہمراہ ہے۔“

رسول اللہ کا وہ کلمہ، کلام الہی کا حصہ ہے اور اسی طرح ہوا، اللہ کی مدد اس طرح ہوئی کہ اک معمر مکزی کو حکم ہوا کہ وہ اس کھوہ کے کھلے حصے کو ڈھک دے اور دو حمام صحرائی وہاں آگئے۔

مکہ والے ٹوہ لگائے ہوئے ادھر آئے، اک آدمی کا اسرار ہوا کہ اس کھوہ کو ٹوٹو! وہ

لوگ وہاں لکے ہوئے ہوں گے، مگر سردار آگے ہوا اور کہا:

”ساہا سال سے وہ کھوہ آدمی سے محروم رہی ہے، کوئی حمام صحرائی کسی آدمی

کے ہمراہ رہا ہے؟ اس مکزی کے گھر کو مطالعہ کرو! وہ گھر محمد کے سال

۱۔ (سیر الصحاب، ج: ۱، ص: ۲۷، صحابہ کرام، ص: ۱۰۲، خلفائے راشدین، ص: ۴۱) قرآن کریم نے اس واقعہ کا تذکرہ

فرمایا ہے: ”لا تحزن ان اللہ معنا“ یعنی تم نہ کر یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ (ہادی عالم، ص: ۱۳۳) ج: جنگلی

کیوتروں نے وہاں آکر انڈے دے دیئے تھے۔

مولود سے سوا عرصے کا ہے۔“

اس کلام سے رسول اللہؐ کو معلوم ہوا کہ حمام صحرائی اور کبزی سے اللہ کے رسول کی مدد کی گئی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدم مکرم کے ہمراہ اک عرصہ اُس کھوہ رہے۔

### مسلم اول کا لڑکے کو حکم

مسلم اول ہدم مکرم کا لڑکے کو اول ہی سے حکم رہا کہ کہ وہ کسی طرح کھوہ آئے اور ہم کو نیکے والوں کے احوال سے آگاہ کرے، وہ اسی طرح وہاں لک لکا کے آئے اور سارے احوال کی اطلاع دی۔

### مسلم اول کا راعی عامر کو حکم

اسی طرح ہدم مکرم، مسلم اول کا اک راعی عامر کو حکم رہا کہ وہ وہاں آ کر دودھ دو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ہدم کی مدد کرے۔

### مسلم اول کا طے کردہ راہ داں

مال کارہادی اکرم اک سحر کو کھوہ سے آگے آئے اور ہدم کے طے کردہ راہ داں اور ہدم مکرم کو ہمراہ لے کر وہاں سے رواں ہوئے۔

۱۔ ان لوگوں میں سے ایک تجربہ کار نے کہا کہ اس غار پر کبزی کا جالا آنحضرتؐ کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے (ایضاً ص: ۲۴) ع غار ثور میں آنحضرتؐ کا قیام تین دن رہا۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر دن کو مکہ رہتے اور رات کو اکردن بھر کے حالات سے آنحضرتؐ اور حضرت ابوبکر صدیقؓ کو اطلاع دیتے۔ (ایضاً ص: ۳۵)

۳۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے ایک آزاد کردہ غلام عامر بن فبیہ جو سابقین اولین میں سے ہیں دن بھر بکریاں چراتے اور رات کو بکریاں لے کر وہاں آجاتے تاکہ آنحضرتؐ اور حضرت ابوبکر صدیقؓ بقدر حاجت دودھ پی لیں۔ (ایضاً)

۴۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ پہلے سے ایک راستہ بتانے والے کو اجرت پر طے کر لیا تھا، اس کا نام عبداللہ بن اریقظ تھا۔

## راہ کے مراحل

علماء سے مروی ہے کہ رسول اکرمؐ، ہمد مکرم اور ہمد راعی عامر اور اس راہ داں کے ہمراہ معمورہ رسولؐ کے ارادے سے رواں ہوئے اور ساحلی راہ سے معمورہ رسولؐ کے لئے راہی ہوئے۔

اہل علم سے مروی ہے کہ کھوہ سے آگے رحلہ وداع مکہ اس سال کے ماہ سوّم کی اول کو ہوا۔

مسلم اول اک معلوم سوداگر رہے، اس لئے سر راہ کئی لوگوں سے دعا سلام ہوئی، رسول اللہؐ سے لا علم لوگوں کا مسلم اول سے سوال ہوا: کس آدمی کے ہمراہ ہو؟ کہا: ”اس آدمی کے ہمراہ ہوں کہ وہ ہمارا ہادی ہے۔“

اللہ! اللہ! کس طرح کا عمدہ کلام ہے کہ دو طرح کا کمال لئے ہوئے ہے۔

اول: اس کلام سے معلوم ہوا کہ اللہ کا رسولؐ راہ ہڈی کا ہادی ہے اور دوسرے: اس کلام سے عام راہ داں مراد لے کر امر رحلہ کو لوگوں کے علم سے دور رکھا، اس طرح اک مرحلہ مکمل ہوا۔

مسلم اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اک کوہ کے اک حصے آ کر کے کہ اللہ کا رسول اک عرصہ آرام کر لے، اس حصے کا کوڑا دور کر کے مسلم اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے طعام اور دوسرے ماکول کے حصول کے لئے رواں ہو گئے اور اک راعی سے ملے، مسلم اول کا راعی سے سوال ہوا:

”گلہ کس کا ہے؟“

کہا:

”اہل مکہ کے اک آدمی کا ہے۔“

مسلم اول کا سوال ہوا:



”کوئی دودھ باری ”لے لی“ ہے؟“ کہا:

”ہاں! ہے۔“

مسلم اول کا کلام ہوا:

”اول دھول، مٹی دور کر لو اور دودھ دوہ کے ہم کو دو!“

وہ اسی طرح عامل ہوا۔

مسلم اول دودھ کی گرمی کو مابعد سردی سے دور کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے

آئے، رسول اللہ اس دودھ سے مالا مال ہوئے اور مسلم اول کمال مسرور ہوئے اور اللہ والوں کا وہ

کارواں اس محل سے آگے رواں ہوا۔

اک گھوڑے سوار کی آمد اور مسلم اول کو صدمہ

ہمدم مکرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رواں دواں رہے کہ ہمدم مکرم

کو دور سے اک گھوڑے سوار کی گرد دکھائی دی، دل کو ڈر لگا اور رسول اکرم سے کہا:

”اے رسول اللہ! کوئی گھوڑے سوار آ رہا ہے، ڈر ہے کہ ہم محصور ہوں گے۔“

ہادی اکرم کا وہی کلام ہوا کہ اس سے اول کھوہ کے ادھر ہمدم سے ہوا:

”ڈر کو دل سے دور رکھو! اللہ ہمارے ہمراہ ہے۔“

وہ گھوڑے سوار سوئے رسول اللہ دوڑا۔ اللہ کے رسول کی دعا ہوئی ”اللہم اصرعہ“ اے اللہ!

اس کو گرادے۔ اسی دم اس کے گھوڑے کا اگلا حصہ گڑ رہا، اس کو اس حال سے کمال ڈر لگا اور

احساس ہوا کہ رسول اللہ کی دعا سے اس امر کا ورد ہوا ہے، گڑ گڑا کر کہا:

”ہر دو آدمی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس الم سے رہا کر دے، وعدہ ہے کہ

یہاں ہر کو سوئے مکہ لوٹوں گا اور دوسرے لوگوں کو اس راہ سے روکوں گا۔“

ہادی اکرم دعا گو ہوئے، اللہ کا حکم ہوا اسی دم اس کا گھوڑا رہا ہوا۔

مآل کارسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم مسلم اول اور دوسرے ہمد موموں کے ہمراہ اول اولاد عمرو کے گاؤں گئے، سارے لوگوں سے اول مددگاروں کے گروہ کو رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم اور ہمد مکرّم کی سواری دکھائی دی۔

اولاد عمرو "اللہ احد" کی صدا لگا کر سوائے رسول دوزے، ہر آدمی سماعی ہوا کہ وہ ہر اک سے اول رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے ملے، کئی مددگار کہ رسول اللہ سے لاعلم رہے، وہ مسلم اول کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے کہ وہی اللہ کارسول ہے، مسلم اول کو احساس ہوا کہ اگر ہر آدمی الگ الگ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے گلے ملے گا، لامحالہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم ملوں ہوں گے، اس لئے کھڑے ہو کر سارے لوگوں سے ملے اور دل سے کہا کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ مسلم اول ہی اللہ کارسول ہے، اس لئے اک رومال لے کر کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے سر مکرّم کو اس رومال کے سائے سائے رکھا، اس طرح لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کارسول دوسرا ہے۔<sup>۲</sup>

اک عرصہ اولاد عمرو کے گاؤں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم، ہمد مکرّم کو ہمراہ لے کر معمورہ رسول رواں ہوئے۔<sup>۳</sup>

معمورہ رسول آ کر رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم اک مدگار کے گھر ٹھہرے اور مسلم اول دوسرے مدگار کے ہاں معمولی عرصہ ہوا کہ مسلم اول کے گھر والے ہمد رسول طلحہ کے ہمراہ معمورہ رسول آ گئے۔<sup>۴</sup>

۱ (حدادی عالم، ص: ۱۳۹) ۲ (ایضاً، حیات الصحابہ، ج: ۱، ص: ۴۳۸، سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۹) ۳ (سبحان اللہ! سیدنا صدیق اکبرؓ فریاد سے کہتے، ایک طرف آپ کو تکلیف سے بچانے کے لئے خود آگے ہو کے لوگوں سے گلے ملے اور لوگ آپ کو ہی اللہ کارسول سمجھتے رہے اور بعد میں اپنے عمل سے بتا دیا کہ اللہ کارسول میں نہیں، دوسرا ہے۔ ۴ (بخاری، باب الهجرة النبویة واصحابہ الی المدینہ) ۵ (حضرت ابوب الصاریؓ - ۵ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۳۰)

## معمورہ رسول کی ہو اور ماحول

معمورہ رسول کی ہو اسے مسلم اول محمودؑ ہو گئے اور اس طرح روگی ہوئے کہ رحلہ ملک عدم کی آس لگ گئی۔

مسلم اول کی لڑکی، عروس رسولؐ کا والد مکرم سے سوال ہوا کہ کس طرح کا حال ہے؟ کہا:  
”ہر آدمیؑ کی اس کے گھر والوں کے ہمراہ اس طرح سحر ہو رہی ہے کہ  
مرگ کھڑاؤں کی ڈوری سے سوا اس کے ارد گرد ہے۔“

عروس رسول، عروس مطہرہ رسول اللہؐ کے آگے آئی اور والد مکرم کے روگ کا سارا حال رسول اللہ  
صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم سے کہا، رسول اللہؐ کی اسی دم دعا ہوئی:

”اے اللہ! مکہ کی طرح اور اس سے سوا معمورہ رسولؐ کے لگاؤ سے  
ہمارے دلوں کو معمور کر دے اور اس کو روگ سے دور رکھ اور اس کے صاع  
و مد کو ہمارے واسطے سوا کر اور اس کے روگ (حمی) کو گڑھے کے حوالے  
کر۔“ ۳

مسلم اول سے روگ دور ہوا اور وہ معمول کی طرح ہو گئے اور معمورہ رسولؐ کی  
ہوا، مسلم اول اور دوسرے ہمدوں کو کمال راس آئی۔

۱۔ جس کو بخار ہو۔ آپؐ ایسے شدید بخار میں مبتلا ہوئے کہ زندگی سے مایوس ہو گئے (سیر الصحاب، ج: ۱، ص: ۳۰)

۲۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے والد محترم کا حال دریافت کیا تو صدیق اکبرؐ نے ایک شعر پڑھا: کل امرء مصبح فی  
اہلہ و الموت ادنیٰ من شراک نعلہ۔ ۳۔ آپ ﷺ نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا:

اللہم حبیب الیوم المدینۃ کم حجتنا مکة اواشدو صححہا و بارک لنافی صاعہا و مدہا و انقل  
حماہا فاجعلہا بالجفۃ (ایضاً)۔

## معابدہ عمدہ سلوک

معمورہ رسولؐ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ کوئی معاملہ اس طرح کا ہو کہ معمورہ رسولؐ کے ہمدوں کو سہارا ملے اور مددگار مانی و سال کی کمی سے دور ہوں، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ اک اک مددگار اک اک ہمد کو گھر لے آئے اور اس سے والد کے لڑکے کی طرح عمدہ سلوک کرے، ہمد مکرم کا معاہدہ عمدہ سلوک اک مکرم و مسعود مددگار سے ہوا۔

## حرم رسولؐ کی معماری اور مسلم اول کے مال سے ادائے گی

رسول اکرمؐ معمورہ آگئے اردگرد سے اہل اسلام اک اک کر کے معمورہ رسولؐ اکٹھے ہوئے اور مکمل رہائی سے سارے اہلوں کے اللہ، اللہ مالک الملک کے آگے سر نکائی کے لمحے ملے، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ اک اللہ کے گھر کی معماری ہو، اس کے واسطے رسول اللہؐ کو اک حصہ عمدہ لگا اور وہ حصہ والد کے سائے سے محروم دو لڑکوں پہل اور اس کے ولد ام کی ملک رہا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کی رائے ہوئی کہ وہ حصہ مول لے کر وہاں اللہ کے گھر اور حرم رسولؐ کی معماری کا کام ہو، لڑکوں کے ولی اور لڑکوں کا اصرار ہوا کہ وہ حصہ ہم سے اللہ کے لئے لے لو کہ وہاں اللہ کا گھر معمور ہو اور اللہ سے ہمارے لئے دعا کرو، مگر اللہ کے رسولؐ کا اصرار ہوا کہ اس حصے کا مال ادا ہو! اور اللہ کا حکم اسی طرح ہوا کہ ہمد مکرم کے مال سے ہی اس حصے کا مال ادا ہوا۔

اس طرح معمورہ رسولؐ آ کر سارے لوگوں سے اول، اسلام کے واسطے مسلم اول کے کرم

۱۔ (ہادی عالم، ص: ۱۵۹) ۲۔ حارث بن زہیر جو مدینہ میں اک معزز شخصیت کے آدمی تھے۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۳۱)

۳۔ مسجد نبوی۔ ۴۔ مسجد۔ (ہادی عالم، ص: ۱۵۷، سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۳۱) ۵۔ بھائی

---

و عطا کا سلسلہ ہوا اور وہ حرم رسولؐ کی معماری کے واسطے دوسرے لوگوں کے ہمراہ سرگرم  
کار رہے۔

## معمر کے

معمورہ رسول آ کر اہل اسلام کی رسوائی اور اہل رسائی کا دور مکمل ہوا، وہ کھلم کھلا اعلائے اسلام کے لئے ساعی ہوئے، مگر گمراہوں کو اسلام اور اہل اسلام کا علو کہاں گوارا؟ اس احساس سے کہ معمورہ رسول اسلام کا اک حصار ہوا ہے اور اہل اسلام کے حوصلے سوا ہو گئے، دلوں کی آگ دھک اٹھی، مگر ابھی اور ہٹ دھرمی کی کالک اور گہری ہوئی، سارے لوگوں کو ڈر رہا کہ معمورہ رسول، اسلام کا اک حصار ہو کر گمراہوں کی راہ کھوٹی کرے گا، ہٹ دھرمی اور حسد کی راہ سے اہل اسلام کی رسوائی اور طرح طرح کے دکھ کے لئے ساعی ہوئے۔

اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کی معمورہ رسول آمد کے آگے طرح طرح کے معرکوں اور مہوں کا سلسلہ رہا، اک اور اٹھارہ معرکے ہوئے، ہر ہر معرکے مسلم اول کو بادی اکرم کی ہمراہی کا کمال حاصل رہا۔

## معرکہ اول اور سر رسول مسلم اول

رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم اطلاع ہوئی کہ اہل مکہ اک عسکر کو ہمراہ لے کر مکہ مکرہ سے رواں ہو گئے، اس اطلاع کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم سارے ہمدوں اور مددگاروں سے ہم کلام ہوئے اور رائے لی، سارے لوگوں سے اول مسلم اول کھڑے ہوئے اور کمال حوصلہ وری سے کہا کہ ہم رسول اکرم کے ہر حکم کے لئے ہر طرح سے آمادہ ہوئے، اللہ کا رسول کوئی حکم کرے، ہم روح و دل سے اس کے عامل ہوں گے، دوسرے ہمدوں سے اسی طرح کا کلام مسموع کر کے اللہ کا رسول اہل اسلام کے ہمراہ سوئے اعداء رواں ہوا۔

اہل اسلام کی رائے سے رسول اللہ کے واسطے آرام گاہ کھڑی کی گئی مسلم اول اس آرام گاہ کے آگے مسلح ہو کر کھڑے رہے، اگر کسی گمراہ کا ارادہ ہوا کہ وہ سوئے رسول آئے، اسی لمحے مسلم اول

کے حملے سے رسوا ہو کر لوٹا، اس طرح رسول اللہؐ ہر دکھ سے دور رہے۔<sup>۱</sup>

داماد رسول علی کرمہ اللہ کا لوگوں سے سوال ہوا:

”لوگو! اعلیٰ حوصلہ و آدمی سے آگاہ ہو؟“

کہا:

”وہ داماد رسول، علی ہی ہے۔“

علی کرمہ اللہ کا کلام ہوا:

”ہم ہر عدو کو مار کر کامگار ہوئے، مگر اصل حوصلہ و رکوئی دوسرا آدمی ہے۔“

لوگوں کا سوال ہوا: ہم کو اس آدمی سے آگاہ کرو!

علی کرمہ اللہ کا کلام ہوا:

”اصل حوصلہ و مسلم اول سر رسولؐ ہے! وہ اس طرح کہ اسلام کے معرکہ

اول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے آرام گاہ کھڑی کی گئی

اور صدای گئی: کوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مسلح

ہو کر کھڑا ہو اور اعداء اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھے؟

واللہ! سارے لوگ اس حوصلہ سے محروم رہے، سوائے سر رسولؐ مسلم اول

کے کہ وہ دھاری دار حسام<sup>۲</sup> لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

آرام گاہ کے آگے کھڑے رہے، کسی گمراہ کا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

رسولؐ کی الم رسائی کا ہوا وہ مسلم اول سر رسولؐ کے حملے سے رسوا

ہو کر لوٹا۔ لوگو! معلوم ہو کہ سارے لوگوں سے اعلیٰ حوصلہ و سر رسولؐ مسلم

اول ہی ہے۔“<sup>۳</sup>

سحر سے ادھر ہادی اکرمؐ، اللہ کے آگے رور و کر اس طرح دعا گو ہوئے:

”اے اللہ! علانے کلمۃ اسلام کے لئے اہل اسلام کا گروہ اکٹھا ہوا ہے،

اگر اہل اسلام اس لڑائی کو لڑ کر مارے گئے اللہ واحد کی حمد و دعا کا حوصلہ کس کو ہوگا؟ اے اللہ! ہمارے لئے وہ امداد ارسال کر کہ اس کا وعدہ اللہ کے رسول سے ہوا اور اے اللہ! اس گروہ کو ہلاک کرے،

رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی دعا والجا کو مسوع کر کے مسلم اول آگے آئے اور کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم! سلسلہ دعا کو روک دو! اللہ مالک الملک رسول اکرم کی مدد کرے گا (کما رواہ مسلم) <sup>۲</sup>

مسلم اول کے اس کلام سے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا روئے تسعود اٹھا ہی دم سرد ار ملائک ”الروح“ وحی لے کر آئے کہ:

”گروہ اعداء ہارے گا اور وہ مومن موڑ کر دوڑے گا“ <sup>۳</sup>

مسلم اول کی اسلامی روح کا مطالعہ کرو کہ ادھر سردار ملائک وحی کے لئے آمادہ ہوئے، ادھر اس کا دل عکس وحی سے معکوس ہوا اور وہ کہہ اٹھے:

”اے رسول اللہ! سلسلہ دعا کو روک دو۔“ <sup>۴</sup>

معرکہ آرائی کی گہما گہمی ہوئی، مگر اس لمحے کو مسلم اول رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے اکرام کے واسطے سامعی رہے، ہادی عالم کی ردائے مسعود گر گئی دوڑ کر اٹھائی اور رسول اکرم کو اوڑھادی اور حوصلہ وری کا کلام کہہ کے حملے کے لئے سوے اعداء رواں ہو گئے۔

۱۔ آپ نے اس طرح دعا کی: اللھم انجز لی ما وعدت نی الھم ان تھلک ہذہ العصبۃ من اھل الاسلام الیوم فلا تعبد فی الارض ابدا۔ (ہادی عالم ص: ۱۸۵) ۲۔ سیرت مصطفیٰ ج ۲ ص ۸۳) ۳۔ چہرہ انور۔ ۴۔ اس وقت یہ وحی نازل ہوئی: سیہزم السجم و یولون الدبر۔ یعنی ان کافروں کو ہزیمت دی جائے گی اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۴۹) ۵۔ حضرت شیخ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبرؓ کی فرست ایمانی تو دیکھو جبرئیل وحی لے کر چلے اور ان کے قلب پر انعکاس ہو گیا اور وہ کہہ اٹھے کہ بس اتنی دعا کافی ہے اور ان کا کہا ٹھیک اتر۔ (سیرت خلفائے راشدین ص: ۴۹) ۶۔ رجز (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۳۳)



مسلم اول اس معرکہ کے اک اہم حصہ کے سردار رہے۔ مسلم اول کا وہ لڑکا تھا کہ اس معرکہ گمراہوں کا مددگار رہا، لڑائی کے لمحے مسلم اول کے آگے ہوا، مسلم اول حملہ آور ہوئے، مگر وہ ہٹ کر دور ہوا۔ اس معرکہ اہل اسلام کا مگار ہوئے اور کئی اعداء کو محصور کر کے لائے۔

### محصوروں کا معاملہ اور مسلم اول کی رائے

رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ محصوروں کے معاملے کے لئے رائے

دو!

عمر مکرم کھڑے ہوئے اور رائے دی: اے اللہ کے رسول! سارے محصوروں کو مار ڈالو! مسلم اول کھڑے ہوئے اور کہا: اے رسول اللہ! ہماری رائے ہے کہ محصوروں سے مال رہائی لے کر سارے لوگوں کو رہا کر دو اور اس سے آس ہے کہ وہ اسلام لا کر گمراہوں کے آگے ہمارے مددگار ہوں۔

ہادی اکرم صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم ہدم مکرم کی رائے سے مسرور ہوئے اور حکم ہوا کہ محصوروں سے مال رہائی لے کر سارے محصوروں کو رہا کر دو! معرکہ احد اور مسلم اول

معرکہ اول کی رسوائی اور بار، اہل مکہ کی حوصلہ وری کو گہری کالک لگا گئی، اہل اسلام سے اس رسوائی کے صلے کے واسطے اہل مکہ سارا سال سرگرمی اور ولوے سے لڑائی کے لئے مال اور اسلحہ کے حصول کے لئے ساعی رہے، مال کا معرکہ احد ہوا۔

اول اول اہل اسلام کا مگار ہوئے مگر گھائی والوں کی حکم عدولی سے سارا معاملہ الٹ ہوا، کامگاری رک گئی سارا عسکر اسلامی کئی حصے ہو کر ادھر ادھر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ

۱۔ مینہ (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۱۴۹) ع عبد الرحمن بن ابی بکر جو اس وقت مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے

(ایضاً: ص: ۵۰، بحوالہ استیعاب لابن عبدالبر) ع فدیه۔ ع ہادی عالم، ص: ۱۹۵) ع (ایضاً: بتغییر)

وسلم کے ہمراہ ہمد ظلیحہ اور سعد ہی رہ گئے، اس سے آگے سارے لوگوں سے اول مسلم اول رسول اللہ سے ملے۔

رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم گھائل ہو کر اک گڑھا کہ اس کی کھدائی ولد عامر کی رائے سے اہل اسلام کے لئے ہوئی وہاں گر گئے۔

مسلم اول سسر رسول علی کریمہ اللہ، اور ہمد ظلیحہ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کھڑے ہوئے اور احد کی اک کھوہ آگئے اس لئے مسلم اول رسول اللہ کے ہمراہ رہے۔

گمراہوں کی گواہی

معمر کہ ہوا، مکمل گمراہوں کا اک سردار آ کر کھڑا ہوا اور صدا لگائی:

”محمدؐ سالم ہے؟“

رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا:

”رد کلام سے رکے رہو!“

اسی طرح دہرا کر صدا لگائی:

”مسلم اول، سالم ہے؟“

مگر محروم رہا کہ کوئی رد کلام مسوع ہو، اس لئے صدا لگائی:

”عمر سالم ہے؟“

(گمراہ سردار کی اس صدا سے معلوم ہوا کہ گمراہوں کو اس کا علم رہا کہ ہادی اکرم کے علاوہ مسلم

صحیح بخاری میں ہے کہ آپ کے محافظین کی تعداد بارہ ہے۔ دلائل بتنی اور نسائی میں تعداد گیارہ ہے جبکہ صحیح مسلم میں سات بیان کی گئی ہے اور ابن سعد میں چودہ صحابہ کے نام ہیں، اس لئے کہ لوگ کچھ دیر کے لئے بھی جدا ہوئے اور پھر آنحضرت سے آئے اور تعداد مختلف رہی۔ (سیرت مصطفیٰ، ج: ۱، ص: ۵۷)

ج (سیرت خلفائے راشدین، ج: ۱، ص: ۵۱) ح (ہادی عالم بتغییر)

ح (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۱۶۳) ح (ابوسفیان۔

اول ہی حاکم عالم اسلام ہے۔

## معمر کہ حمراء الاسد اور مسلم اول

رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم معمر کہ احد سے لوٹے، اطلاع ملی کہ گمراہوں

کا ارادہ ہے کہ سوائے معمورہ رسول لوٹ کر حملہ آور ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ گمراہوں سے معمر کے لئے وہی لوگ

آمادہ ہوں کہ معمر کہ احد کے لئے ہمراہ رہے۔ گو کہ اہل اسلام گھائل اور گمراہ حال رہے،

مگر دم کے دم ساٹھ اور دس آدمی آمادہ ہو گئے۔

مسلم اول اس معمر کے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمراہ رہے، اہل اسلام کی اس آمادگی

کا گواہ اللہ کا کلام ہے:

”وہ لوگ کہ گھائل ہو رہے، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی صدا کے آگے

لڑائی کے واسطے آمادہ ہو گئے۔“

## اسرائیلی گروہ سے معمر کہ

اسرائیلی گروہ سے معمر کہ ہوا، مسلم اول رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہر ہر گام

ہمراہ رہے۔

## کھائی والا معمر کہ

کھائی والے معمر کے مسلم اول، کھائی کے اک حصہ کے لئے مامور ہوئے اور

۱ ابو سفیان نے پہاڑ کے قریب آ کر پکارا: کیا قوم میں محمد ہیں؟ کوئی جواب نہ ملا تو اس نے ابوبکرؓ اور عمرؓ کا نام لیا، اس سے

معلوم ہوتا ہے کہ کفار بھی آنحضرتؐ کے بعد ابوبکر صدیقؓ ہی کو رئیس امت سمجھتے تھے۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۳۲)

۲ (ہادی عالم ص: ۲۳۰، ہیرت خائفے راشدین ص: ۵۱) ۳ قرآن مجید میں ذکر ہے: الذین استجابوا للہ والرسول

من بعد ما اصابہم القرع۔ (ایشا ص: ۵۱) ۴ بیور بنو نضیر۔ ۵ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۳۳) ۶ غزوہ خندق۔

ہر عدد کو ادھر سے روک کر رکھا۔<sup>۱</sup>

عروسِ مطہرہ کے لئے مکاروں کی مکروہ کاروائی<sup>۲</sup> اور مسلم اول کا حلم گمراہوں سے معرکہ آرائی کر کے عسکر اسلام اک معرکہ سے کامگار ہو کر سوئے معمورہ رسولؐ راہی ہوا، معمورہ رسولؐ سے کئی کوس ادھراک مرحلے آ کر رکا، وہاں اک معاملہ اس طرح کا ہوا کہ اس سے اہل اسلام کو عموماً اور ہادی کامل کو اہم طور سے دلی دکھ اور صدمہ ہوا۔ رسول اکرمؐ کی عروسِ مطہرہ اور ہمد مکرّم کی لڑکی، سارا عرصہ رسول اللہؐ کے ہمراہ رہی، عروسِ مطہرہ کے لئے اک محل الگ رہا، راہ کے اک مرحلے عسکر اسلام رکا، عروسِ مطہرہ عسکر کی ورودگاہ سے دور طہرہ<sup>۳</sup> کے حصول کے لئے سوئے صحرا راہی ہوئی۔

عروسِ مطہرہ کو اس لئے اک عرصہ لگا کہ عروسِ مطہرہ کا اک ہارٹوٹ کرگرا اس ہار کو اکٹھا کر کے وہاں سے ورودگاہ لوٹ آئی، وہاں آ کر معلوم ہوا کہ عسکر اسلامی رواں ہوا، اسی محل اک ردا اوڑھ کر سو گئی، رسول اللہؐ کے مامور کردہ ولدِ معطل<sup>۴</sup> ادھر آئے، محسوس ہوا کہ عروسِ مطہرہ ہے، سواری لے کر ادھر آئے، عروسِ مطہرہ سوار ہوئی اور ولدِ معطل سواری کی مہار لے کر آگے آگے رواں رہے اور عسکر اسلامی سے آئے۔

مکاروں کا گروہ<sup>۵</sup> عروسِ مطہرہ کی رسوائی اور سوء کردار کے لئے ساعی ہوا، عروسِ مطہرہ کو اک مسلمہ، امِ مطح سے سارا حال معلوم ہوا، رسول اللہؐ کی آمادگی سے والدِ مکرم کے گھر آئی اور والد سے رورو کر سارا حال کہا، والد مکرم روئے اور کہا:

۱ (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۵۱۰) غزوہٴ معطلق، اس کا دوسرا نام غزوہٴ مرسیع بھی ہے (طبقات ابن سعد) اس غزوہ میں عقیقہ کائنات، محبوبہ رسول، عروسِ مطہرہ، صدیق اکبرؓ کی بیٹی، ام المومنین، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی، جس سے رسول اللہؐ، صدیق اکبرؓ، سیدہ عائشہ صدیقہ اور تمام مومنین کے دلوں کو انتہائی دکھ ہوا۔ ۲ (المنجد) ام المومنین قضائے حاجت کیلئے تشریف لے گئی تھیں۔ ۳ حضرت صفوان بن معطل۔

”اللہ کا سہارا رکھو اور حکم الہی کی آس رکھو“۔<sup>۱</sup>

مسلم اول کے لئے کمال الم رساں معاملہ وہ ہوا کہ عام اہل اسلام سے دو اور مسلم اول کے اسرہ کا اک آدمی، مسطح کہ مسلم اول کے مال سے مالا مال رہا، وہ مکاروں کی رائے کے ہم رائے ہوئے۔

مسطح کی اس مکروہ عملی سے مسلم اول کا اس کے واسطے اللہ سے عہد ہوا:  
”ساری عمر مسطح کو مال سے محروم رکھوں گا“۔

اس عہد کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی:  
”لوگوں کا مکرم و مسعود آدمی اس عہد سے دور رہے کہ اسرہ والوں اور مال سے محروم لوگوں اور وداغ مکہ والوں سے امداد روکے گا، صلہ رحمی اور عمدہ سلوک کرو! اگر اللہ سے عمدہ سلوک کی آس ہے اور اللہ عمدہ سلوک والا اور کمال رحم والا ہے“۔

اس کو مسوع کر کے مسلم اول کہہ اٹھے کہ واللہ! ہم کو آس ہے کہ اللہ ہم سے عمدہ سلوک کرے اور کہا:  
”واللہ! ساری عمر مسطح کو مال سے مالا مال رکھوں گا“۔<sup>۲</sup>

۱ (ہادی عالم بالا اختصار) ۲ حضرت حسان بن ثابتؓ۔ حضرت حنظل بن جحشؓ ۳ حضرت ابو بکر صدیقؓ حضرت عائشہؓ کی برکت کے بعد مسطح بن اثاثہ کی کفالت سے دستبردار ہو گئے تھے اور فرمایا خدا کی قسم اس فتنہ پردازی کے بعد اس کی کفالت نہیں کر سکتا، لیکن جب یہ آیتیں نازل ہوئیں: ”ولا یاتل اولوالفضل منکم والسعة ان یؤتوا ولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفووا لیصفحو الا متحون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم“ (النور: ۲۲) ترجمہ: تم میں بڑے صاحب مقدرت لوگ رشتہ داروں، مساکین اور مہاجرین کو امداد نہ دینے کی قسم نہ کھائیں اور چاہئے کہ ان کے قصور معاف کریں اور ان سے درگزر کریں! کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ تو حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے اور تم کھائی کہ اب ہمیشہ اس کا کفیل رہوں گا۔ (سیر الصحابہ، ج ۱، ص ۳۵)

## معاہدہ صلح اور مسلم اول

وداع مکہ کو دو کم آٹھ سال ہوئے، رسول اکرم عمرے کے ارادے سے دو سو کم سولہ سو اللہ والوں کو ہمراہ لے کر سوائے مکہ راہی ہوئے، راہ کے اک مرحلے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، وہاں رسول اکرم کو اطلاع ملی کہ مکے والے، اہل اسلام کو مکے سے دور رہی روک کر معرکہ آراء ہوں گے۔

رسول اللہ کا کلام ہوا:

”لوگو! ہم کو رائے دو!“

مسلم اول سر رسول آگے آئے اور کہا:

”اے اللہ کے رسول! عمرے کے ارادے سے آئے ہو، اس لئے سوئے مکہ

رواں رہو، اگر کوئی آڑے آئے گا، اسی سے لڑائی ہوگی۔“

رسول اللہ کو مسلم اول کی رائے عمدہ لگی، اللہ کا اسم کہہ کے اٹھے اور اہل اسلام کو لے کر مکہ سے کوئی دس کوس ادھراک گاؤں آ کر رکے، وہاں آ کر رسول اللہ کے اک دلدادہ کو اور اس سے آگے رسول اللہ کے دہرے داماد، اسلام کے حاکم سوم کو حکم ہوا کہ مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہو اور مکے والوں سے کہو:

”ہمارا عمرے کا ارادہ ہے اور ہمارا عہد ہے کہ ہم لڑائی سے دور ہوں گے۔“

اور رؤسائے مکہ سے اور مکہ مکرمہ کے مسلموں سے کہہ دو:

”اک عرصہ ادھر، اللہ اہل اسلام کو کامگاری عطا کرے گا۔“

داماد رسول حاکم سوم، مکہ گئے اور وہاں روک لئے گئے اور ادھر اہل اسلام کو کسی طرح اطلاع ملی کہ

۱۔ (ہادی عالم، ص: ۲۹۱، اختصاراً) ۲۔ حدیبیہ مکہ سے ساڑھے نو میل، جدہ کی سمت واقع ہے۔ ۳۔ حضرت خراش بن امیہ

خرامیؓ سے حضرت عثمان بن عفانؓ

داماد رسول، حاکم سوم مارے گئے، اس اطلاع سے رسول اللہ کو کمال صدمہ ہوا، صدادی کہ ہر آدمی عہد کرے کہ وہ رسول اللہ کے ہمراہ ہر طرح لڑے گا۔

مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ اہل اسلام کا اک عسکر طرار لڑائی کے لئے آمادہ ہوا ہے، وہ ڈر گئے اور صلح کے لئے آمادہ ہوئے۔

عروہ و ولد مسعود<sup>۱</sup> وہاں سے رواں ہو کر رسول اکرم سے ملا اور کہا:  
 ”اے محمد! وہ لوگ کہ اسلام لائے اور ہدم ہوئے مکہ والوں کے ہمدرد  
 ہو کر لڑائی سے روگرداں ہوں گے۔“

مسلم اول کہ ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمراہی رہے، کمال حلم اور سہار کے مالک رہے، مگر اس کلام سے اس کو دلی صدمہ اور دکھ ہوا، اس لئے اس سے کڑا کلام کر کے کہا:

”امر محال ہے ہمارا کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے  
 روگرداں ہو۔“

عروہ کا لوگوں سے سوال ہوا: ہم کو اس آدمی سے آگاہ کرو! کہا: وہ سر رسول، مسلم اول ہے۔  
 عروہ کا کلام ہوا کہ واللہ! مسلم اول کا ہم سے صلہ رحمی کا معاملہ رہا ہے، اس لئے رد کلام سے دور ہوں۔  
 معاہدہ صلح مکمل ہوا، اہل اسلام کو محسوس ہوا کہ وہ اس معاملے کو طے کر کے گمراہوں  
 کے آگے بٹلکے ہوئے اور ہماری ساکھ کو دھکا لگا، سارے لوگوں کا دل دکھا، اس لئے عمر مکرم،  
 سر رسول مسلم اول کے آگے آئے اور کہا:

”اے مسلم اول گمراہوں کے آگے اس طرح رسوا ہو کر کس لئے صلح ہوئی؟“

مسلم اول کہ محرم اسرار عہدہ رسول رہے، اٹھے اور کہا:

”اے عمر! ہادی اکرم اللہ کا رسول ہے، امر محال ہے کہ اللہ کی حکم عدولی

۱۔ عروہ بن مسعود ثقفی جو اہل طائف کے سردار تھے۔ (ہادی عالم، بالاختصار) ج ۲ برداشت۔ س ۱۰۰۔

کرے، اللہ اس کا حامی و مددگار ہے۔

اور اسی طرح ہوا۔ رسول اللہ کو اک مکمل سورہ <sup>۱۱</sup> وحی کی گئی، اس وحی سے اللہ کی گواہی آئی کہ معاہدہ صلح اہل اسلام کی کھلی کامگاری ہے۔

### اسرائیلی گروہ سے اک اور معرکہ <sup>۱۲</sup>

اس معرکہ کے رسول اللہ کو اک درد اٹھا، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم حملہ آور عسکر کی ہمراہی سے دور رہے اور مسلم اول کو اس مہم کے لئے علم عطا ہوا، مسلم اول اہل اسلام کو ہمراہ لے کر حملہ آور ہوئے اور کمال سعی کی کہ حصار محکم ٹوٹے، گو کامگاری سے محروم رہے، مگر اسرائیلی گروہ کی اکثر کم کر دی۔

### مسلم اول کی اک مہم <sup>۱۳</sup>

مسلم اول اک مہم کے علمدار ہو کر حسی سے ادھر گئے، سو آدمی ہمراہ رہے، کئی گمراہوں کو ہلاک اور کئی گمراہوں کو محصور کر کے کامگار لوٹے۔

### مسلم اول کی دوسری مہم <sup>۱۴</sup>

مہم اول کی طرح اس مہم کے علمدار مسلم اول ہوئے اور کامگار لوٹے۔

### معرکہ مکہ مکرمہ اور مسلم اول <sup>۱۵</sup>

اہل مکہ کی مکروہ عملی سے معاہدہ صلح ٹوٹا اور اس طرح معرکہ مکہ مکرمہ کی راہ ہموار ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم دس سو کے دس گروہ کا اک عسکر طرار ہمراہ لے کر سوائے مکہ راہی ہوئے، مسلم اول اور ہر دم کا ہمراہی، رسول اللہ کے ہمراہ رہا۔

۱) سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۳۶ (۲) سورہ فتح اسی موقع پر نازل ہوئی۔ (ہادی عالم، ص: ۳۰۳) ۳) غزوہ خیبر۔ ۴) بیروت

خلفائے راشدین، ص: ۵۱) ۵) بنی کلاب۔ ۶) ادوی القری۔ ۷) بنو خزیمہ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۳۶) ۸) فتح مکہ مکرمہ۔



مکہ آ کر والد مکرم، ولد عامر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے آگے لائے کہ اللہ کا رسول اس کو اسلام سے مالا مال کرے، رسول اللہ کا اس کے صدر کو لمس ہوا، وہ اسی لمحے اسلام لائے۔

## معرکہ وادی و اوطاس اور مسلم اول

اول اول اس معرکہ کا حال اس طرح ہوا کہ اہل اسلام گراں حال ہو کر ادھر ادھر ہو گئے اور ہادی اکرم صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے گرد کوئی دس آدمی رہ گئے: مسلم اول ہمد مکرم، ہمد عمر، ہمد علی کریم اللہ، ہمد اسامہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے عم مکرم ہادی کامل کے ہمراہ رہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم اور عم مکرم کی صداؤں سے سارے اہل اسلام اکٹھے ہوئے اور اک معرکہ عام ہوا مال کار اہل اسلام کا مگار ہوئے۔

## اہل کہسار کا محاصرہ

معرکہ مسطورہ سر کے عسکر اسلام آگے رواں ہوا اور مصر کہسار آ کے رکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ اہل کہسار کا محاصرہ کر کے رہو! اس محاصرے کو کوئی آدھا ماہ ہوا، اک سحر کو ہادی اکرم سو کر اٹھے، مسلم اول سے کہا کہ ہم کو سونے ہوئے اک الہام ہے۔ اور سارا الہام مسلم اول سے کہا۔ مسلم اول، الہام کے سامع ہوئے اور کہا ہم کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس سال اس حصار کی کامگاری محال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کا کلام ہوا کہ

۱۔ سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۳۶) ۲ (الینفا) ۳ طائف۔ مع آنحضرت نے خواب میں دیکھا کہ ایک دودھ سے بھرا ہوا پیالہ آپ کو دیا گیا مگر ایک مرغ نے آ کر ٹانگ ماری اور سارا دودھ گر گیا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ! میرا گمان ہے کہ اس قلعہ کو فتح کرنے کا ارادہ ابھی حاصل نہ ہوگا آپ نے فرمایا کہ میرا بھی یہی خیال ہے اور صحابہ سے مشورہ فرما کر کوچ کا حکم دیا۔ (تاریخ اسلام)

ہاں! ہم کو اسی طرح محسوس ہو رہا ہے، اہل اسلام سے رائے لے کر رسول اللہؐ وہاں سے راہی ہوئے۔

مسلم اول کا لڑکا اسی معرکہ کی سپہام کاری سے گھائل ہوا، اور مال کارا سی گھاؤ سے راہی ملک عدم ہوا

## معرکہ بعسرہ<sup>۲</sup> اور مسلم اول

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حاکم روم ہرکلس حملے کا ارادہ کر رہا ہے، رسول اللہؐ کا حکم ہوا کہ اس معرکہ کے لئے لوگ کھلے دل سے اموال دے کر اللہ کے آگے کامگار و مسرور ہوں۔

ہمد مکرم، مسلم اول گھر گئے اور گھر کے سارے اموال لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لا ڈالے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہوا:

”گھر والوں کے لئے کوئی مال رکھ کر آئے ہو؟“

کہا: ”ہاں! گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کا رسول ہے۔“

اس سے اول ہمد عمر گھر کا آدھا مال اللہ کی راہ دے کر مسرور رہے اور دل سے کہا کہ اس امر سے ہمد مکرم مسلم اول سے آگے رہوں گا، مگر مسلم اول سارا مال دے کر گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر آئے، دل سے کہا کہ محال ہے کہ ہمد مکرم، مسلم اول سے سوا کوئی عمل صالح کر کے اس سے آگے ہوں۔

ہمد مکرم، مسلم اول اس معرکہ مال و روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے اور عسکر اسلام کے مطالعہ کار و امام ہوئے۔<sup>۳</sup>

۱ حضرت عبد اللہؓ غزوہ تبوک کو سخت آزمائشی حالات کی وجہ سے غزوہ عسره بھی کہتے ہیں، عسره کے معنی تنگی اور تکلیف کے ہیں۔ (ہادی

عالم) ۲ لشکر کا جائزہ اور امامت، دونوں امور حضرت صدیق اکبرؓ کے سپرد تھے۔ (سیرت خلفائے راشدین، ص ۵۴)

اعدائے اسلام معرکہ آرائی کے حوصلہ سے محروم رہے، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم  
عسکر اسلام کو لے کر معمورہ رسول لوٹ آئے۔<sup>۱</sup>

## موسم احرام کی سرداری

وداع مکہ کو اک کم دس سال ہوئے، گروہوں کی آمد کا سلسلہ حد سے سوار ہا، اس لئے  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ مسلم اول اہل اسلام کو لے کر سوائے مکہ راہی  
ہوں اور وہی سارے امور عمرہ اور احرام کے معلم ہوں۔ اس طرح سہ صد سوا اہل اسلام کو ہمراہ  
لے کر مسلم اول مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہوئے۔ مسلم اول اہل اسلام کے سردار اور والی  
ہوئے، ادھر سرور عالم کو کلام الہی کی اک سورہ وحی کی گئی، اللہ کا حکم ہوا کہ گمراہوں کو اطلاع کر دو کہ  
اللہ کا حکم وارد ہوا ہے کہ اس سال کے علاوہ سارے گمراہ سدا کے لئے حرم سے دور ہوں۔<sup>۲</sup>

ہدم علی کریم اللہ کو حکم ہوا کہ دوڑ کر راہی ہو اور عمرہ و احرام کے سارے احکام ادا کر کے  
گمراہوں کو اطلاع کر دے کہ اللہ کا حکم اس طرح ہوا ہے۔

داماد رسول علی کریم اللہ معمورہ رسول سے راہی ہو کر راہ کے اک مرحلے آ کر ہدم مکرم سے ملے،  
مسلم اول، سر رسول کا سوال ہوا کہ اے علی! حاکم ہو کہ مخلوم، آمر ہو کہ مامور؟ کہا: مامور ہوں،  
حاکم اور سردار عسکر، سر رسول مسلم اول ہی ہے۔ مامور ہوں کہ گمراہوں کو اکٹھا کروں اور کلام  
الہی کا وہ حصہ سارے لوگوں کے آگے کہوں داماد رسول علی کریم اللہ، مسلم اول اور اہل اسلام کے  
ہمراہ مکے آئے اور سارے احکام ادا کر کے لوگوں سے کہا کہ گمراہوں کے سارے گروہ اکٹھے

۱ (ہادی عالم، ص: ۳۸۷) ۲ ۹۔ ۱۰ میں حضرت ابو بکر صدیقؓ امیر حج ہو کر تین سو مسلمانوں کے ساتھ حج کے لئے  
تشریف لے گئے۔ ۳ اسی دوران سورہ توبہ کی وہ آیات نازل ہوئیں جن میں یہ حکم تھا کہ ”اس سال کے بعد مشرکین  
مسجد حرام کے قریب نہ جائیں اور ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کریں وغیرہ“ (ایضاً، ص: ۳۹۵، تاریخ اسلام،

ہوں! وہ اکٹھے ہو گئے۔ داماد رسول علی کریم اللہ کے آگے آئے اور کلام الہی کا وہ حصہ سارے لوگوں کے آگے کہا۔

اس طرح سارے لوگوں کو حکم الہی سے مطلع کر کے داماد رسول علی کریم اللہ اور مسلم اول اہل اسلام کو ہمراہ لے کر معمورۃ رسول لوٹ آئے۔<sup>۱</sup>

### ہادی اکرم کا وصال مسعود اور اسلام کا اول امام و حاکم

وداع مکہ کو دس سال ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم احرام الوداع کے لئے سوئے مکہ راہی ہوئے، مسلم اول سر رسول، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے وداعی عمرہ و احرام کے ہمراہی رہے، سارے احکام ادا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سوئے معمورۃ رسول لوٹے۔

رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم اک سحر حرم رسول آئے اور عماد اسلام ادا کر کے ہمدوں اور مددگاروں سے ہمکلام ہوئے، اس کلام کا ماحاصل اس طرح ہے:

”اک آدمی کو اللہ کا حکم ہوا ہے کہ اگر اس کا ارادہ ہو وہ عالم مادی کا آرام لے لے اور اگر اس کا ارادہ ہو وہ اکرام لے لے کہ اللہ کے گھر ہے، اس لئے اس آدمی کی رائے ہوئی کہ وہ اللہ کے گھر کو راہی ہو۔“

اس کلام کو مسموع کر کے مسلم اول رواٹھے، اس سے لوگوں کو احساس ہوا کہ اس آدمی سے مراد، اللہ کا رسول ہے۔<sup>۲</sup>

۱ (بخاری، باب فضائل الصدیقؑ - ہادی عالم، ص: ۲۹۶) ۲ (ایضاً)

## ہمد مکرّم کی دلداری کے لئے اللہ کے رسول کا کلام

ہمد مکرّم کی دلداری کے لئے اللہ کے رسول کا کلام ہوا کہ وہ آدمی کہ اس کی ہمدی اور اس کے مال سے اللہ کے رسول کو سہارا ملا، ہمد مکرّم ہے کا اس کا دل دوسروں سے سوا، اللہ اور اس کے رسول کے احساس سے معمور ہے۔

لوگوں سے کلام و داعی کر کے سرور عالمؐ لوگوں کے سہارے گھر آگئے، دردِ حد سے سوا ہوا اور اسی لئے سرور عالمؐ کے لئے محال ہوا کہ وہ حرمِ رسول آ کر لوگوں کے ہمراہ عمادِ اسلام کے لئے کھڑے ہوں، ہمد مکرّم کو حکم ہوا کہ وہ ہر عمادِ اسلام کی ادائے گی کے لئے لوگوں کے امام ہوں۔

علماء سے مروی ہے کہ لوگوں کی رائے ہوئی کہ ہمد مکرّم کا دل ملائم ہے، اس لئے عمر مکرّم امام ہوں، مگر سرور عالمؐ کا اصرار ہوا کہ ہمد مکرّم ہی امام ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلم اول ہی امام رہے۔

اک سحر معمول کی طرح سسر رسول مسلم اول، اہل اسلام کو لے کر عمادِ اسلام کے لئے کھڑے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے، مسلم اول کا ارادہ ہوا کہ مصلے سے بیٹے، مگر مسلم اول کو ادھر ہی روک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اور مسلم اول کے ہمراہ عمادِ اسلام ادا کی، مگر محال ہوا کہ عمادِ اسلام کے لئے کھڑے ہوں۔<sup>۱</sup>

ماہِ سوم کی دس اور دو سو مواری سحر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحر کی عمادِ اسلام کے لئے گھر کے در سے لگ کر کھڑے ہوئے، مسلم اول اہل اسلام کے ہمراہ عمادِ اسلام کے لئے آمادہ دکھائی دئے ہر ور عالم مسکرائے،

۱۔ (ہادی عالم، ص: ۳۰۵) ۲۔ ابو بکر صدیقؓ نے آنحضرتؐ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن آپؐ نے اشارے سے منع فرمایا اور خود ان کے داہنے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا کی۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۳۹، بحوالہ بخاری) ۳۔ بارہ بیچ الاول۔

مسلم اول کا ارادہ ہوا کہ مصلے سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کو آگے کرے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ عماد اسلام مکمل کرواؤ اور اسی دم وہاں سے ہٹ گئے، اس سحر رسول اللہ کو درد کی کمی محسوس ہوئی، اس لئے مسلم اول، رسول اللہ کی آمادگی سے اک عروس کے گھر گئے۔<sup>۲</sup>

ادھر رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم دارالسلام کو سدھار گئے، مسلم اول وہاں سے لوٹے، حرم رسول کا درلوگوں سے اٹا ہوا ملا، مگر وہ عروس مطہرہ کے گھر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے روئے مسعود سے ردا اٹھائی، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے سر سے مول لگا کر روئے اور کہا:

”مرے والد اور والدہ کی روح رسول اکرم کے لئے کام آئے۔ واللہ! رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے واسطے دہری مرگ کہاں؟ مرگ موعود آگئی، دہرا کر کس طرح مرگ ہوگی؟“<sup>۳</sup>

اس کلام کو کہہ مسلم اول وہاں سے ہٹ گئے، ادھر عمر مکرم رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے وصال کی اطلاع سے حواس کھو گئے اور مصمص<sup>۴</sup> لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ:

”اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے وصال کا مدعی ہوا، عمر اس کو مار دے گا۔“

اس حال کا مطالعہ کر کے مسلم اول آگے آئے اور عمر سے کہا:

۱۔ آپ نے اشارہ سے حکم دیا کہ نماز پوری کرواؤ۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۳۹) ۲۔ چونکہ اس روز بظاہر آنحضرت کے مرض میں افاقہ معلوم ہوتا تھا، اس لئے حضرت ابو بکر صدیق ؓ نماز کے بعد آنحضرت سے اجازت لے کر مقام خ کو جہاں ان کی زوجہ محترمہ حضرت خاند بنّت زہیر رہتی تھیں، تشریف لے گئے (ایضاً) ۳۔ موت سے ۱۰۰ آپ چپ چاپ رسول اللہ کے پاس آئے اور چہرہ انور سے چادر ہٹا کر پیشانی کو چوما اور رو کر کہا: یا ابی انت وامی واللہ لا یجمع اللہ علیک موتین اما الموتة التي کنت علیک فقد ذقتها ثم لم یصیبک بعد موتہ ابدا۔ ترجمہ: میرے ماں باپ آپ پر قربان! خدا کی قسم آپ پر دو موتیں جمع نہ ہوگی، وہ موت جو آپ کے لئے مقدر تھی، اس کا مزہ کچھ پکھے، اس کے بعد پھر کبھی موت نہ آئے گی۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۳۹) ۵۔ تلوار۔

”اے عمرؓ! مگر عمر اسی طرح لوگوں سے ہم کلام رہے۔“

مسلم اول الگ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو صدا دی، سارے لوگ عمرؓ کے ہم کلام ہوئے:

”اگر کسی کا اللہ محمدؐ ہے، معلوم ہو کہ محمدؐ کا وصال ہو اور اگر لوگوں کا اللہ اک اللہ

ہی ہے معلوم ہو کہ اللہ سدا سے ہے اور سدا رہے گا۔“

اور کلام الہی کا اک حصہ کہا:

”محمدؐ اک رسول ہی ہے، اس سے آگے کئی رسول سدھار گئے، سو اگر اس

کا وصال ہو اور اگر اسلام کے لئے اس کو کوئی مار دے، مگر ابی کی راہ لگو گے؟

اگر کوئی مگر ابی کی راہ لگے گا وہ اللہ کے لئے الم رساں کہاں ہوگا؟ اور اللہ کی

حمد والوں کو عمدہ صلہ ملے گا۔“

مسلم اول کی عمدہ کلامی سے ہر آدمی کو حوصلہ ہوا اور ہر آدمی کے من سے کلام الہی کے اسی حصے کی ادائے گی کا سلسلہ ہوا۔

عمرؓ کے کلام ہے کہ اول اول مسلم اول کے کلام سے لاعلم رہا، مگر کلام الہی کے اس حصہ کو مسوع کر کے اس طرح لگا کہ وہ حصہ اسی دم وحی ہوا ہے۔

### عالم اسلام کی سرداری کا اہم معاملہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی اطلاع سے مکاروں کا گروہ سرگرم

ہوا کہ کسی طرح اہل اسلام نکلنے نکلنے ہو کر اک دوسرے کے عدو ہوں، اس گروہ کی سعی سے

سرداری کا مسئلہ کھڑا ہوا۔

سارے مددگار اولاد ساعدہ کے محل اکٹھے ہو گئے، اک دو ہمدم ادھر آ گئے، کئی لوگوں کی

رائے ہوئی کہ سعد مدگاروں کے حاکم و سردار ہوں، مگر کئی دوسرے اس رائے کے آڑے آئے، اس لئے معاملہ اس حد آگے ہوا کہ اہل اسلام لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے، مگر اللہ کا ارادہ ہوا کہ اسلامی کارواں اسی طرح رواں دواں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم رواں کر گئے، اسی لئے اسلامی کارواں کو مسلم اول اور عمر مکرم کی طرح کے ہادی عطا ہوئے۔

مسلم اول کو اس کی اطلاع ہوئی، عمر مکرم کو ہمراہ لے کر اسی دم وہاں گئے اور مدعا رہا کہ کسی طرح اہل اسلام کی لڑائی رکے اور اصلاح ہو اور علی کرمد اللہ کو مامور کر گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے امور لحد تکمیل کرے۔

ادھر مدگاروں کا مدعی رہا:

”اک حاکم مدگاروں سے ہو اور اک حاکم ہمدموں سے“۔

ابو بکرؓ و عمرؓ نظم خلافت کو درست کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ذمہ پر مقدم فرمایا اور ہونا بھی یہی چاہئے تھا، اس لئے کہ تجزیہ و تکفین میں دیر ہونے سے عام اموات کی طرح جسم مقدس میں (نعوذ باللہ) کسی قسم کی خرابی کے پیدا ہونے کا اندیشہ نہ تھا، البتہ خلافت کا نظام بگڑ جاتا اور کوئی ایسا شخص خلافت کے لئے منتخب ہو جاتا، جس میں سیاسی قابلیت اور روحانی قوت اس وجہ کی نہ ہوتی تو اس کی اصلاح ناممکن تھی اور جو فتنے ارتداد کے پیش آتے ان میں دین اسلام کا باقی رہ جانا بظاہر ناممکن تھا، پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ رسول خدا کی تجزیہ و تکفین جیسے عظیم الشان کام کا بغیر کسی خلیفہ کی سرکردگی کے انجام پانا ہزاروں خرابیوں کا سبب بنتا مثلاً: نماز جنازہ کے متعلق اختلاف ہوتا، کچھ لوگ جنازہ مبارک کو فجر سے پڑھنا چاہتے تھے اور اس میں جو قیامت برپا ہوتی، ظاہر ہے، اگر کوئی آپ کو دیکھتا چاہتا، کوئی روتا، کوئی بے ہوش ہو جاتا، عورتوں اور بچوں کا بھی ہجوم ہوتا اور خدا جانے کیا کیا ہوتا، پھر مقام ذمہ میں اختلاف ہوتا کہ مکہ میں ذمہ کریں جو آپ کا مولد ہے یا ملک شام میں جو حضرت خلیل کا مدفن ہے یا بیت المقدس میں جو عام قبرستان ہے؟ اگر کوئی خلیفہ نہ ہوتا تو ان اختلافات کا فیصلہ کون کرتا؟ اب چونکہ حضرت صدیق اکبرؓ خلیفہ ہو گئے تھے، لہذا انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ نماز فجر کے اندر ہوگی، دس دس آدمی اندر جائیں اور نماز پڑھ کر باہر آجائیں اور تنہا نماز پڑھیں، نبی کے جنازے پر کوئی امام نہیں بن سکتا، وہ خود امام ہیں اور مقام ذمہ کے لئے حضرت صدیق اکبرؓ نے ایک حدیث پڑھی کہ انبیاء کی روح پاک جہاں قبض کی جاتی ہے، وہیں ان کی قبر مبارک ہونی چاہئے۔ لیجئے! سب اختلافات باسانی رفع ہو گئے۔ (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۵۵-۵۶)



مسلم اول آگے آئے اور کہا:

”دو عملی سے دور رہو! دو عملی سارے کاموں اور حکموں کے لئے الم رساں ہوگی، ہر اک آدمی دوسرے سے لڑے گا، اسوۂ رسولؐ سے دوری ہوگی، ہر سوگراہی ہوگی، مسئلہ کھڑا ہوگا، مگر اس کی اصلاح کے واسطے لوگ مصلح سے محروم ہوں گے۔“<sup>۱</sup>

مسلم اول کا کلام ہوا:

”امراء ہم سے ہوں گے اور صلاح<sup>۲</sup> کا رمدگاروں سے۔“

اک مددگار اٹھے اور کہا:

”واللہ! اس طرح ہم کو گوارا کہاں؟ ہاں! اک حاکم مددگاروں سے ہو اور اک ہمدموں سے۔“

مسلم اول کا کلام ہوا:

”گو کہ مددگاروں کی عمدہ عملی معلوم ہے، مگر دراصل سارے لوگ اسی آدمی کے محکوم ہوں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرہ<sup>۳</sup> والا ہو۔ اسلام اور ہمراہی رسولؐ کی رو سے ہر ہمدم، مددگاروں سے سوا اس امر کا اہل ہے۔

لو اک ہمدم رسولؐ ادھر ہے اور دوسرا عمر مکرّم ادھر، آگے آؤ اور کسی اک سے عہد کر لو کہ وہ سارے اہل اسلام کا حاکم ہے۔“

عمر مکرّم آگے آئے اور کہا:

”لوگو! مسلم اول ہی ہمارا حاکم ہے، اس لئے کہ وہ سارے لوگوں سے

۱۔ (حیاء الصحابہ، ج: ۲، ص: ۷۷) ۲۔ وزراء۔

۳۔ حضرت جناب بن المنذر بن الجعفیؓ سے خاندان قریش۔

۴۔ ابو عبیدہ بن الجراحؓ۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۳۱۰، حیاء الصحابہ، ج: ۲، ص: ۲۳۰)

اعلیٰ ہے اور سرور عالم کا سدا کا ہمدم ہے،

اس لمحے مسلم اول سارے لوگوں سے سوا معمر رہے، اس لئے سارے لوگ عمرِ مکرم کی رائے کے ہم رائے ہو کر مسلم اول سے عہد کے لئے آمادہ ہوئے، اس طرح عالم اسلام کی سرداری کا اہم معاملہ طے ہوا۔

انگلی سحرِ مسلم اول حرم رسول آئے لوگوں کا عہد عام ہوا، دس دس سو کے سڑٹھ گروہ کم اک لاکھ آدمی عہد کر کے مسرور ہوئے اس کے آگے مسلم اول لوگوں سے اس طرح ہم کلام ہوئے:

”اے لوگو! عالم اسلام کا حاکم ہوا ہوں گو کہ سارے لوگوں سے اعمالِ صالح کی رو سے کم ہوں، اگر عمدہ کام کروں، مدد کرو! عملِ سوء کروں، اصلاح کرو! کھرا کلام ہی اصل ہے، کھوٹا کلام دھوکہ ہے، مالی آسودگی سے محروم آدمی مرے لئے مالدار کی طرح ہے، اس کا حصہ دلو! کر رہوں گا، مالدار مرے لئے مالی آسودگی سے محروم کی طرح ہے، اس سے لوگوں کا حصہ لے کر رہوں گا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی راہ لگوں، مجھ کو رہو اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی راہ سے ہٹوں، مومن موٹلو۔“

حضرت عمرؓ نے اپنا ہاتھ ابوبکر صدیقؓ کے ہاتھ میں دے کر کہا: نہیں! بلکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے سردار اور ہم لوگوں میں سب سے بہتر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے (سیر الصحابہ ج ۱ ص ۲۱)

۲۲ اس روز ۳۳ ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعتِ ستیفہ کے بعد مدینہ منورہ اور مہاجرین و انصار میں اس اختلاف کا نام و نشان بھی کہیں نہیں پایا گیا جو بیعت سے چند منٹ پیشتر مہاجرین و انصار میں موجود تھا، سب کے سب اسی طرح شیر و شکر اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی تھے یہ بھی ایک سب سے بڑی دلیل اس امر کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو براہ راست درگاہ نبوی سے مستفیض ہوتے تھے پورے طور پر دین کو دنیا پر مقدم کر چکے تھے (تاریخ ج ۱ ص ۲۶۱) بی بی ج۔

وہ لوگ کہ اسلامی لڑائی<sup>۱</sup> سے روگرداں ہوئے، رسوا ہوئے اور وہ لوگ کہ سوئے عملی والے ہوئے، دکھی ہی رہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی راہ لگوں، مجھ کو رہو اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی راہ سے ہٹوں، میں موڑ لوں۔  
 عماد اسلام کے لئے آمادہ رہو، اللہ رحم کرے۔<sup>۲</sup>

داماد رسول علی کرمہ اللہ کا سر رسول مسلم اول سے عہد  
 علی کرمہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے لحد کے امور مکمل کر کے آئے  
 اور اسی لمحے اس کا ہدم مکرم سے عہد ہوا۔<sup>۳</sup>  
 اس طرح سر رسول مسلم اول، علی کے ہاں اسلام کے حاکم اول ہو گئے۔  
 علی کرمہ اللہ سے مروی ہے:

”رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کئی سحر آرام سے محروم رہے، ہر صدائے  
 عماد اسلام سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا مسلم اول سر  
 رسول کو حکم رہا کہ لوگو کو عماد اسلام ادا کروائے۔ رسول اللہ دار السلام کو راہی  
 ہو گئے، ہم اس معاملہ کی گہرائی کو گئے، معلوم ہوا کہ عماد اسلام، اسلام کا علم

۱۔ جہاد: سیدنا صدیق اکبرؓ کے خطبے کے عربی الفاظ اس طرح ہیں: یا ایہا الناس! فانی قدولیت علیکم ولست  
 بخیرکم فان احسنت فاعینونی وان اساءت فقومونی. الصدق امانة والكذب خیانة والضعیف فیکم  
 قوی عندی حتی ازیح علیہ حقہ انشاء اللہ والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منه ان شاء  
 اللہ لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربہم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشة فی قوم قط الا عمہم اللہ  
 بالبلاء واطیعونی ما اطعت اللہ وروسلہ فاذا عصیت اللہ وروسلہ فاطاعة علیکم. قوموا لی صلاحکم  
 یوحکم اللہ۔ (بخاری شریف) سب بعض روایات میں ہے کہ حضرت علیؓ نے چھ ماہ تک بیعت نہیں کی یہ بالکل تلط ہے  
 اور راویوں کی طرف سے روایت میں اوراج ہے جو ہر قبول نہیں تفصیل کیلئے ملاحظہ فرمائیں رحماء بسنہم۔ (حصہ  
 صدیقی باب دوم ص: ۲۳۸ تا ۲۴۲ اور سیرت علی المرتضیٰ مولفہ محمد نافع مدظلہ ص: ۱۳۱۔ سیرت علی، ص: ۱۵۱)  
 ۲۔ بیہزار۔ بیہ اذان۔ ۳۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم نے اپنا نائب ابو بکر صدیقؓ کو بتایا ہے۔

ہے اور اسلام کا عماد ہے، اس لئے ہم آمادہ ہوئے کہ ہمارے عالم مادی کا امام وہی ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہمارے اسلام کا امام ہوا، اس لئے ہمارا سر رسول سے عہد ہوا،<sup>۱</sup>

## حاکم اول کا کارِ اول

اول سحر ہی سے حاکم اول کے آگے طرح طرح کے الم رساں مسائل اور مہوں کے کہسا رکھڑے ہو گئے، کوئی مدعی ہوا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، کئی لوگ اسلام سے<sup>۲</sup> روگرداں ہو کر گمراہی کی راہ لوٹ گئے، کئی مالدار محروموں کے اسلامی حصے<sup>۳</sup> سے روگرداں ہوئے۔

سارے مسائل کے علاوہ اک اہم مسئلہ مہم اسامہ کا ہوا کہ اس کو وصال رسول سے کئی سحر ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ وہ روم کے لوگوں سے معرکہ آرا ہو، اس لئے مسلم اول کا حکم ہوا کہ عسکر اسامہ رواں ہو۔

مگر کئی اہل اسلام کی رائے ہوئی کہ اس مہم کو روک کر اول دوسرے مسائل حل کرو مگر حاکم اول کو کہاں گوارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ادھورا رہے اور مہم اسامہ رکے۔ عمر مکرّم آگے آئے اور کہا:

”اے ہمد رسول اس لمحے ملائم رہو!“

حاکم اول کا رد کلام ہوا:

”اے عمر! دور لا علمی کے کمال کڑے آدمی رہے ہو۔ اسلام لا کر ملائم

۱۔ علامہ ابن عبد البر استیعاب میں حضرت علی سے روایت کرتے ہیں: عن قیس بن عبادۃ قال قال علی ابن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض لیالی وایام نادى بالصلوۃ فبقول مروا بایہی بکریصلی بالناس فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظرت فاذا الصلوۃ علم الاسلام وقوام السدین فرضینا الدنیانامن رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا فبیعنا بابکر۔ (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۵۷) ۲۔ مرتدین ۳۔ زکوٰۃ

ہو گئے،“۔

معلوم رہے کہ اسلام مکمل ہوا، وحی رک گئی، کہاں گوارا مرے آگے اسلام  
ادھورا ہو؟“

داماد رسول علی کرمہ اللہ سے اسی طرح کا کلام ہوا اور لوگوں سے کہا کہ:  
”سواری لاؤ، اسلام سے روگردوں سے کسی کی مدد کے علاوہ ہی لوگوں سے  
لڑائی کروں گا“۔

اور کہا:

”واللہ! اگر معمورہ رسول سارے لوگوں سے عاری ہو اور ہمارا لحم گدھ  
اور کوؤں کا طعام ہو، مجال ہے کہ عسکر اسامہ کو روکوں“۔

علی کرمہ اللہ آگے آئے اور سواری کی لگام لے کر کہا:

”اے اہل اسلام کے حاکم، ہمارا مدعا حکم عدولی کہاں؟ اک صلاح ہے، حکم  
کرو! مکمل ہوگا“۔

مال کار عسکر اسامہ رواں ہوا، حاکم اول ہدم اسامہ کی سواری کی لگام لئے آگے آگے  
رواں ہو کر عسکر گاہ آئے۔

ہدم اسامہ، حاکم اول سے ہم کلام ہوئے:

”اے ہدم رسول! سوار ہولو، اس لئے کہ اگر اسی طرح رہو گے، سواری سے  
الگ ہو کر رہی ہوں گا“۔

۱۔ سیدنا صدیق اکبرؓ نے فرمایا: اجار فی الجاہلیۃ و خواری فی الاسلام یعنی اے عمر! تم جاہلیت میں تو بڑے تند خود تھے،  
مگر اسلام میں آ کر ایسے نرم ہو گئے؟ (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۶۳)

۲۔ صدیق اکبرؓ نے فرمایا: ”نعم الدین وانقطع الوحی ینقص دینا وانا حسی“ یعنی دین مکمل ہو چکا وحی بند ہو چکی کیا یہ  
ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں دین ناقص ہو جائے؟ اللہ اکبر! سیدنا صدیق اکبرؓ کو اسلام پر کیسا دعویٰ تھا، معلوم ہوتا ہے کہ  
دین کے اٹکوتے وارث وہی تھے۔ (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۶۳)

حاکم اول کا کلام ہوا:

”سوار ہی رہو! اک لمحہ اللہ کی راہ کی دھول سے آلودہ ہو کر مسرور ہوں۔“

حاکم اول اسی طرح اسامہ کی سواری کے آگے رواں رہے اور اسامہ سے دس عمدہ کلمے کہے:

۱..... دھوکے سے دور رہو۔

۲..... سوئے کلامی سے دور رہو۔

۳..... سوئے عہد سے دور رہو۔

۴..... لڑکی، کم عمر لڑکے اور معمر آدمی کی ہلاکی سے دور رہو۔

۵..... گودے دار ڈال کو آگ لگا کر اور کاٹ کر لوگوں کی الم رسائی سے

دور رہو۔

۶..... سواری، دودھ والی لے لی اور گائے کو طعام ہی کے واسطے کاٹو۔

۷..... اگر کوئی گروہ ملے اس کو سوئے اسلام مائل کرو۔

۸..... ہر آدمی سے اسی طرح کا معاملہ کرو کہ وہ اس کا اہل ہو۔

۹..... طعام سے اول اللہ کا اسم لو۔

۱۰..... اس آدمی کی ہلاکی سے دور ہو کہ وہ مسلک کے لئے لوگوں سے الگ

ہو کر عمر مکمل کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اسی طرح مکمل

کرو کہ رسول اللہ سے صادر ہوا، اللہ کے لئے گمراہوں سے لڑو۔“

عسکر اسامہ ادھر سے سوئے روم رواں ہو کر اعداء اسلام سے معرکہ آراء ہوا اور اک ماہ  
دس سحر ادھر رہ کر مراد حاصل کر کے کامگار لوٹا۔

حاکم اول، اہل اسلام کے ہمراہ معمورہ رسول سے کئی مرحلے ادھر آئے اور عسکر اسامہ

سے مل کر مسرور ہوئے۔<sup>۳۲</sup>

۱۔ ابوری۔ (فیروز اللغات) ۲۔ حضرت زید کا انتقام۔ ۳۔ حضرت ابو بکر صدیق صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ سے

باہر آئے اور لشکر اسامہ کا استقبال فرمایا۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۳۵)

## امروچی کے دعوے داروں سے معرکہ آرائی

سرور عالم کے وصال سے اول ہی کئی لوگ امروجی کے دعوے دار رہے، امروجی کے اک دعوئے دار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراسلہ ملا کہ وہ محمدؐ کے ہمراہ امروجی کا حصہ دار ہے، آدھا عالم اس کا اور دوسرا آدھا محمدؐ کا ہے۔ سرور عالم کے حکم سے اس کو اس طرح کا مراسلہ ارسال ہوا:

” محمد کا رسالہ امروجی کے دعوے دار کے واسطے۔ معلوم رہے کہ سارے عالم کا مالک اللہ ہے وہ کسی کو مالک کر دے اور عمدہ صلہ اسی کے واسطے ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔“

امروچی کے اس دعوے دار کا معاملہ دوسرے علماء سے اس طرح مروی ہے کہ اک گروہ رسول اکرمؐ سے آکر ملا اس گروہ کے ہمراہ وہ آدمی رہا کہ وہ مدعی ہوا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ رسول اکرمؐ اس سے ملے، وہ مصر ہوا کہ اگر اس کو اس امروجی کا حصہ دار کرو، وہ مسلم ہوا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ وہ ہر حصے سے محروم رہے گا، وہ لوٹ کر مدعی ہوا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، صد ہا آدمی اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، مال کا روہ کئی سال ادھر ہمد مکرّم کے ارسال کردہ اک عسکر سے معرکہ آرا ہو کر ہلاک ہوا۔<sup>۱</sup>

اس لمحے کہ عسکر اسامہ اعداء سے معرکہ آرا ہوا، اسلام سے روگردی والوں سے حاکم اول کو دھمکی ملی کہ وہ معمورہ رسول آکر حملہ آور ہوں گے۔<sup>۲</sup>

۱۔ مسیلمہ کذاب۔ ع۔ آپ نے مسیلمہ کو یوں جواب دیا: من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمہ کذاب۔ اما بعد! فان الأرض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین۔ ترجمہ: محمد رسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کو۔ اما بعد! دنیا خدا کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا اس کو وارث بنائے گا اور انجام پر بیخ گاروں کے لئے ہے۔ (سیر الصحاب، ج: ۱، ص: ۴۵)

ع (بادی عالم ص ۳۹۶) ع (تاریخ اسلام ج ۱ ص ۲۶۶)

حاکم اول کا ہدم علی، ہدم طلحہ، ولد عوام، اور ولد مسعود کو حکم ہوا کہ حرم رسول کے آگے مسلح ہو کر کھڑے رہو اور اعداء کے حملے آگاہ رکھو!

اسلام سے روگردوں کو معلوم ہوا کہ معمورہ رسول عسکر اسلام سے محروم ہے، وہ حملہ کے ارادے سے آئے، ہدم علی، ہدم طلحہ، ولد عوام، اور ولد مسعود آگے آ کر حملہ آور ہوئے اور اعداء اسلام کو حملے کے ارادے سے دور رکھا، اعداء اسلام وہاں سے ہٹ گئے، مگر دوسری راہ سے ڈھول ڈھمکے کے ہمراہ لوٹے، اس سے اہل اسلام کے گھوڑے ڈر کر دوڑے اور معمورہ رسول آ کر ہی رکے۔

اس حال کا مطالعہ کر کے حاکم اول سے معمورہ رسول سے آگے آئے اور اعداء اسلام سے معرکہ آرا ہوئے اعداء اسلام وہاں سے رسوا ہو کر لوٹے۔

حاکم اول کا اک ہدم رسولؐ کو حکم ہوا کہ وہ اک گروہ کے ہمراہ مال کا مگاری لے کر معمورہ رسول راہی ہو، وہ رواں ہو گئے۔

حاکم اول کئی لوگوں کے ہمراہ سوئے اعداء رواں ہو گئے، ادھر اعداء اسلام کا اک عسکر طرار دھوکے سے لک لک کر معمورہ رسول آ کر حملہ آور ہوا اور کئی لوگوں کو ہلاک کر کے مال کا مگاری لے کر لوٹا۔

حاکم اول معمورہ رسول لوٹے، اس حال کی اطلاع ملی کمال دکھ ہوا، ادھر ہی عہد ہوا کہ اہل اسلام کے عدد کے مساوی اعداء کو ہلاک کر کے ہی لوٹوں گا!

حاکم اول اہل اسلام کے اک گروہ کو لے کر سوئے اعداء راہی ہوئے اور اک مرحلے آ کر اعداء اسلام سے معرکہ آراء ہوئے، اعداء اسلام کو رسوا کر کے مسلم اول کا مگاری ہوئے اور معمورہ رسول لوٹے۔ ادھر آ کر حاکم اول کا حکم ہوا کہ اسلام سے روگردی والوں کے واسطے اک ہی طرح

۱۔ حضرت زبیر بن عوام ۲۔ حضرت نعمان بن مقرن ۳۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے مسلمانوں کی مختصری جمیعت لے کر ذی شہب اور ذی قصہ کی طرف خروج کیا مقام ابرق میں عیس و ذبیان، ونبو بکر و ثعلبہ بن سعد وغیرہ قبائل برسر مقابلہ ہوئے نہایت سخت لڑائی ہوئی، انجام کار مرتدین شکست یاب ہو کر فرار ہوئے (تاریخ اسلام ج ۱ ص ۲۶۷)



کے کئی مراسلے لکھ کر ارسال کرو! اس مراسلے کا ماحصل اس طرح ہے:

”ہمد رسول، حاکم اول کا رسالہ ہر اس آدمی کے لئے کہ وہ مسلم ہو کہ اسلام سے روگرد۔ (اس سے آگے اللہ اور اس کے رسول کی حمد کی اور لکھا) محمد، اللہ کا رسول مرسل ہے، دارالسلام اور دارالآلام کی اطلاع والا، راہ ہدئی کا مہر و ماہ ہے، مسلم آدمی کو اللہ کے حکم سے راہ ہدئی ملی اور وہ کہ اسلام سے روگرد ہوا، اللہ کے حکم سے اس سے معرکہ آرائی ہوگی اور وہ اسی سے راہ ہدئی کا راہ روہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم آئے اور احکام الہی لاگو کئے، اہل اسلام کو راہ ہدئی کے راہ روکر کے اور عہدہ رسول کو ادا کر کے دارالسلام کو راہی ہوئے، لوگوں کو اول ہی سے اس امر کی اطلاع کلام اللہ سے ملی۔ اللہ کا کلام ہے:

”اے رسول اللہ! ہمارے ہاں لوٹو گے اور ہر آدمی ہی اللہ کے ہاں لوٹے گا۔ اے رسول اللہ! اول ہی سے سارے لوگ دائمی عمر سے محروم رہے، سوا گرا ہی ملک عدم ہو گے، کس طرح کوئی سدا رہے گا۔“

اور اللہ کا اہل اسلام سے اس طرح کلام ہوا:

”محمد اللہ کا رسول ہی ہے، اس سے آگے کئی رسول سدھا رہ گئے، سوا گرا اس کا وصال ہو اور اگر اسلام کے واسطے کوئی اس مار دے، مگر ای ہی کی راہ لگو گے؟ اگر کوئی مگر ای ہی کی راہ لگے گا، وہ اللہ کے لئے الم رساں کہاں ہوگا؟ اور اللہ عمدہ صلہ اسی کو دے گا کہ وہ اللہ کی حمد کرے گا۔ وہ آدمی کہ محمد اس کے اللہ

۱۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے: انک میت وانہم میتون (الزمر: ۳۰) ۲۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے: ”وما جعلنا للبشر من

قیلک الخلد افان مت فہم الخالدون“ (الانبیاء: ۳۳)

رہے، اس کو معلوم ہو کہ محمد دارالسلام کو راہی ہوئے، ہاں وہ آدمی کہ اس کا اللہ اللہ ہی ہے، اس کو معلوم رہے کہ اللہ سدا سے ہے اور سدا رہے گا اللہ کو آرام کہاں درکار ہے؟ حکم کار کھولا ہے اعداء کی رسوائی کے واسطے اس کا اک گروہ ہے (اے لوگو) مرا حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو! رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام اور اللہ کے کرم سے حصہ لے لو۔ اسلام لاؤ اور اک ہو رہو وہ آدمی کہ اللہ کی راہ سے دور ہے گمراہ ہے، اللہ کی مدد سے محروم ہی اصل محروم ہے، اسلام سے روگرد کا ہر عمل لا حاصل ہے، ہم کو معلوم ہوا ہے کہ کئی لوگ اسلام لا کر اسلام سے روگرداں ہو گئے کس طرح گوارا ہوا کہ اللہ مالک الملک سے دوری ہو اور عاصی اول کھلم کھلے عدو<sup>۱</sup>، کے ہمدم رہو؟ اللہ کا کلام ہے کہ: عاصی اول کھلم کھلا عدو ہے، اس کو عدو ہی رکھو، اس لئے کہ اس کا اک گروہ ہے وہ اس کو لے کر لوگوں کو گمراہ کر کے راہی دارالآلام کر رہا ہے، معلوم رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمدوں اور مددگاروں کا اک اعلیٰ کردار والا عسکر آ رہا ہے، وہ لوگوں کو اسلام کا امر کرے گا، اسلام لاؤ گے مسرور و معصوم رہو گے، اسلام سے روگردی کرو گے، ہلاک ہو گے، اس حکم کو لے کر ہمارا آدمی آ رہا ہے، وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ہمارے حکم کی اطلاع دے گا اور عسکر اسلام آ کر صدائے عماد اسلام دے گا، آگے سے اسی طرح صدائے عماد اسلام دو! اس سے عسکر اسلام کو معلوم ہوگا کہ سارا گاؤں اہل اسلام کا ہے، اگر صدائے عماد اسلام سے رکو گے ہلاک ہو گے۔

حاکم اول کے اس حکم کو لے کر کئی ہرکارے، اسلام سے روگردوں کی اطلاع کے واسطے رواں ہوئے۔ حاکم اول کے حکم سے عسکر اسلام کے دس اور اک حصے، ہوئے ہر حصے کا اک سردار طے ہوا، ہر حصے کو اک اک علم عطا ہوا اور اک اک مراسلہ دے کہ حکم ہوا کہ امر و جی کے دعوے داروں اور اسلام سے روگردگروہوں سے معرکہ آرائی کے واسطے رواں ہوں، اس رسالے کا اردو ما حاصل اس طرح ہے:

”حاکم اول کا لکھا ہوا معاہدہ، اس سردار کے واسطے کہ وہ عسکر اسلام کے ہمراہ اسلام سے روگردوں سے معرکہ آرائی کے لئے آمادہ ہے، اس سردار کا ہم سے عہد ہے کہ وہ سری طور سے اور کھلم کھلا اللہ سے ڈرے گا، ہمارا حکم ہے کہ وہ اسلام سے روگردگروہ سے لڑے، مگر اول امر اسلام کرے، اگر کوئی مسلم ہو معرکہ آرائی سے دور ہے اور اگر اسلام سے محروم ہو، حملہ کر دے، کہ اسلام سے روگرد اسلام لے آئے، اس سے آگے اس کو احکام الہی سے آگاہ کرے، اس سے وہ وصول کرے کہ وہ اس کے لئے لاگو ہے اور اس کو وہ دے کہ وہ اس کا اہل ہے، احکام الہی سے روگرد سے معرکہ آرائی ہوگی اور مسلم کی الم رسائی سے دور ہے اور مکار آدمی کو اللہ ہی صلہ دے گا، اعداء سے لڑائی ہوگی، اہل اسلام کامگار ہوں گے اور مال کامگاری اللہ کی راہ لڑائی والوں کا ہے، ہاں! اک حصہ دارالسال کا ہوگا اور اس سردار کا ہم سے عہد ہے کہ عسکر کو سو عملی اور الم رسائی سے دور رکھے گا اور لا معلوم آدمی کو عسکر سے دور رکھے اور اہل اسلام سے ہر گام عہدہ سلوک کرے، ہمدردی رکھے، رحم کرے۔“

وداع مکہ کو دس اور اک سال ہوئے، ماہ سوم سے دو ماہ آگے شمارے سردار طے کردہ

ممالک کو رواں ہو کر اعدائے اسلام سے معرکہ آراء ہوئے اور اک کم دس ماہ کا عرصہ لگا کہ سارے ملک سے اسلام سے روگردوں کی راہ مسدود ہوئی۔

امروچی کے اک دعوے دار اسدی معرکہ آرائی کے آگے اسلام لے آئے اور عمر مکرّم کے دور کو معمورہ رسول آکر اس کا عمر مکرّم سے عہد ہوا۔

اس کے علاوہ امروجی کے کئی دعوے دار اور اسلام سے روگردوں کے کئی سردار ہلاک ہوئے۔<sup>۱</sup>

## مخروموں کے حصے سے روگردگروہ سے معرکہ آرائی

اسلام سے روگرد اور امروجی کے دعوے داروں کے علاوہ اک گروہ مخروموں کے حصے سے روگرد ہوا، مگر اسلام کا مدعی رہا، اس لئے اہل اسلام کی اس گروہ سے معرکہ آرائی کے واسطے دو طرح کی رائے ہوئی کہ اس گروہ سے معرکہ آرائی ہو کہ معرکہ آرائی سے دور ہوں؟ عمر مکرّم آگے آئے اور کہا:

”اے حاکم اول! اس گروہ سے معرکہ آرائی کس طرح ہوگی کہ وہ اسلام

کا مدعی ہے، اک مخروموں کے حصے سے ہی روگرداں ہے؟“

حاکم اول کا رد کلام ہوا:

”لوگو! معلوم رہے کہ اگر مخروموں کے حصے سے روگرد آدمی اک رسی اور اک

لے لی سٹی کی ادا ئے گی سے رکے گا، واللہ! اس سے لڑوں گا۔“

مال کار اس گروہ سے معمولی سی معرکہ آرائی ہوئی اور وہ گروہ مخروموں کے حصے کی

ادا ئے گی کے لئے آزاد ہوا۔

اس حال کا مطالعہ کر کے عمر مکرّم کو معلوم ہوا کہ حاکم اول کی رائے اسلام کے لئے عمدہ

رائے ہوئی۔

۱ ان میں سلیمہ کذاب اور اسود عتسی، لقیظ ابن مالک، نعمان بن منذر قابل ذکر ہیں۔ (سیر الصحاب، ج ۱، ص: ۳۶)

۲ منکر بن زکوة۔ سبکبری کا بچہ۔ ص: (ایضاً ص: ۳۷)

## کلام الہی اور حاکم اول

اس سے آگے لکھی گئی سطور سے معلوم ہوا کہ امرِ وحی کے دعوے داروں سے اک عرصہ  
عسکر اسلام معرکہ آراء رہا، گو کہ کامگاری عسکر اسلام کو ہی حاصل ہوئی، مگر اس معرکہ آرائی سے  
کلام الہی کے کئی رکھوالے سراہی ملک عدم ہوئے، اس لئے عمرِ مکرم اس امر سے ڈرے کے:  
”اگر کلام الہی کے رکھوالوں کی رحلہ کا سلسلہ اسی طرح رہا، ہم کلام الہی کے  
اک اہم حصے سے سدا کے لئے محروم ہوں گے۔“

اس لئے اک سحرِ عمرِ مکرم، حاکم اول سے آکر ملے اور کہا کہ کلام الہی کے کئی رکھوالے راہی ملک  
عدم ہوئے اس لئے رائے ہے کہ مکمل کلام الہی اک محل اکٹھا کروا کے لکھو! لکھو!  
معاملہ اہم رہا، اس لئے حاکم اول سرِ رسول اول اول اس معاملے سے رکے اور کہا کہ وہ کام کس  
طرح کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے دور رہے؟  
مگر عمرِ مکرم مصر ہوئے اور اس کام کی عمدگی آگے رکھی۔

مال کار حاکم اول آمادہ ہو گئے کہ سارا کلام الہی اک محل اکٹھا ہو، اس لئے عہدِ رسول  
کے اک محررِ وحی کو حکم ہوا کہ وہ کلام الہی اکٹھا کر کے لکھے۔

اول اول وہ اس کام سے رکے مال کار آمادہ ہوئے اور کمال سعی سے کلام الہی کے  
الگ الگ حصے اکٹھے کر کے کلام الہی کو اک محل لکھا۔

### اس معاملے کی اہم سطور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا عہد اس طرح رہا کہ کلام الہی کی لکھائی کے  
واسطے گاہ ہڈی رسالہ ہوئی اور گاہ سوکھی ڈال اور کھال رسالہ ہوئی، مگر سارا کلام الہی الگ الگ  
حصے ہو کر رہا، ہاں ہر اک سورہ الگ الگ اسم سے موسوم رہی اور کلام الہی کے ہر ہر حصے کا محل

رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسد و سلم کے حکم سے ہی طے ہوا، سر رسول کے حکم سے کلام الہی اک محل اکٹھا ہو کر مسطور ہوا۔

حاکم اول کے حکم سے لکھا ہوا کلام الہی ساری عمر، حاکم اول کی ملک رہا۔ اس سے آگے اس کے مالک عمر مکرم ہوئے۔ اس سے آگے عمر مکرم کی لڑکی، عروس رسول کی ملک رہا۔ حاکم سوم کے حکم سے اسی کلام الہی کے کئی عکس لے کر کئی ملکوں کو ارسال کئے گئے، مگر اصل رسالہ، عروس رسول کی ملک رہا۔

ولد حکم معمرہ رسول کا والی ہو کر ساعی ہوا کہ کسی طرح وہ اصل لکھے ہوئے کلام الہی کا مالک ہو، مگر محروم ہی رہا۔

عروس رسول راہی ملک عدم ہوئی، اس لمحے وہ کلام الہی ولد عمر کو ملا، اس سے ولد حکم کی ملک ہوا اور اسی سے گم ہوا۔

### روم و کسریٰ سے معرکہ آرائی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسد و سلم کے عہد سے عالم مادی کے دو ملک اعلیٰ رہے، اک روم اور دوسرا ملک کسریٰ مسلکی طور سے اول سے آدھا عالم، روم کی ملک رہا، دوسرا آدھا ملک کسریٰ کی ملک رہا۔

کلام الہی سے اول ہی سے سارے عالم کو اطلاع ملی کہ رسول اکرم اس عالم مادی کو اسی لئے آئے کہ اسلام کو سارے مسلمانوں کا سردار کرے، کلام الہی ہے کہ:

”اللہ وہ ہے کہ اس کے حکم سے رسول اللہ ہادی ہوئے اور وہ مسلک اسلام

بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں اور سورتوں میں باہم کوئی ترتیب نہ تھی اور نہ سورتوں کے نام وضع کیے گئے تھے، اس لئے عبد صدیقی میں جو کام ہوا وہ ان ہی آیتوں اور سورتوں کو باہم ترتیب دینا تھا، یہ ایک فسوس ناک غلطی ہے۔

۲ حضرت حفصہؓ۔ ۳ مردان بن حکم۔ ۴ (سیر الصحابہ ج ۱ ص ۴۹)

لے کر آئے کہ اللہ اسلام کو سارے مسلمانوں کا سردار کرے۔“

اور معلوم ہے کہ ملک و مال کے مالک ہو کر گمراہوں کے عسکر طرار، راہ ہدئی کے رہ روؤں کے سدا سدا راہ رہے۔

اور کس کو گوارا ہے کہ ملک و مال اور عسکر کا مالک ہو کر کسی کے آگے سرگرا کر مملوک ہو، اس لئے اعلیٰ اسلام کے واسطے اہم ہوا کہ اس طرح کے گمراہ لوگ ہلاک ہوں۔

کلام الہی کا مسطورہ حصہ اس امر کا گواہ ہے کہ رسول اکرم کے عہدہ امرو جی سے آگے سارا عالم اہل اسلام کی ملک ہو کر رہے گا اور اسلام کا محکوم ہوگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے ساری عمر کے ہمد و ہمراہی اس امر کے اہل ہوئے کہ اس سے کلام اللہ کی وہ گواہی مکمل ہو، حاکم اول گو کم غرضہ حاکم رہے، مگر کئی طرح کے اہم کاموں کے عامل ہوئے، اک اہم کام وہ ہے کہ حاکم اول مسطورہ ہر دو ملکوں سے معرکہ آراء ہو کر کامگاری کے مؤسس ہوئے اور مکمل کامگاری عمر کرم کے دور کو ہوئی۔

## مہم ملک کسری

اس دور کو ملک کسری طرح طرح کے مسائل سے گھرا ہوا، اس لئے کہ لوگوں کا حاکم اور کسری، اک کم عمر لا علم لڑکا رہا۔

ایسے سورہ صف کی آیت نمبر ۹ کا مفہوم ہے۔ آیت یہ ہے: "هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله." (سیرت خلفائے راشدین ص ۶۹) ج ازالہ الخفا میں اس آیت کی تفسیر یوں فرمائی ہے کہ "الاجرم داعیہ ظہور دین حق و قصد انتقام کفرہ فجرہ برہم زدن دولت کسری و قیصر آشیانہ خود گردانید تا چون این برد دولت برہم خود اعظم ادیان موجود و اثر انہا برہم خوردہ باشد و چون سطوت اسلام بجائے سطوت این دو دولت نشید ساز ادیان خود بخود پائمال شوکت اسلام شوند مانند پائمال بودن آنہا این دو دولت۔" (خلفائے راشدین ص: ۷۰)

کسریٰ کے اعداء اس حال کا مطالعہ کر کے کامل کامگاری کی آس لے کر حملے کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وائل کے دوسرے کئی لوگوں کو ہمراہ لے کر آگے آئے اور اہلہ وارد گرد مار دھاڑ کے لئے سماعی ہوئے۔ اک سردار کہ اول ہی سے مسلم ہوئے، عسکر کی کمی کو محسوس کر کے کمک کے واسطے حاکم اول کے ہاں آئے اور حاکم اول کی رائے سے اسروئی لوگوں کو لے کر مہم کسریٰ کے لئے راہی ہوئے۔

حاکم اول کا ہمد حسام اللہ کو حکم ہوا کہ وہ اک عسکر کے ہمراہ وائل کے سردار کی کمک کے واسطے رواں ہوں۔

### ملک کسریٰ کے اہم حصے کی کامگاری

حسام اللہ، وائل کے سردار کی کمک اور مہم کسریٰ کے واسطے راہی ہوئے اور کئی ملکوں کی مہوں کو سر کر ملک کسریٰ کی سرحدوں سے آگئے۔

ادھر کئی سارے معرکے ہوئے، ہر بہر معرکے عدو کے عسکر کا عدد عسکر اسلام سے سوار ہا، مگر اللہ کے کرم سے کامگاری سدا اہل اسلام کو ہی حاصل ہوئی، اس لئے ملک کسریٰ کے لوگوں کے دل اہل اسلام سے سدا کے لئے ڈر گئے، اس طرح کم عرصے کو حسام اللہ ملک کسریٰ کے کئی اہم حصوں کے مالک ہو گئے۔

اے اہل مطالعہ! سارے عالم کے سالاروں کے احوال کا مطالعہ کر لو کسی سالار اعلیٰ کو اس طرح ہر ہر کام کامگاری ملی ہو، اک امر محال ہے۔

۱۔ ثقی شیبانی اور سوید نجلی۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۵۲) ۲۔ ثقی شیبانی۔ ۳۔ سیف اللہ، حضرت خالد بن ولیدؓ سے عراق۔ ۴۔ حضرت خالد بن ولیدؓ نے بانیہ، کسرتخ کیا اور شایان عجم کی حدود میں داخل ہو گئے، یہاں شاہ جاپان سے مقابلہ ہوا اور اس کو شکست دی، پھر حیرہ کے بادشاہ نعمان سے جنگ آزما ہوئے نعمان ہزیمت اٹھا کر مدائن بھاگ گیا یہاں سے خورق پہنچے، لیکن اہل خورق نے مصلحت اندیشی کو راہ دے کر ستر ہزار یا ایک لاکھ خراج پر مصالحت کرنی غرض اس طرح حیرہ کو پورا علاقہ زیر نگیں ہو گیا۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۵۳) ۵۔ (ایضاً)



سلام ہے حسام اللہ کی سالاری اور حوصلہ وری کو اور سلام ہے حاکم اول کو کہ اس کے حکم سے اس اہم معرکہ کے واسطے حسام اللہ سالار اعلیٰ ہوئے۔

## ملک روم کے اہم حصے کی لڑائی

ہادی اکرم کے حکم سے کئی مراسلے ارد گرد کے ممالک و امصار کے حاکموں کو لکھے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے اک مددگار اک مراسلہ لے کر ملک روم کے اک عامل ولد عمر کے لئے لے کر گئے، راہ کے اک مرحلے آ کر رکے ادھر اس عامل کو معلوم ہوا کہ معمورہ رسول سے اک آدمی اس کے لئے مراسلہ لے کر آ رہا ہے، اس ملک کے عامل کو حکم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے اس مددگار کو روک لو اور محصور کر کے رکھو!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے وہ مددگار محصور ہو گئے اور مال کار اس عامل روم کا حکم ہوا کہ اس حامل مراسلہ کو مار ڈالو!

اس طرح رسول اکرم کے وہ مددگار اس عامل روم کے حکم سے مارے گئے، اس حال کا مطالعہ کر کے رسول اللہ کے حکم سے عسکر اسلام معمورہ رسول سے راہی ہو کر اس عامل اور حاکم روم کے دو لاکھ کے عسکر طراسے معرکہ آراء ہوا اور اعداء اسلام کو رسوا کر کے کامگار و کامریں لوٹا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے اک ہمد اور سالار اسلام، اسلام لاکراول اول معرکہ کے لئے عسکر اسلامی کے ہمراہ ہوئے اور اس کمال دلاوری اور حوصلہ وری سے لڑے کہ اللہ اور رسول سے اس کو حسام اللہ کا اسم ملا۔<sup>۵</sup>

اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حاکم روم حملے کا ارادہ کر رہا ہے، رسول اللہ عسکر اسلام کے ہمراہ اہل روم سے معرکہ آرائی کے واسطے رواں ہوئے،

۱۔ شام سے حضرت حارث بن عمیر ازدی، ۲۔ شریل بن عمر، ۳۔ غزوہ موتہ، ۴۔ حضرت خالد بن ولید کی مسلمان ہونے کے بعد پہلی اسلامی لڑائی تھی۔ ۵۔ (تاریخ اسلام ج ۱ ص ۲۰۴)

مگر اعداء اسلام اس حوصلے سے محروم رہے کہ اللہ کے رسولؐ سے آکر معرکہ آراء ہوں، اس لئے روم کے سرحدی مصر کے لوگوں کو ڈرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمورہ رسول لوٹ آئے۔ وداع مکہ کا دسواں سال مکمل ہوا، اگلے ماہ ملک روم سے اطلاع آئی کہ اہل روم کئی گروہوں کو اکٹھا کر کے اہل اسلام سے معرکہ کے لئے آمادہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہدم اسامہ اک عسکر کو لے اہل روم سے معرکہ آرائی کے واسطے رواں ہوئے، وہ عسکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلہ کے آگے ادھر کو رواں ہوا اور کم عرصے کو کامگار ہو کر لوٹا۔

ملک کسریٰ کے اہم اہم حصوں کی کامگاری ہو گئی اور کسریٰ کے حملے کا ڈر دور ہوا، مگر اہل روم کے حملے کا ڈر رہا، اس لئے حاکم اول کا ارادہ ہو کہ اہل روم سے اک اہم معرکہ آرائی ہو، اس لئے حاکم اول کے حکم سے عسکر اسلام کے دو اور دھسے کئے گئے، ہر ہر حصے کا الگ الگ سالار طے ہوا اور وہ سارے عسکر طے کردہ رومی امصار کی معرکہ آرائی کے واسطے راہی ہوئے۔<sup>۱</sup>

حاکم روم کو اس کی اطلاع ہوئی، اس کے حکم سے رومی عسکر کے عسکر اسلام کے مساوی حصے کئے گئے، ہر ہر عسکر سالار اعلیٰ کے ہمراہ اہل اسلام سے معرکہ آرائی کے واسطے راہی ہوا، اعدائے اسلام کے عسکر کا عدد دس سو کے دس گروہ کم ڈھائی لاکھ رہا۔<sup>۲</sup>

اور عسکر اسلام کا عدد اعداء اسلام کے عدد کا آٹھواں حصہ رہا، اس لئے عسکر اسلام اک محل اکٹھا ہوا اور حاکم اول کو لکھا کہ عدو کے عسکر کا عدد حد سے سوا ہے، اس لئے کمک ارسال

---

۱۔ صدیق اکبرؓ نے لشکر اسلام کے چار حصے کئے اک حصے کا سردار عمرو بن العاصؓ کو بنا کر حکم دیا فسطین کے راستے حملہ آور ہوں، دوسرے حصے کی سرداری یزید بن ابی سفیان کو دے کر حکم دیا کہ تم دمشق کی طرف سے حملہ آور ہو۔ تیسرے حصے کی سرداری حضرت ابوسعیدہ بن الجراحؓ کو دی اور حکم ہوا کہ تمہیں کی جانب سے حملہ کرو اور چوتھے حصے کا سردار حضرت شرییل بن حسنہؓ کو بنا کر حکم دیا کہ تم اردن کی جانب سے حملہ کرو۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۰۱) ۲۔ دولاکھ چالیس ہزار۔ ۳۔ تیس ہزار۔

کرو! اس اطلاع کو لے کر حاکم اول کا حکم ہوا کہ حسام اللہ کو ہمارا اک مراسلہ ارسال کرو! اس لیے حسام اللہ ملک کسریٰ معرکہ آراء رہے۔

مسلم اول کا حسام اللہ کو مراسلہ ملا کہ ملک کسریٰ کی مہم کی سالاری اور آدھا عسکر وائل کے مسلم سردار کے حوالے کر دو اور آدھا ہمراہ لے کر دوڑ کر روم آؤ اور عسکر اسلام کے سالارا علی ہو کر اعداء سے معرکہ آراء ہو، حاکم اول کا مراسلہ حسام اللہ کو ملا، حسام اللہ اسی لیے سالاری، وائل کے مسلم سردار کے حوالے کر کے آدھے عسکر کے ہمراہ ملک روم کو راہی ہوئے، راہ کے مراحل کئی مہموں کو سر کر کے طے کئے۔

اک محل کسریٰ کا عسکر سدراہ ہوا، اس عسکر کے سالارا علی، بلال کے ولد ام کو ہلاک کر کے حسام اللہ آگے گئے، آگے اس اسرہ کے لوگ سدراہ ہوئے کہ اس اسرہ کے لوگوں کا عمر مکرم سے مال کی ادائے گی کے واسطے اک اہم معاملہ رہا، اس اسرہ کا سردار واصل دارالآلام ہوا اور کئی لوگوں کو محصور کر کے اہل اسلام معمورہ رسول لے آئے۔

حسام اللہ آگے گئے اور ححر کو طے کر کے اک محل سے ٹھہر گئے ادھر کے لوگ حصار کے کواڑ لگا کر معرکہ آراء ہوئے۔

مال کا صلح کر لی، ادھر سے آگے حوراں آئے، کڑی معرکہ آرائی ہوئی، ادھر سے کامگار ہو کر اس ملک آگئے کہ وہ صد ہا رسولوں کی آرام گاہ ہے۔ اس طرح عسکر اسلام کا عدد دس دس، کے ساٹھ گروہ کم اک لاکھ ہے اور اعدائے اسلام کا عدد ڈھائی لاکھ رہا۔

ہردو گروہ اک دوسرے کے آگے ڈٹ کر حملہ آور ہوئے، معرکہ گرم ہوا سارے اہل اسلام اس طرح دل کھول کر لڑے کہ اعداء کے دل دھڑک گئے۔

۱۔ عقبہ بن ابی بلال التمری۔ ۲۔ بنو تغلب۔ ۳۔ بذیل بن عمران۔ ۴۔ تدمر۔ ۵۔ ملک شام۔ ۶۔ چالیس ہزار۔ ۷۔ دو لاکھ چالیس ہزار کے علاوہ ہانان کا اک لشکر ہرقل روم نے بطور تک بیجا تھا۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۰۲)

معمر کے اہل اس معرکے سے حوصلگی، دلاوری، اور ولولہ کاری کے وہ احوال آگے آئے کہ اہل عالم کو معلوم ہوا کہ اہل اسلام کو اعلیٰ اسلام اس عالم مادی کے سارے اموال و املاک اور روح و دل سے سوا کرم ہے۔ ہر آدمی اس آس کو دل سے لگا کر حملہ آور ہوا کہ وہ اللہ کی راہ سرکشا کر اللہ کے آگے کامگار ہوگا۔

اک سحر مکمل ہوئی، مگر لڑائی کو طول ہوا کہ دوسری سحر طلوع ہوگئی، سوالا کھ رومی گمراہ مارے گئے، کئی مہینوں موڑ کر دوڑے، عسکر اسلام سے دس دس سو کے ساتھ گروہ اللہ کی راہ سرکشا کر اللہ کے آگے کامگار ہوئے۔ اللہ کے کرم سے کامگاری عسکر اسلام کو حاصل ہوئی اور رسولوں کی آرا مگاہ والا ملک اہل اسلام کی ملک ہوا۔

حاکم روم ڈر کر حصص سے دوڑا، اہل اسلام آگے گئے اور حصص کا محاصرہ کر کے رہے، اعداء اسلام کی رائے ہوئی کہ حصاروں کے کواڑ لگا کر محصور ہو رہا عسکر اسلام سردی سے ہی ہلاک ہوگا، مگر اللہ کے کرم سے موسم سرما مکمل ہوا اور اہل اسلام سردی سے دور رہے۔

اک سحر عسکر اسلام کا ارادہ ہوا کہ اس حصار محکم کو گمراہ کامگار ہو سارا عسکر اکٹھا ہوا اور مل کر اللہ کے اسم کی صدا لگائی اس سے سارا حصار ہلا اور اس کا اک حصہ گرا، دہرا کر اللہ کے اسم کی صدا لگائی، سارا حصار ہلا، اہل حصص ڈر گئے اور صلح کر لی۔

الحاصل روم کے کئی اہم حصص مسلم اول کے دور ہی کو اہل اسلام کی ملک ہو گئے۔ عسکر اسلام کا اک حصہ، کسریٰ سے معمر کے آراء رہا اور اک حصہ عسکر روم سے معمر کے آراء رہا،

۱۔ تین ہزار۔ ۲۔ مسلمانوں نے ملکر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۴۳۰) ۳۔ یرموک، دمشق، شام یرموک اور دمشق کی فتح مورخین نے عہد فاروقی میں بیان کی ہے۔ مگر شیخ ازالہ الخفاء میں ان کو بحدہ فاروقی میں شمار کرتے ہیں اور صحیح یہی ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح بعض مفتوحہ مقامات کے لوگ بغاوتیں کرتے تھے، اسی طرح مقامات مذکورہ میں بھی بغاوت ہوئی ہو اور حضرت عمر فاروقؓ نے ان کو دوبارہ فتح کیا ہو۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں: بالجملة فتح دمشق و یرموک بردست وے (یعنی خالد بن ولید واقع شد بر قیصر ہزیمت افتاد و فراست صدیق اکبرؓ را تلو بیض منصب امارت بخالد بن ولید تیر بر نشانہ ز مور حال بارد و فتح دمشق و یرموک در زمان فاروق اعظمؓ تقریر سے کنند بحدہ جمع آنست کہ اس فتوح مکرر واقع شد۔ (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۷۳)

کا مگاری کے سلسلے کو طول ہوا کہ اللہ کا حاکم اول کے واسطے حکم ہوا:

”اے طاہر روح، مالک روح کے ہاں لوٹ مسرور ہو کر“<sup>۱</sup>

## وصال حاکم اول اور حاکم دوم کے لئے لوگوں سے رائے

مسلم اول کو حاکم اسلام ہوئے سوا دو سال ہوئے، سارا عرصہ امر وحی کے دعوے داروں، اسلام سے روگردی والوں اور محروموں کے حصے کی ادائے گی سے روگردوں سے معرکہ آرائی رہی، آل کار کا مگاری ہوئی اور اسلامی کارواں، رواں دواں ہوا۔

عروس مطہرہ شادی ہوئی کہ موسم سرما کی اک سحر کو والد مکرم ماء طاہر سے سر کو دھو کر محمود ہو گئے اور مسلسل آدھا ماہ محمود رہے، اللہ کے گھر کی آمد سے رک گئے، والد مکرم کے حکم سے عمر مکرم عماد اسلام کے لئے اہل اسلام کے امام ہوئے۔ مسلسل محمود رہ کر حاکم اول کو محسوس ہوا کہ ملک عدم سے وداع کا لمحہ آ کر رہے گا، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمہدوں سے اسلام کے دوسرے حاکم کے واسطے رائے لی اور کہا کہ مرا ارادہ ہے کہ عمر اہل اسلام کا حاکم ہو، اک ہمد رسول کا کلام ہوا کہ عمر کڑا آدمی ہے۔

حاکم اول کا رد کلام ہوا کہ حاکم ہو کر وہ ملائم ہوگا۔

رسول اللہ کے دہرے داماد اور اسلام کے حاکم سوم سے رائے لی، کہا:

”عمر کی روح اور دل طاہر ہے“۔

علی کرم اللہ سے عمر مکرم کے واسطے رائے لی، علی کرم اللہ کا حاکم سوم کی طرح کا کلام ہوا۔

ہمد ملحہ سے رائے لی، وہ اس طرح ہم کلام ہوئے:

”اے حاکم اول! اگر اللہ کا سوال ہوا کہ عوام سے کس طرح کا معاملہ کر کے

۱۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے یا اینہا النفس المظمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة۔

۲۔ سیدہ عائشہ صدیقہؓ۔ ۳۔ بخاروالے۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۵۵)

آئے ہو، اس لمحے کس طرح رد کلام کرو گے؟  
 حاکم اول کا حکم ہوا کہ ہم کو سہارا دے کر اٹھاؤ! اک آدمی کے سہارے اٹھے  
 اور کہا:  
 ”اللہ سے کہوں گا کہ مرے حکم سے لوگوں کا امام اور حاکم وہ آدمی ہوا ہے کہ وہ  
 سارے لوگوں سے اعلیٰ ہے۔“

اس کلام کو مسموع کر کے ہمد مطلع کلام سے رک گئے۔

اسی طرح کئی لوگوں سے الگ الگ رائے لے کر ہر اک کو مسرور کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہرے داماد کو حکم ہوا کہ اک عہد لکھو! اس عہد کا اردو ما حاصل اس طرح ہے:

”حاکم اول کا لوگوں سے اس لمحے کا عہد ہے کہ عالم مادی کی عمر مکمل  
 ہو رہی ہے اور عالم معاد کی عمر مل رہی ہے، اس لمحے گمراہ سے گمراہ آدمی  
 اسلام لے ہی آئے گا اور عمل سوء والا آدمی راہِ ہدئیٰ کا رہو ہوگا، مری  
 رائے سے عمر مکرم لوگوں کا حاکم ہوا ہے اس لئے کہ مرا ارادہ ہے کہ  
 لوگوں سے ہمدردی اور عمدہ سلوک ہو، اگر عمر عادل رہا، ہم کو اسی طرح  
 معلوم ہے اور اگر عمل سوء کا عامل ہوا، معلوم رہے کہ دلوں کا حال اللہ ہی  
 کو معلوم ہے، ہمارا ارادہ عمدہ سلوک کا ہے اور ہر آدمی کے آگے اس کے  
 اعمال ہوں گے۔ سوء عملیٰ والے ہر آدمی کو معلوم ہو کر رہے گا کہ وہ کس  
 کروٹ الٹے گا۔ سارا عہد لکھو! اگر حاکم اول کا اک مملوک کو حکم ہوا کہ  
 سارے لوگوں کے آگے اس عہد کو کہہ دو! وہاں سے اٹھ کر حاکم اول  
 گھر آئے اور گھر کے عالی حصے سے لوگوں سے اس طرح ہم کلام ہوئے:  
 لوگو! معلوم رہے کہ لوگوں کا حاکم وہ آدمی ہوا کہ ہے سارے لوگوں سے

اغلی ہے مری اولاد اور اسرہ کا ہر آدمی مری ولی عہدی سے دور ہے اور اس  
 معاملے کے لئے لوگوں سے رائے لی گئی ہے۔ کہو! مسرور ہو کہ اس طرح  
 کا آدمی حاکم ہو؟۔

اس کلام کو مسموع کر کے سارے لوگ مسرور ہوئے۔

حاکم اول کا کلام ہوا:

”عمر مکرم کے ہر حکم کے عامل رہو!“

لوگ اس کلام کے حامی ہوئے، اس سے آگے عمر مکرم سے اصولی اور اساسی کلام ہوا۔ اس کلام  
 کی مدد سے عمر مکرم ہر ہر گام کا مگار ہوئے۔

معمورہ رسول کے ارد گرد مٹی کا اک حصہ حاکم اول کی عطا سے عروس مطہرہ کی ملک  
 رہا، حاکم اول کا عروس مطہرہ سے کلام ہوا:

”ہماری رائے ہے کہ ہماری دوسری اولاد کو اس حصے کا مساهم کر لو!“

کہا: ”ہاں! کر لوں گی۔“

۱۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۵۶) ۲۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۰۶) ۳۔ آپ نے حضرت عمرؓ کو مخاطب کر کے فرمایا:  
 اے عمر! میں نے تم کو اصحاب رسولؐ پر اپنا نائب بنایا ہے اللہ تعالیٰ سے ظاہر و باطن ڈرتے رہنا۔ اے عمر! اللہ تعالیٰ کے  
 بعض حقوق ہیں جو رات سے متعلق ہیں، ان کو وہ دن میں قبول نہیں کرے گا، اسی طرح بعض حقوق دن سے متعلق ہیں،  
 جن کو وہ رات میں قبول نہیں کریگا۔ اللہ تعالیٰ نوافل کو قبول نہیں فرماتا جب تک کہ فرائض ادا نہ کئے جائیں۔ اے عمر! جن  
 کے اعمال صالحہ قیامت میں وزنی ہوں گے، وہی فلاح پائیں گے اور جن کے اعمال نیک کم ہوں گے، وہ جٹکائے  
 مصیبت ہوں گے۔ اے عمر! فلاح و نجات کی راہیں قرآن مجید پر عمل کرنے اور حق کی پیروی سے میسر ہوتی ہیں۔ اے  
 عمر! کیا تم کو معلوم نہیں کہ ترفیب و تریب اور امداد و بشارت کی آیات قرآن مجید میں ساتھ ساتھ نازل ہوئی ہیں، تاکہ  
 مومن اللہ اللہ سے ڈرتا اور اس سے اپنی مغفرت طلب کرتا رہے۔ اے عمر! جب قرآن مجید میں اہل ناز کا ذکر آئے  
 تو دعا کرو کہ الہی تو مجھے ان میں شامل نہ کرنا اور جب اہل جنت کا ذکر آئے تو دعا کرو کہ الہی تو مجھے ان میں شامل کر! اے  
 عمر! تم جب میری ان وصیتوں پر عمل کرو گے تو مجھے گویا اپنے پاس بیٹھا پاؤ گے۔ (ایضاً) ۴۔ (ایضاً) ۵۔ (ایضاً) ۶۔

حاکم اول کا کلام ہوا:

”اہل اسلام کے مال سے اک مملوکہ اور دو سواری کا مالک رہا ہوں، وہ عمر مکرم کو لوٹا آؤ“! وہ لوٹا آئی۔

حاکم اول راہی ملک عدم ہوئے، وہ سواری اور مملوکہ عمر مکرم کو دے دی گئی۔

عروس مطہرہ سے مروی ہے:

”والد مکرم کا حکم ہوا کہ ملک عدم کی رحلہ کے آگے ہمارا سارا گھر ٹٹولو

اگر کوئی مال ملے وہ عمر مکرم کے حوالے کر دو! حاکم اول کی رحلہ کے آگے

سارا گھر ٹٹولا۔ معلوم ہوا کہ سارا گھر ہر طرح کے مال سے محروم ہے۔“

عروس مطہرہ کا کلام ہے:

”حاکم اول کا کلام ہوا کہ وہ رداء کہ اوڑھے ہوئے ہوں، رحلہ کے آگے

اسی کو دھو کر اوڑھا دو! کہا! عمدہ رداء اوڑھاؤں گی۔

حاکم اول کا کلام ہوا کہ عمدہ رداء عام لوگوں کے لئے ہے، مُردوں کے

لئے کہاں؟ اس کے آگے سوال ہوا کہ اس سحر کا اسم ہم سے کہو! کہا کہ

سوموار۔ دوہرا کر سوال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال

کس سحر ہوا؟ کہا: اسی سحر کو۔ حاکم اول کا کلام ہوا کہ مری دعا ہے کہ اسی

سحر وصال ہو!

دعا سموع ہوئی، اسی سحر ساٹھ<sup>۳</sup> اور سہ سال کی عمر مکمل کر کے، دو ماہ کم، ماہ آٹھ کی دس

اور دس اور دو کو راہی دارالسلام ہوئے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بیت المال سے اک باندھی اور دو اونٹنیاں لی تھیں۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۵۶) آپؓ نے

پوچھا آج دن کو کونسا ہے لوگوں نے جواب دیا دوشنبہ۔ ۳۱ آپؓ کی وفات سوموار کے دن مغرب کے بعد تریسٹھ سال کی

عمر میں ۲۲ جمادی الثانی ۱۳؎ ھ کو ہوئی۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۰۶)



(ہم ساروں کا اللہ مالک ہے اور ہر آدمی اسی کے ہاں لوٹے گا)۔

سردھلائی کا اکرام حاکم اول کی گھر والی ”اسماء“ کو حاصل ہوا۔ رکوع<sup>۲</sup> سے عاری  
 عماد اسلام کے امام عمر مکرم ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے دہرے دامان، ہمد  
 طلحہ، حاکم اول کے لڑکے اور عمر مکرم کے واسطے سے لحد کے حوالے ہوئے، اس طرح رسول اللہ  
 صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی ساری عمر کا ہمد، اسلام کا حاکم اول، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم  
 کے ہمراہ لٹو دھو کر دائمی ہمراہی کے لئے دارالسلام کو سدھارا۔<sup>۵</sup>

۱۔ غسل۔ ۲۔ نماز جنازہ۔ ۳۔ عبدالرحمان بن ابی بکرؓ سے لٹو دیا ہوا مدفون۔ ۴۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۵۷)۔

اللہ کے اسم سے کہ وہ عمومی رحم و کرم والا ہے

## مطالعہ

سسر رسولؐ، داماد علیؑ، اسلام کے حاکم دوم، عمر مکرم (اللہ اس سے مسرور ہو)

### اسم مسعود

سسر رسولؐ، حاکم دوم کا اسم مکرم عمر ہے!

### مولودی سلسلہ

حاکم دوم کا مولودی سلسلہ ہادی اکرم کے مولودی سلسلے کے عدد آٹھ سے ملا ہو ہے۔<sup>۲</sup>

### حاکم دوم کے گھر والے

حاکم دوم کے گھر والے دور لاعلمی سے ہی اعلیٰ کردار کے حامل رہے، سارے اہل مکہ

اہم معاملوں کے لئے حاکم دوم کے دادا، عدی سے رائے لے کر آمادہ عمل رہے، اسی طرح اہم

ملکی معاملوں (اطلاع رسائی) کے واسطے وہی آگے آگے رہے۔<sup>۳</sup>

### عالم مادی کو آمد

عمر مکرم کی اس عالم مادی کو آمد وداع مکہ سے ساٹھ کم سو سال ادھر ہوئی۔

### رسول اللہؐ کا عطا کردہ اسم

عمر مکرم اسلام لائے، گمراہ لوگ عمر مکرم کی الم رسائی کے واسطے سماعی ہوئے، عمر مکرم

۱ اور کنیت ابو حفص، لقب فاروق، والد کا نام خطاب، والدہ کا نام ختمہ ہے۔ (سیر الصحاب، ج: ۱، ص: ۹۶) ۲ آپؐ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبد اللہ بن زراح بن عدی بن کعب بن لوئی، کعب کے دو بیٹے ایک عدی دوسرے مرہ، مرہ آنحضرتؐ کے اجداد میں سے ہیں یعنی آٹھویں پشت میں حضرت عمرؓ کا سلسلہ نسب آنحضرتؐ کے سلسلہ نسب میں مل کر ایک ہو جاتا ہے۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۱۰) ۳ آپؐ کے جد اعلیٰ عدی عرب کے باہمی منازعات میں ثالث مقرر ہوا کرتے تھے اور قریش کو کسی قبیلے کے ساتھ ملکی معاملہ پیش آجاتا تو سفیر بن کے جایا کرتے تھے یہ دونوں منصب عدی کے خاندان میں نسلاً بعد نسل چلے آ رہے تھے۔ (سیر الصحاب، ج: ۱، ص: ۹۶)

کے ماموں عاص ولد وائل کہ اس لمحہ اسلام سے محروم رہے، آڑے آگئے اور کہا: ”لوگو! عمر کا حامی ہوں، عمر سے دور رہو“۔ مگر اسلام لا کر عمر مکرم کو کہاں گوارا کہ اک گمراہ اس کا حامی ہو؟ اس لئے ماموں کی مدد کو ٹھکرا کر گمراہوں کے آگے ڈٹے رہے۔

مال کار اہل اسلام کے ہمراہ دار اللہ گئے اور عماد اسلام ادا کی اور وہ اول لمحہ ہوا کہ اسلام کو گمراہی کے آگے علوما، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر مکرم کو اک اہم اسم عطا ہوا، اس اسم کی مراد ہے کہ عمر سے اسلام اور گمراہی الگ الگ ہو گئے۔<sup>۱</sup>

### دورِ لاعلمی کے احوال

عمر مکرم، والد کے حکم سے سواری کے گلہ کے راعی رہے اور اس کے آگے مولودی سلسلے کے عالم اور ماہر کلام ہوئے گھڑ سواری اور لڑائی کے اطوار کے ماہر ہوئے۔ اور علم محرمی<sup>۲</sup> کے اس لمحے عالم ہو گئے کہ کم لوگ اس علم کے عالم ہوئے۔

### مالی آسودگی کی راہ

مکہ کے عام لوگوں کی طرح عمر مکرم مالی آسودگی کے لئے سوداگری کی راہ لگ کر کئی امصار و ممالک کو گمراہی ہوئے، اس سے عمر مکرم کو کمال، جوصلگی، کاموں کی عمدگی، اور معاملے کے اطوار حاصل ہوئے، اسی لئے اہل اسرہ کی رائے سے امصار ممالک کے لوگوں سے ہمگلا ہی کے واسطے مامور رہے اور کئی طرح کے معاملے عمدگی سے حل کئے۔

### رسول اللہ کی آمد اور عمر مکرم

عمر مکرم کی عمر اٹھارہ اور دس سے اک سال کم کی ہوئی کہ مہر<sup>۳</sup> امر الہی طلوع ہوا اور وادی

۱ حضرت عمر فاروقؓ اسلام لائے اور مکہ میں اپنے مشرک ماموں عاص بن وائل کی پناہ میں آنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کے ساتھ علانیہ بیت اللہ میں نماز ادا کی اس کے صلے میں دربار نبوت سے فاروق کا لقب ملا جس کے معنی ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والے۔ (صحابہ کرام انسائیکلو پیڈیا، ص: ۱۳۸) ۲ لکھنا پڑھنا سے معیشت سے سفارت ہے آفتاب رسالت۔

مکہ ”اللہ احد“ کی ٹوٹے دیکھی۔

عمر مکرم اس کی سہارے محروم رہے اور عام لوگوں کی طرح اہل اسلام کے عدو ہو کر دکھ دی اور الم رسائی کے واسطے ساعی ہوئے۔<sup>۱</sup>

اس کی اک مملوکہ اللہ کے کرم اور اس کی عطا سے اسلام لے آئی، عمر مکرم کو معلوم ہوا۔ اس مملوکہ صالحہ کو اس طرح کی مار ماری کہ وہ ادھ موٹی ہو گئی اور عمر مکرم ہی کی مار سے وہ اعمیٰ ہو گئی، مکے کے سردار اس سے مسرور ہوئے اور کہا کہ ہمارے اہلوں کے حکم سے وہ اعمیٰ ہو گئی ہے، اس مملوکہ صالحہ کو اس کلام سے ملال ہوا اور کہا کہ مٹی کے الہ مکے والوں سے سوالا علم رہے۔

اللہ کا حکم ہمارے لئے اسی طرح ہوا، اللہ سارے امور کا مالک ہے، اگر اس کا حکم ہو وہ اس مملوکہ کو دم عام لوگوں کی طرح اس روگ سے دور کر دے، اللہ کے کرم کی اک لہر آئی اور وہ مملوکہ اس کے حکم سے معمول کی طرح ہو گئی۔<sup>۲</sup>

اسی طرح دوسرے اہل اسلام کو دکھ دے کر مسرور ہوئے، مگر اس سے محروم رہے کہ کسی مسلم کو راہ ہدئی سے دور کرے۔

### سرسر رسول عمر مکرم کا اسلام

ادھر ہادی اکرم اور سارے ہمدم اعلیٰ کلمہ اسلام کے لئے ہر طرح ساعی رہے، ادھر لوگوں کے دل اسلام کے لئے ہموار ہوئے، ادھر مکے والوں کے دل حسد و ہوس کی آگ سے دھک اٹھے۔

علماء سے مروی ہے کہ رسول اکرم اللہ سے دعا گو ہوئے کہ اے اللہ! عمر اور عمرو، ہر دو

۱۔ روشنی (سیر الصحاب، ج: ص: ۹۷) حضرت زینبہؓ حضرت عمرؓ کی کنیتیں ان کی مار سے اندھی ہو گئی تھیں۔ ع: اعمیٰ،

اندھی۔ بعض روایتوں میں اس باندھی کا نام بیدہ ہے۔ (ہادی عالم ص: ۹۰ بحوالہ سیرۃ المصطفیٰ، ج: ۱، ص: ۱۷۳)

۲۔ حضرت عمر فاروقؓ کے اسلام کا پورا واقعہ اور حوالے ہادی عالم سے منقول ہیں۔ حضرت عمر فاروقؓ ہجرت جشہ

اولیٰ اور ثانیہ کے درمیان اسلام لائے (سیرت المصطفیٰ ص: ۱۶۱) عمر فاروقؓ ع: عمرو بن ہشام (ابو جہل)

سرداروں سے کسی اک کو اسلام کا حامی کر دے اور اس سے اسلام کی مدد کرے۔ (رواہ احمد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کو وحی سے معلوم ہوا کہ عمر و اسلام سے محروم رہے گا، اس لئے ہمد مکر م عمر کے لئے دعا دی کہ اے اللہ! عمر سے اسلام کی مدد کر۔<sup>۱</sup>

ادھر صوری طور سے ہمد رسول عمر کی اسلام سے آمادگی کا حال ہمد گرامی عمر ہی سے اس طرح مروی ہے:

”عمر و کا اہل مکہ سے وعدہ ہوا کہ اگر کوئی محمدؐ کو مار ڈالے اس کو سو سواری عطا کروں گا۔“ عمر اس سے طے اور اس وعدے کا حال اس سے معلوم کر کے گھر سے مسلح ہو کر اس ارادے سے گھر رواں ہوئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کو مار کر اموال حاصل کرے راہ کے اک محل آئے کہ وہاں اک گائے کھڑی ہے اور لوگوں کا ارادہ ہے کہ اس کو کاٹ کر مسرور ہوں۔ عمر وہاں آ کر کھڑے ہوئے معاً اس گائے سے صدا آئی:

لوگو! اک امر کا مگار ہے، عالی کلام والا اک مرد ہے اور صدا دے رہا ہے کہ گواہ رہو کہ اللہ واحد ہے اور محمدؐ اس کا رسول ہے۔<sup>۲</sup>

عمر گرامی کو محسوس ہوا کہ وہ صدا عمر ہی کو دی گئی ہے اور اس صدا کا روئے کلام اسی کے لئے ہے، مگر عمر اسی ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے گھر کے لئے رواں رہے۔ اک آدمی<sup>۳</sup> ملا اور کہا: اے عمر! کہاں کا ارادہ

۱۔ سیرت مصطفیٰ ج ۱ ص ۱۹۵۔ ع سنن ابن ماجہ کے حوالے سے سیرت مصطفیٰ میں دعا کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں اللھم ایدالاسلام بعمر بن الخطاب خاصة (اے اللہ خاص عمر بن خطاب سے اسلام کو قوت دے) (ص ۱۹۵)

۲۔ اس پتھر سے یہ آواز آئی یا ل ذریع امر نجمع رجل یصح بلسان فصیح یدعو الی شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ (اے آل ذریع ایک کامیاب امر ہے ایک مرد ہے جو فصیح زبان کے ساتھ صدا دے رہا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ﷺ کی شہادت کے لئے بار بار ہے) (سیرت مصطفیٰ بحوالہ فتح الباری ص ۱۹۶)

۳۔ نعیم بن عبد اللہ حم طے۔

ہے؟ اس سے دل کا ارادہ کہا: محمد کو مار کر ہی لوٹوں گا۔ وہ آدمی آگے  
ہوا اور کہا: ”اول والد کے داماد اور اس کے گھروالوں کا حال معلوم کرو وہ  
اسلام لے آئے۔“

اس اطلاع سے عمر کھول اٹھے اور اسلحہ لے کر وہاں آئے، اس گھر آ کر کلام  
الہی کی سحر کار صدا دل سے نکرائی، مگر وہ آگے آئے اور والد کے داماد اور اس  
کی گھروالی کو اس طرح مارا کہ وہ لہو لہو ہو گئے، مگر وہ اللہ والے اس کے آگے  
مار کھا کر ڈٹے رہے اور کہا: اے عمر! ہمارا کوئی حال کرو! ہم اسلام لے آئے  
اور اللہ کے کرم سے گمراہی سے دور ہوئے۔

عمر مکرم آگے آئے اور کہا: وہ کلام ہمارے آگے دہراؤ! اللہ کا کلام مسموع  
ہوا، دل کی گرہ کھلی گمراہی اور لاعلمی کی کالی گھٹا دل سے ہٹتی، اک سردی  
سرور طاری ہوا اور کہا: وہ کلام ہر کلام سے اعلیٰ و اکرم ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے اک اور ہمدمؑ وہاں عمر مکرم کے ڈر سے لکے رہے  
آگے آئے اور کہا:

”اے عمر! مسرور ہو کہ ہادی اکرم کی دعا کا مگار ہوئی۔“

عمر مکرم کا اصرار ہوا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے گھر کی راہ

دکھاؤ اور ہمارے ہمراہ آؤ!

آپ کی بہن فاطمہؑ نے قرآن کے اجزا سامنے لا کر رکھ دیئے اٹھا کر دیکھا تو یہ سورت تھی: سبح لله مافی السموات  
والارض و هو العزیز الحکیم (حدید) زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں اور وہ غالب  
اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے امنوا باللہ  
ورسولہ (خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو بے اختیار پکار اٹھے اشہدان لا الہ الا اللہ واشہدان  
محمد رسول اللہ۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۹۹) قرآن کریم کی آیات سن کر حضرت عمر فاروقؓ نے  
فرمایا: ما احسن هذا الکلام و اکرمه۔ کیا ہی اچھا اور بزرگ کلام ہے (سیرت مصطفیٰ ص ۱۹۷) اس وقت  
حضرت خیابؓ حضرت عمرؓ کی بہن اور بہنوئی کو تعلیم دے رہے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے وہ ہمدم، عمر مکرم کو لے کر سوائے دار کوہ آئے اور وہاں درگھنگھٹا کے کھڑے ہوئے، اس لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم وہاں عم ہمدم اور دوسرے لوگوں کے ہمراہ رہے، عم ہمدم کو معلوم ہوا کہ عمر در کے ادھر کھڑا ہے۔ کہا:

”اگر عمر اصلاح کے ارادے سے آ رہا ہے، ہم سے عمدہ سلوک حاصل کر لے گا اور اگر اس کا کوئی اور ارادہ ہے، اسی کی حساب سے اس کو ہلاک کروں گا۔“

عمر مکرم راوی ہوئے:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے حکم سے گھر کا در کھلا، دو ہمدم اس کے لئے آگے آئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ اس سے الگ رہو اور کہا: اے عمر! اسلام لے آؤ اور دعا کی کہ ”اللہم اھدہ“ اے اللہ! اس کو راہِ ہدیٰ عطا کر!“

عمر مکرم آگے آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! اسی ارادے سے اس گھر کو راہی ہوا ہوں اور کلمہ اسلام کہہ کر رسول اکرم کے حامی ہوئے ہادی اکرم کمال مسرور ہوئے اور ”اللہ احد“ کی صدا لگائی۔

عمر مکرم کے اسلام سے اہل اسلام کو کمال حوصلہ ہوا۔ عمر مکرم اٹھے اور کہا:

”اے اللہ کے رسول! سارے اہل اسلام کو ہمراہ لے کر سوائے حرم آؤ کہ اللہ کا گھر صدائے لا الہ الا اللہ سے معمور ہو۔“

عمر مکرم اہل اسلام کو لے کر حرم آئے اور مکے کے گمراہوں سے کہا: اے لوگو! گواہ رہو کہ عمر کو راہِ ہدیٰ مل گئی اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا حامی ہوا ہے۔ اہل اسلام کھلم کھلا حرم

۱۔ حاتم عربی میں تلوار کو کہتے ہیں (المنجد) ۲۔ سیرت ابن ہشام۔ کے حوالے سے سیرت مصطفیٰ میں یہی الفاظ نقل کئے گئے ہیں۔ ۳۔ اس وقت تک مسلمان دار ارقم میں ہی چھپ کر عبادت کرتے تھے، حضرت عمرؓ کے اسلام کے بعد وہ علی الاعلان حرم شریف آکر عبادت کرنے لگے۔

آ کر محمد الہی ہوں گے اگر کسی کو حوصلہ ہو آگے آئے۔

الحاصل اس طرح عمر مکرم کے واسطے سے اہل اسلام کے لئے حرم الہی کا درکھلا اور وہ کھلم کھلا وہاں آ کر اللہ کے آگے سر ٹکا کر اور دار اللہ کا دور لڑ کر کے مسرور ہوئے۔

علماء سے مروی ہے کہ عمر مکرم اسلام لائے، عمر مکرم کا ارادہ ہوا کہ اول کسی اس طرح کے آدمی کو اطلاع دوں کہ وہ سارے اہل مکہ کو اس امر سے مطلع کر دے، اس لئے ولد معمر کے گھر گئے اور اس سے اسلام کا حال کہا، وہ اسی دم سوئے حرم دوڑے اور لوگوں کو عمر مکرم کے اسلام کی اطلاع دی۔<sup>۲</sup>

عمر مکرم اس کے ہمراہ حرم آئے، لوگ اس کے عدو ہو کر حملہ آور ہوئے اور عمر مکرم کو مارا عاص<sup>۳</sup> ولد وائل سہمی عمر مکرم کے ماموں کہ اس لئے راہ ہدئی سے محروم رہے۔ وہاں آئے لوگوں سے حال معلوم ہوا کہا: لوگو! اس سے الگ رہو! عاص اس کا حامی ہے۔ اس طرح وہ عمر مکرم کو گھر لے آئے، مگر عمر مکرم کو کہاں گوارا کہ اک گمراہ اس کا حامی ہو، ماموں کی مدد کو ٹھکرا کر گمراہوں کے آگے ڈٹ گئے۔

مال کا راہل اسلام کے ہمراہ دار اللہ گئے اور عماد اسلام ادا کی۔ وہ اول لمحہ ہوا کہ اسلام کو گمراہی سے علو حاصل ہوا، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے عمر مکرم کو اک اہم اسم عطا ہوا، اس اسم کی مراد ہے کہ عمر سے اسلام اور گمراہی الگ الگ ہو گئے۔

عمر مکرم کے اسلام سے اہل مکہ کو کمال دکھ ہوا اور وہ آگے سے سوا اہل اسلام کے عدو ہوئے، ادھر اہل اسلام کو عمر مکرم کی ہمدی سے کمال حوصلہ ہوا اور وہ کھل کر عمل اسلام کے لئے سعی ہوئے۔

۱ طواف۔ ۲ یہ روایت ابن سعد کی ہے (جزء: ۳، ج: اول، ص: ۱۹۳، سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۰۶) سید عاص بن وائل

سہمی نے حضرت عمر فاروقؓ کو پناہ دی۔ (سیرت مصطفیٰ، ص: ۱۹۸)



## وداع مکہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم اور رسول اکرمؐ کے ہمدموں کی مسلسل ساعی سے اردگرد کے لوگوں کو راہ ہدئی ملی اور کلمہ اسلام کے حامی اک اک کر کے سوا ہوئے۔ مکہ کے گمراہوں کے دل حسد اور ہوس کی آگ سے دہک اٹھے، وہ کھلم کھلا اہل اسلام کے عدو ہو کر دکھ دیں اور الم رسانی کے واسطے ساعی ہوئے۔ سارے اہل اسلام، اللہ اور اس کے رسول کے دلدادہ رہے اور ہر مسلم کا دل اسلامی درس سے معمور رہا، اس لئے سارے دکھوں کو سہہ گئے۔

امروجی کو اک کم آٹھ سال ہوئے کہ عمر مکرم اسلام لائے اور امروجی کے دس اور سہ سال کو وداع مکہ کا حکم ہوا۔ اس طرح عمر مکرم دو کم آٹھ سال مکہ والوں کی الم رسانی کو سہہ کر اللہ کے آگے کامگار ہوئے۔

اہل اسلام کو وداع مکہ کا حکم ہوا عمر مکرم کا ارادہ ہوا کہ وہ اہل اسلام کے ہمراہ معمورہ رسول کو راہی ہوں، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے آگے آئے اور وداع مکہ کی رائے لے کے اٹھے اور مسلح ہو کر گمراہوں کے آگے سے ہو کر دار اللہ آئے، دار اللہ کے دور کی ادائے گی کی اور عماد اسلام ادا کر کے گمراہوں کے سرداروں سے اس طرح ہم کلام ہوئے:

”او کالے موں والو! اگر کسی کا ارادہ ہو کہ اس کی ماں اس کے روئے

اور اس کی گھر والی اس کو کھوئے اور اس کی اولاد اس کے سائے سے محروم

ہو، وہ آگے آئے اور عمر کو وداع مکہ سے روکے۔

سارے گمراہ اس جوصلے سے محروم رہے کہ وہ عمر مکرم کو روک کر مسرور ہوں۔

عمر مکرم ادھر سے راہی ہو کر عوالی آئے (کما رواہ مسلم) اور اک مددگار کے گھر آ کر

---

الگران بلا کشان اسلام میں غیر معمولی جوش ثبات اور دار فقی کا مادہ نہ ہوتا تو ایمان پر ثبات قدم رہنا غیر ممکن تھا (سیر الصحابہ ج ۱ ص ۱۰۶) حضرت عرفانؓ نے نبوی میں اسلام لائے اور ۱۳ نبوی میں ہجرت ہوئی (ایضاً) سید قباہ اس کا دوسرا نام عوالی ہے۔ سید رفاعہ بن عبدالمعز۔

ٹھہرے عمر مکرّم کے آگے کئی ہمد و داع مکہ کر کے معمورہ رسولؐ اور سارے لوگوں کو رواں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم اور ہمد مکرّم، حاکم اسلام و داع مکہ کر کے معمورہ رسولؐ آئے۔

### معاهدہ ہمدردی

رسول اللہؐ کے ہمدوں کے سارے اموال و املاک مکہ مکرمہ ہی رہ گئے، اس لئے مالی طور سے سارے ہمدوں کا حال گراں ہوا، اس لئے رسول اللہؐ کی رائے ہوئی کہ ہمد دگارا کہ ہمد کو گھر لے آئے اور اس سے والد کے لڑکے کی طرح کا عمدہ سلوک کرے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کے مددگار، رسول اکرمؐ کے حکم سلوک سے کمال مسرور ہوئے اور ہمدوں کے لئے دلوں کے دروا کئے، ہمد دگار کو رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کے حکم سے اک الم گسار ملا، وہ اس کا ہر طرح سے ہمدرد اور دلدادہ ہوا۔<sup>۱</sup>  
عمر مکرّم کا معاهدہ عمدہ سلوک اسرہ اولاد سالم کے سردار ولد مالکؓ سے ہوا۔

### صدائے عماد اسلام کے لئے عمر مکرّم کی رائے

معمورہ رسولؐ کا اسلام مکہ کی طرح دکھوں اور آلام سے دور رہا، اہل اسلام کھلم کھلا احکام اسلام کی راہ کے راہرو ہوئے اک اک کر کے اللہ والوں کا گروہ سوا ہوا اور لوگ معمورہ رسولؐ آ آ کر دور دور کے محلوں کو معمور کر کے رہے، اس لئے مسئلہ کھڑا ہوا کہ کس طرح اہل اسلام کو عماد اسلام کی اطلاع ہو؟

رسول اللہؐ کا حکم ہوا کہ لوگو! ہم کو روانے دو کہ کس طرح سارے اہل اسلام کو عماد اسلام کی اطلاع ملے؟ کسی کی رائے ہوئی کہ آگ سلگا کر اطلاع کرو۔ کسی کی رائے ہوئی کہ ڈھول کوٹ کر۔

عمر مکرّم کی رائے ہوئی کہ اک آدنی کھڑا ہو کر عماد اسلام کے واسطے صدا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم اس رائے سے مسرور ہوئے، اک ہمد کو حکم ہوا کہ کھڑے ہو کر صدائے

۱۔ عقد مواخات، بیادنی عالم ص ۱۵۹ س ۳ حضرت عتبہ بن مالک، (سیر الصحابہ ج ۱ ص ۱۰۷) حج حضرت بلال حبشیؓ

عماد اسلام کہے!

اس طرح اسلام کا اک اہم کام عمر مکرم کی رائے سے طے ہوا کہ اس کی صدا سے سارا عالم سدا کے لئے دیکھے گا۔<sup>۱</sup>

### معمر کے اور دوسرے احوال

معمورہ رسول آ کر اہل اسلام کے اندائے اسلام سے کئی معمر کے ہوئے، عمر مکرم ہر ہر معمر کے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم اور اہل اسلام کے ہمراہ رہے۔

### معمر کے اول اور عمر مکرم

رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے حکم سے سارے ہدم و مدگار اکٹھے ہوئے، معمر کے اول کے واسطے رائے لی گئی۔

اول ہدم مکرم کا عمدہ اور حوصلہ ور کلام ہوا، ہدم مکرم کے کلام کی حوصلہ وری کو مسوع کر کے عمر مکرم کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہر حکم کے لئے آمادگی کا عہد کر کے لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے۔<sup>۲</sup> عمر مکرم اس معمر کے کمال حوصلہ وری سے لڑے۔

### لڑائی کا اک اہم مرحلہ

لڑائی کے اک مرحلے عمر مکرم کا ماموں عاصؓ، عمر مکرم سے معمر کے آراء ہوا اور عمر مکرم کی دھار دار حسام سے ہلاک ہو کر واصل دارالآم ہوا، اس طرح عمر مکرم اسرہ کے گمراہ لوگوں کی ہمدردی سے دور رہے اور اہل عالم کو معلوم ہوا کہ اہل اسلام کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم سارے لوگوں سے سوا مکرم ہے۔

مال کار عسکر اسلام کا مگار ہوا اور معمر کے اول کے محصوروں اور مال کا مگاری لے کر معمورہ رسول لوٹا۔

۱) (سیر الصحابہ ج ۱ ص ۱۰۷) بخیرہ بدر (ہادی عالم ص ۱۷۰) عاص بن ہشام بن مغیرہ۔

## محصوروں کے لئے عمر مکرم کی رائے

محصوروں کے واسطے رائے لی گئی، رسول اکرمؐ کی رائے ہوئی کہ محصوروں سے عمدہ سلوک کرو! عمر مکرم کھڑے ہوئے اور رائے دی:

”اے رسول اللہ! سارے محصوروں کو مار ڈالو“

عمر مکرم ساری عمر، اللہ اور اس کے رسول کے اعداء کے لئے دھاردار حسام ہو کر رہے،

مگر رسول اکرمؐ کا دہرا کر کلام ہوا:

”لوگو! اللہ کے حکم سے محصوروں کے امور کے مالک ہوئے ہو، اس لئے

سلوک سے کام لو!“

عمر مکرم دہرا کر کھڑے ہوئے اور وہی رائے دی۔ ہمد مکرم کھڑے ہوئے اور کہا کہ:

”اے رسول اللہ! ہماری رائے ہے کہ محصوروں سے مال لے رہائی لے

کر سارے لوگوں کو رہا کر دو! اللہ سے آس ہے کہ وہ اسلام لاکر گمراہوں

کے آگے ہمارے مددگار ہوں گے۔“

رسول اکرمؐ کو ہمد مکرم کی رائے سے مسرور ہوئے اور حکم ہوا کہ محصوروں سے مال

رہائی لے کر سارے لوگوں کو رہا کر دو۔

۱۲۔ اتوار ۲۔ آنحضرتؐ نے شروع میں فرمایا تھا کہ اللہ نے تم کو ان پر قدرت دی ہے اور کل یہ تمہارے بھائی تھے نشاء یہی

تھا کہ ان سے حسن سلوک کرو۔ ۳۔ زرفریہ۔ ۴۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی یہ رائے اس لئے تھی کہ شاید یہ لوگ کسی وقت

اسلام لے آئیں۔ (ہادی عالم، ص: ۱۹۵) ۵۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ یہ ہے: ماکان لبسی ان یکون اسری حتی

یشحن فی الارض تسریدون عرض الدنیاء واللہ یرید الاحرة واللہ عزیز حکیم (سورہ انفال آیت

۶۷) غیر منقوٹ اردو میں اس کا صرف مفہوم دیا گیا ہے آیت کریمہ کا اصل ترجمہ یہ ہے: کسی نبی کیلئے لائق نہیں کہ اس کے

پاس قیدی آئیں یہاں تک کہ ان کو قتل کرے اور زمین میں ان کا خون بہائے، تم دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو اور اللہ آخرت

کی مصلحت چاہتا ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے، اگر اللہ کا نوشتہ مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو اس چیز کے بارے میں جو تم نے

لی ہے ضرورتاً کو بوز اذاب پہنچتا۔ (ترجمہ از سیرت مصطفیٰ ص: ۴۷۰ ماخوذ از ہادی عالم ص: ۱۹۶-۱۹۷)

اس رائے کا اصل مدعی وہ احساس رہا کہ اگر محصور رہا ہو گئے آس ہے کہ وہ اسلام لاکر اہل اسلام کے حامی ہوں گے اس طرح اسلام کے کام کو سہارا لگے گا۔

## اللہ مالک الملک کا دھمکی والا کلام

مگر اس عمل سے کلام الہی وارد ہوا اور اس سے اللہ کا مدعی دوسرا ہی معلوم ہوا۔ کلام الہی کا ما حاصل اس طرح ہے:

”کسی رسول کے لئے وہ امر گوارا کہاں کہ لوگ اس کے لئے محصور ہوں (گوارا ہے کہ) سارے محصوروں کو مار ڈالے، مگر لوگ اس عالم مادی کے مال و املاک کے لئے آمادہ ہو گئے اور اللہ اس عالم سرمدی کا ارادہ کر رہا ہے اور اللہ حاوی اور حکم والا ہے، اس مال سے کہ وصول ہو اللہ کے دکھ اور الم کے حصہ دار ہوئے، مگر اللہ کا لکھا ہوا امر آڑے آکر رہا۔“<sup>۱</sup>

در اصل اس دھمکی والے کلام کے روئے کلام کے مورد وہ لوگ ہوئے کہ اس عالم مادی کے مصالح کے لئے مال رہائی کی وصولی کے لئے عامل ہوئے، علماء کی رائے ہے معدود لوگ اس طرح کے رہے ہوں گے کہ حصول مال کا ارادہ کر کے اس رائے کے عامل ہوئے، اس سے معلوم ہوا کہ عمر مکرم کی رائے مدعا الہی سے ملی ہوئی رہی۔<sup>۲</sup>

## معمورہ رسول کے اسرائیلی گروہ سے معرکہ

معرکہ اول کے آگے معمورہ رسول کے اک اسرائیلی گروہ سے معرکہ ہوا اور دوسرے کئی معرکہ ہوئے، عمر مکرم ہر معرکہ سرگرم عمل رہے۔<sup>۳</sup>

۱۔ (ہادی عالم) ۲ (ایضاً) ۳، تنویر نقاش۔ ۴، جیسے غزوہ موئق وغیرہ۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۰۹)

## معرکہ احد اور عمر مکرم

وداع مکہ کے سال سوم ماہ صوم سے اگلے ماہ معرکہ احد ہوا۔

اعدائے اسلام اور اہل اسلام اک دوسرے کے آگے آکر لڑائی کے لئے آماد ہوئے، ادھر اعدائے اسلام کا دس دس سو کے سہ گروہ کا اک کمال مسلح عسکر طرار اور ادھر اہل اسلام کا سو سے کم آٹھ سو کا محدود و محدود کم عدد و کم مسلح عسکر۔

ہر دو گروہ اک دوسرے کے آگے ڈٹ کر حملہ آور ہوئے، معرکہ گرم ہوا، سارے ہی اہل اسلام اللہ اور اس کے رسول کے لئے دل کھول کر لڑے، مگر علی کرمہ اللہ، عم اسد اللہ، اور عمر مکرم اس طرح دلاوری اور حوصلہ وری سے لڑے کہ عسکر اعداء کے دل دھڑک اٹھے اور اہل اسلام لئے کامرگاری کا در کھلا، اس گھائی والوں کی حکم عدولی سے اہل اسلام کی وہ کامرگاری ادھوری رہ گئی۔

ادھر اہل اسلام کا مسلح رسالہ گھائی سے ہٹ کر الگ ہوا، ادھر مکہ کا اک سردار کھڑائی اور اس کے اطوار کا ماہر رہا، سولوگوں کو ہمراہ لے کر گھوم کر اس گھائی کے آگے آکر حملہ آور ہوا۔ گمراہوں کے عسکر کو اس حال کی اطلاع ملی وہ حوصلہ کر کے اکٹھے ہوئے اور گمراہوں کے دوسرے علمدار عمر مکرم کے ہمراہ ہو کر اہل اسلام کے عسکر کے لئے حملہ آور ہوئے۔

اہل اسلام کو اک دکھ سا لگا، وہ ہر دوراہ سے اعداء اسلام سے گھر گئے اور سارا عسکر اسلامی کٹی جیسے ہو کر ادھر ادھر ہوا۔

گمراہوں کے حملے سے رسول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی ڈاڑھ ٹوٹ کر گر گئی اور لوہے کی کلاہ کے دو کڑے روئے مسعود کو گھس گئے، رسول اکرم اس حملے سے لڑکھڑا کر اک

اسات شوال ہفتہ کے دن لڑائی شروع ہوئی۔ ۲۔ (سیر الصحابہ ج ص ۱۰۹) ۳۔ قریش کی تعداد تین ہزار تھی دو سو، سوار اور سات سو زره پوش۔ ۴۔ غازیان اسلام کی کل تعداد صرف سات سو تھی، جس میں سوزرہ پوش اور دو سو، سوار تھے۔ ۵۔ (حوالہ بالا) ۶۔ حضرت امیر حمزہؓ کے خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے۔

گڑھے گر گئے۔<sup>۱</sup>

لڑائی کی گہما گہمی کم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم اہل اسلام کے اک گروہ کے ہمراہ کوہ احد گئے، اعدائے اسلام اک گمراہ سردار کے ہمراہ حملہ کے ارادے سے آگے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ گمراہوں کو روکو! اسی لمحے عمر مکرم اہل اسلام کے اک گروہ کو لے کر آگے آئے اور اعدائے اسلام سے معرکہ آراء ہو کر اعداء کو رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے دور رکھا۔<sup>۲</sup> مال کار اللہ والوں کا گروہ مار دھاڑ کر کے اکٹھا ہوا اور رسول اکرم کے گرد آ کر اعداء سے معرکہ آراء ہوا۔

گمراہوں کو احساس ہوا کہ عسکر اسلامی اکٹھا ہو کر معرکہ آرائی کے لئے آمادہ ہے اور اللہ والوں کا ہر آدمی معرکہ آرائی کے ولولے سے معمور ہے، وہ حوصلہ ہار گئے اور معرکہ گاہ سے سمٹ کر الگ ہو گئے۔

رسول اکرم کے دلدادہ ہمد و مددگار اللہ کے رسول کو لے کر احد کی اک کھوہ آگئے کہ وہاں اللہ کا رسول آرام کرے۔

گمراہوں کا سردار ادھر آ کر کھڑا ہوا اور صد الگائی:  
”محمد سالم ہے؟“

رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ رد کلام سے رکے رہو! اسی طرح دہرا کر صد الگائی، مگر رسول اکرم کے سارے ہمد و مددگار کلام سے رکے رہے۔

۱ (بادی عالم ص ۲۲۵) ۲ آپ نے خالد بن ولید کو ایک دستہ کے ہمراہ ادھر بڑھتے دیکھ کر فرمایا کہ خدایا یہ لوگ یہاں تک نہ آئے پائیں۔ صح حضرت عمر نے چند مہاجرین و انصار کے ساتھ آگے بڑھ کر حملہ کیا اور ان لوگوں کو ہٹایا۔ (سیر الصحابہ ج: ۱، ص: ۱۰۹) ۳ ابو سفیان نے آواز لگائی: افسی القوم محمد (کیا تم لوگوں میں محمد زندہ ہیں؟) آپ نے فرمایا کوئی جواب نہ دے (بادی عالم ص ۲۲۶)

وہ سردار آگے ہوا اور صدالگائی:

”ہمد مکرّم سالم ہے؟“

اس کلمے کو دہرا کر اس طرح صدالگائی، مگر ردکلام سے محروم رہا۔

صدالگائی:

”عمر سالم ہے؟“

مگر حکم رسول سے سارے ہمد ردکلام سے رکے رہے۔

وہ سردار کمال مسرور ہوا اور کہا سارے ہلاک لہو گئے! عمر مکرّم کو اس کی سہارا کہاں کہ وہ اللہ کے رسول کے لئے اس طرح کا کلام مسموغ کر کے ردکلام سے رک رہے؟ صدالگائی:

”واللہ! محمد سالم ہے کہ اس کے واسطے سے اللہ گمراہوں کے سردار کو دکھ

والم دے گا“

مگر ابوں کا سردار آگے ہوا اور مٹی کے الہ کا اسم لے کر صدالگائی:

”او مٹی کے الہ عالی ہے“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر مکرّم سے کلام ہوا کہ اس سے کہو:

”اللہ اعلیٰ و عالی ہے“

سردار کی صد آئی:

۱۔ ابوسفیان کو جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا: اماھو لاء فقد قتلوا (بے شک وہ سارے لوگ قتل ہو گئے) حضرت عمرؓ کی تاب نہ لا سکے فرمایا: کذبت واللہ یا عدو اللہ ابقی اللہ علیک مایحزنک (اللہ کے دشمن خدا کی قسم تو نے جھوٹ بولا تیرے رنج و غم کا سامان اللہ نے باقی رکھا ہے۔ حوالہ بالا) ۲۔ ابوسفیان حضرت عمر فاروقؓ کا جواب سن کر متعجب ہوا اور تفریہ لہجہ میں کہنے لگا: اعل ہبل۔ اعل ہبل۔ ہبل بلند و بالا ہے۔ ”ہبل“ بت کا نام تھا۔ (تاریخ اسلام، ص: ۱۶۵، سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۱۰) ۳۔ رسول اللہ کے حکم سے حضرت عمر فاروقؓ نے کہا: اللہ اعلیٰ و اجل۔ (خدا بلند و برتر ہے)



”اکرامؑ والاٹھی کا الہ ہمارا ہی ہے گروہ اسلام اس سے عاری ہے“

عمر مکرم کا رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے حکم سے رد کلام ہوا:

”اللہ ہمارا ولی ہے مگر اہوں کا ولی کہاں؟“

الحاصل سردار سے اسی طرح کا مکالمہ ہوا اور آل کار سردار آگے ہوا اور کہا اگلے سال

معرکہ اول کے گاؤں دوسری لڑائی کا وعدہ ہے۔

عمر مکرم کو رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ اس سے کہہ دو کہ وعدہ رہا ہم اگلے سال

معرکہ اول کے گاؤں آ کر معرکہ آراء ہوں گے۔

عمر مکرم کے لئے اک اہم اکرام

وداع مکہ کے سال سوم، عمر مکرم کی لڑکی سے رسول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی

عروسی کا معاملہ ہوا اور وہ مسلموں کی ماں اور رسول اکرم کی عروس ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علی کل

رسلہ وسلم کے گھر آئی، اس طرح عمر مکرم کو اک اور اکرام ملا کہ وہ رسول اکرم کے سسر ہوئے۔

دوسرے اسرائیلی گروہ سے معرکہ

اک دوسرے اسرائیلی گروہ سے سوئے عہدی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم

۱۔ اس کے جواب میں ابوسفیان بولا: لناعزى ولاعزى لكم۔ (عزى بت ہمارے تمہارا نہیں) ۲ عمر فاروقؓ نے

آنحضرتؐ کے ارشاد کے موافق جواب دیا: اللہ مولنا و لا مولى لنا و لا مولى لكم (اللہ ہمارا ولی ہے تمہارا نہیں)، ابوسفیان نے

کہا کہ یہ لڑائی جنگ بدر کے برابر ہوگئی یعنی ہم نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا۔ حضرت عمر فاروقؓ نے آپؐ کے ارشاد کے

موافق جواب دیا کہ: نہیں برابر نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین دوزخ میں۔ اس

کے بعد ابوسفیان خاموش ہو گیا پھر اس نے بلند آواز سے کہا اب ہمارا تمہارا مقابلہ آئندہ سال بدر میں ہوگا۔ آنحضرتؐ

نے حکم دیا کہ کہہ دو: نعم ہو بیننا و بینکم موعدا (اچھا ہم کو یہ وعدہ منظور ہے) تاریخ اسلام ج ۱ ص ۱۶۵۔ ۱۳۱ ام المومنین

حضرت حفصہؓ کا نکاح ۳۰ھ کے ماہ شعبان میں آنحضرتؐ سے ہوا، حضرت حفصہؓ کے پہلے شوہر خنیس بن حذافہ

کا انتقال غزوہ احد سے قبل ہوا تھا اور ان کی موت کا سبب وہ زخم تھے جو انہیں غزوہ بدر میں آئے تھے (عہد نبوت کے ماہ

وسال ۱۶۷) ۳۲ (ہادی عالم ص ۲۳۲) ۵۱ غزوہ: یونیورسٹی۔

کے حکم سے اس گروہ کے سارے لوگ معمورہ رسول سے دور کئے گئے، عمر مکرم ہر ہر گام رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کے ہمراہ ہے۔

### معمرکہ موعدا اور عمر مکرم کا کردار

معمرکہ احد کو اک سال مکمل ہوا، مکے والوں کا سردار آمادہ ہوا کہ لڑائی کے اس وعدے کا معاملہ کسی طرح لڑائی سے الگ رہ کر ہی طے ہو، اس لئے وہ اک دوسرے گروہ کے سردار ولد مسعودؓ سے ملا اور کہا کہ اک کام کرو معمورہ رسولؐ کے لئے راہی ہو اور وہاں رہ کر ہمارے اسلحہ اور ہمارے عدد کا حال ہر آدمی سے اس طرح کہو کہ سارے لوگوں کے دلوں کو ہمارا ڈر طاری ہوا اور وہ ڈر کہ معمرکہ آرائی کے ارادے سے الگ ہوں، سردار مکہ کا وعدہ ہوا کہ وہ اس کے صلے اس کو اموال دے کر سرور کرے گا۔

وہ سردار اس کام کے لئے معمورہ رسول کے لئے راہی ہو اور وہاں آ کر لوگوں سے طرح طرح کے احوال کہہ کر رائے دی کہ اس سال مکے والوں سے معمرکہ آرائی کے ارادے سے دور رہو! اس سے لوگوں کو معمولی ڈر ہو رہا ہے، مگر معاہی اللہ کی امداد کے احساس سے دل معمورہ ہوا اور کہا:

”اللہ ہمارے امور کا مالک ہے اور وہی سارے مددگاروں سے سوا ہمارا مددگار ہے۔“

۱۔ غزوہ احد سے واپسی پر ابو سفیان یہ کہہ کر گیا تھا کہ اگلے سال مقام بدر میں جنگ ہوگی اور مسلمانوں نے منظور کر لیا تھا، اس لئے غزوہ کا نام غزوہ بدر موعدا، غزوہ بدر ثانی اور غزوہ بدر اختری مشہور ہے۔ (تاریخ اسلام، ص: ۱۷۴، ج: ۱) ۲۔ نعیم بن مسعود اشجعی۔ (ہادی عالم، ص: ۲۵۴) ۳۔ نعیم بن مسعود اشجعی مدینہ منورہ آ کر رہا اور وہاں رہ کر لوگوں میں مکہ والوں کی طاقت و شوکت کا خوب چرچا کیا مگر مسلمانوں کے دل اور پکے ہو گئے اور اللہ پر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہہ کر اس غزوے کیلئے تیار ہو گئے، قرآن کریم کی اس بارے آیات نازل ہوئیں جن میں صحابہ کرم کی مدح اور جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کیلئے وعید آئی ہے۔ (ہادی عالم، ص: ۲۵۵، بحوالہ سیرت مصطفیٰ، ج: ۱، ص: ۶۲۱)

ہمد گرامی عمر، رسول اکرمؐ کے آگے آئے اور اطلاع دی کہ لوگ مکہ والوں کے احوال معلوم کر کے اس طرح ہراساں ہو گئے۔؟ رسول اکرمؐ اٹھے اور کہا کہ کوئی حال ہو، اللہ کا رسول اس معرکے کے لئے لامحالہ راہی ہوگا۔ رسول اکرمؐ اہل اسلام کو لے کر معرکے کے واسطے راہی ہوئے، مگر گمراہ حوصلہ ہار کر گھروں کو لوٹ گئے، اس طرح اللہ کے رسول کا وعدہ مکمل ہوا کہ ہم اگلے سال معرکہ آرائی کے لئے راہی ہوں اور مکے والے اس وعدے سے روگرواں ہو گئے۔

### گمراہوں سے اک معرکہ اور عمر مکرم

اس معرکے عسکر اسلامی کے دو علم ہوئے اک ہمدوں کا علم اور دوسرا مددگاروں کا۔ ہمدوں کے علمدار، ہمد مکرم ہوئے اور مددگاروں کا علم، مددگار رسول، سعد کو ملا، عسکر اسلام کے وسطی حصے کی سرداری عمر مکرم کو ملی۔

راہ کے اک مرحلے آ کر گمراہوں کا اک آدمی ملا کہ عسکر اسلام کے احوال کے حصول کے لئے وہاں سے راہی ہوا، عمر مکرم اس کو محصور کر کے لائے، اس سے عسکر اعداء کے اہم احوال معلوم کر کے اس کا مارڈالا، اس سے سارے اعداء ہراساں ہو گئے۔ اسی معرکے عمر مکرم مامور ہے کہ معرکے کی گہما گہمی کے لمحے صدالگائے کہ ہر وہ آدمی کہ وہ کلمہ اسلام کہہ دے گا وہ ہلاکی سے دور ہے۔

### مکاروں کے سردار کی مکروہ کلامی اور عمر مکرم

عسکر اسلام کا مگار ہو کر معمورہ رسول لوٹا، راہ کے اک مرحلے اک ہمد اور مددگار کی ماہ ظاہر کے کسی مسئلے کے لئے لڑائی ہو گئی، مکاروں کا سردار اس لڑائی سے کمال مسرور ہوا اور لڑائی کو ہوا دی اور کہا:

۱۔ (ہادی عالم) ج غزوہ، مصطلق، اس کو غزوہ مریع بھی کہتے ہیں۔ مصطلق بنی خزاعہ کے ایک شخص کا لقب تھا۔ (حوالہ

بالا) ج حضرت سعد بن، حاز۔ ج (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۹۹)

”سارے ہمدم ہمارے حاکم ہو گئے“ اور مکروہ کلامی کی اس کی مکروہ کلام کے لئے کلام الہی وارد ہوا،<sup>۲</sup> رسول اکرمؐ کو اس کے مکروہ کلام کی اطلاع ہوئی، عمر مکرم اٹھے اور کہا:

”اے رسول اللہ! اگر حکم ہوا اس مکار کو مار ڈالوں؟ حکم ہوا کہ اس ارادے سے دور رہو۔

## مکاروں کی عروسِ مطہرہ کے لئے اک مکروہ کاروائی اور عمر مکرم کی رائے

راہ کے اک مرحلے اک اور معاملہ ہوا کہ مکاروں کا گروہ عروسِ مطہرہ کی رسوائی اور سوء کردار کے لئے طرح طرح کی مکروہ کلامی کر کے سامعی ہوا کہ کسی طرح اہل اسلام کو رسوا کرے، رسول اکرمؐ کو اس سے دلی دکھ ہوا اس لئے عمر مکرمؓ علی کرمہ اللہ اور ہمدم اسامہ سے رسول اللہؐ کو دلاسا ملا اور سارے لوگ ہم رائے ہوئے کہ عروسِ مطہرہ اس مکروہ امر سے دور ہے اور وہ ہر طرح طاہر و مطہر ہے۔

## کھائی والا معرکہ اور عمر مکرم

کھائی والا معرکہ اسلامی معرکوں کا اک اہم معرکہ ہوا، عمر مکرم اس معرکے کے اک اہم حصے کے سالار ہوئے، اس لئے اس محل اک اللہ کے گھر کی معماری کی گئی اور وہ اللہ کا گھر عمر مکرم کے اسم سے موسوم ہے۔<sup>۵</sup>

## معابدہ صلح اور عمر مکرم

وداع مکہ کو دو کم آٹھ سال ہوئے اور اس سال کا دسواں ماہ ہوا رسول اکرم صلی اللہ علی

۱۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا: خدا کی قسم مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا ۲۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا: لسنن رجعتنا الی المدینة لیخربن الاعز منها الاذل۔ (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۹۰) ۳۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے گواہی دی کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ ہر برائی سے پاک ہیں۔ (ہادی عالم ص: ۲۶۷ بحوالہ سیرت مصطفیٰ ج ۲ ص ۶۱) ۴۔ غزوة خندق۔ (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۹۹، سیر الصحابہ، ج: ۱ ص: ۱۱۰) ۵۔ صلح حدیبیہ۔ ۶۔ آنحضرتؐ ۶۶ھ کو مکہ مکرمہ کے لئے روانہ ہوئے۔ (ہادی عالم، ص: ۲۹۱)

کل رسد و سلم عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہوئے اور اس امر کو محسوس کر کے کہ گمراہوں کو۔ لگئے گا کہ گروہ اسلام لڑائی کے ارادے سے آرہا ہے، رسول اکرمؐ کا اہل اسلام کو حکم ہوا کہ اسلحہ رکھ کر راہی ہوں!

راہ کے اک مرحلے عمر مکرم رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسد و سلم کے آگے آئے اور کہا اے رسول اللہ! گروہ اسلام سوئے اعداء راہی ہوا ہے، کس طرح گوارا ہو کہ اسلحہ رکھ کر راہی ہو؟ ہماری رائے ہے کہ اسلحہ اٹھا کر راہی ہوں۔

رسول اکرمؐ اس رائے سے مسرور ہوئے اور حکم ہوا کہ معمورہ رسول سے اسلحہ اٹھا لاؤ! راہ کے اک مرحلے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علی کل رسد و سلم کو معلوم ہوا کہ مکے والے ہر طرح لڑائی کے لئے آمادہ ہو گئے اور سارے لوگوں کا ارادہ ہے کہ اہل اسلام کو مکے سے دور ہی روک کر معرکہ آراء ہوں گے، مگر رسول اکرمؐ کا ارادہ لڑائی سے دوری کا ہی رہا، اس لئے داماد رسول، اسلام کے حاکم سوم کو حکم ہوا کہ مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہوں! وہ مکہ مکرمہ گئے اور ادھر ہی روک لئے گئے۔

اہل اسلام کو کسی طرح اطلاع ملی کہ داماد رسول مارے گئے، اس اطلاع سے رسول اکرمؐ کو کمال دکھ ہوا اور کہا کہ ہر آدمی ہم سے عہد کرے کہ وہ اللہ کے رسول کے ہمراہ اعدائے اسلام سے ڈٹ کر لڑے گا!

رسول اکرمؐ کے اس حکم کو مسوع کر کے دو سو کم سولہ سوا اہل اسلام کا اسی دم رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسد و سلم سے عہد ہوا، اسی عہد کے واسطے اللہ کا کلام وارد ہوا۔ عمر مکرم اول ہی سے لڑائی کے لئے آمادہ رہے، اطلاع ملی کہ لوگوں کا رسول اکرمؐ سے عہد ہو رہا ہے آگے آئے اور رسول اکرمؐ سے لڑائی کے واسطے عہد کر کے مسرور ہوئے۔

مکہ والوں کے کئی سردار آئے اور رسول اکرمؐ سے مکہ لے کر کے لوٹ گئے۔

مال کارکنے والے صلح کے لئے آمادہ ہو گئے۔ ولد عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح کے امور کے لئے مکہ مکرمہ و معاہدہ ہوا۔

معاہدہ صلح کے طے کردہ امور سے اک امر کمال کڑا رہا کہ ”اگر کوئی آدمی مکہ والوں سے رہا ہو کر اور اسلام لا کر معمورہ رسول آئے گا، وہ معاہدہ کی رو سے مکہ والوں کے حوالے ہوگا اور اگر کوئی مسلم معمورہ رسول سے راہی ہو کر مکہ مکرمہ آئے گا، وہ مکہ والوں ہی کے ہمراہ رہے گے۔“

عمر مکرم کو اس امر سے کمال دکھ ہوا، عمر مکرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آئے اور کہا کہ ”اے رسول اللہ! ہم راہ ہدئی کے عامل ہو کر کس لئے اس طرح رسوا ہوں؟ مگر ہادی کامل اٹھے اور کہا: ”اللہ کا رسول ہو کر وارد ہوا ہوں، امر محال ہے کہ وعدہ کر کے اس سے ہٹوں۔“

عمر مکرم اٹھ کر مسلم اول، سر رسول کے آگے آئے اور اس سے اسی طرح کا کلام ہوا۔

۱! (ہادی عالم، ص: ۳۰۲) معاہدہ صلح کی دیگر شرائط کے علاوہ ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر قریش کا کوئی آدمی رسول اللہ کے ہاں چلا جائے تو اس کو قریش کے پاس واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر مسلمانوں کا کوئی شخص قریش کے ہاتھ آجائے تو ان کو واپس نہ کرنے کا اختیار ہوگا۔ عمر فاروقؓ کی غیور طبیعت اس شرط سے نہایت مضطرب ہوئی اور خود دربار رسالت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ جب ہم حق پر ہیں تو باطل سے اس قدر دب کر کیوں صلح کرتے ہیں؟ آنحضرتؐ نے فرمایا: میں خدا کا پیغمبر ہوں اور خدا کے حکم کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی، انہوں نے بھی یہی جواب دیا بعد میں حضرت عمرؓ اپنی گفتگو پر بہت نادم ہوئے اور فرماتے تھے: میں نے بہت روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، خیرات دی، غلام آزاد کئے تاکہ اس گستاخی کا کفارہ ہو جائے یہاں تک کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے اچھی بات کی تھی (گستاخی نہ تھی) روایت کے اصل الفاظ یہ ہیں ”مازلت اصوم و اتصدق و اعق من الذی صنعت بومئذ مخافة کلامی الذی تکلمت به حتی اجوت بکون خیراً (سیرت خلفائے راشدین، سیر الصحابہ، ج ۱، ص: ۱۱۱)

مسلم اول کا عمر مکرم سے اسی طرح کا رد کلام ہوا کہ اس سے اول رسول اکرمؐ کا ہوا۔

عمر مکرم کو احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے سوال سوائے عملی ہے، اس لئے اس کے صلے عماد اسلام کی ادائے گی کی، صائم رہے، کئی مملوکوں کو رہائی دی اور عطا و کرم کے در کھولے کہ دل سے صدا آئی کہ وہ سوائے عملی سے دور ہوئے۔<sup>۱</sup>  
معابد کے سارے امور مکمل ہوئے، عمر مکرم مامور ہوئے کہ وہ اس معاہدے کو اسم عمر کی مہر لگا دے۔<sup>۲</sup>

رسول اکرمؐ معمورہ رسول لوٹے، راہ کے اک مرحلے آ کر رسول اکرمؐ کو اک کامل سورہ وحی کی گئی۔

ہادی کاملؑ کا عمر مکرم کو حکم ہوا کہ اے عمر! ادھر آؤ! عمر مکرم آگے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سورہ مسوع ہوئی، رسول اکرمؐ کا کلام ہوا کہ اس لمحے اس سورہ کی وحی سے ہم کمال سرور ہوئے۔<sup>۳</sup>

### اسرائیلی گروہ سے معرکہ اور عمر مکرم

وداع مکہ کو اک کم آٹھ سال ہوئے، اک اسرائیلی گروہ سے معرکہ ہوا، وہ اسرائیلی گروہ کئی محکم حصاروں کا مالک رہا، عسکر اسلام اسرائیلی حصاروں کے آگے وارد ہوا، سارے اعداء اسلام حصاروں کے کواڑ لگا کر محصور ہو رہے۔

اہل اسلام کے مسلسل حملوں سے اک محکم حصار ٹوٹا اور معمولی لڑائی سے اہل اسلام اس کے مالک ہوئے۔

۱ (سیرت خلفائے راشدین، سیر الصحابہ، ج ۱، ص ۱۱۱) ۲ حضرت عمرؓ نے بھی اس پر دستخط کئے۔ ۳ سورہ الفتح جو کہ اس

موقع پر نازل ہوئی تھی۔ ۴ (سیر الصحابہ، ج ۱، ص ۱۱۲) ۵ غزوہ خیبر (ہادی عالم، ص ۳۷۲)

دوسرے حصار کے لئے اک سحر حاکم اول کو علم عطا ہوا، دوسری سحر عمر مکرم عسکر اسلام کے علمدار ہوئے، مگر کامگاری علی کریم اللہ ہی کے حملے سے حاصل ہوئی اور اہل اسلام اس کے مالک ہوئے۔<sup>۱</sup>

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہاں کی املاک کے حصے کر کے عسکر اسلام کو دئے گئے، اک حصہ عمر مکرم کو عطا ہوا، عمر مکرم کو کمال حاصل ہوا کہ سارے لوگوں سے اول وہ حصہ اللہ کی راہ دے کر مسرور ہوئے۔<sup>۲</sup>

### معمرکہ مکہ مکرمہ اور عمر مکرم

اہل مکہ معاہدہ صلح سے روگرداں ہو گئے اور مکہ والوں کی مکروہ<sup>۳</sup> عملی سے معاہدہ صلح ٹوٹا، اس طرح معمرکہ مکہ مکرمہ کی راہ ہموار ہوئی۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ اس معمرکہ کے سارے احوال سے اعداء اسلام کو لاعلم رکھو، مگر اک ہمد<sup>۴</sup> کہ اس کے گھر والے مکہ مکرمہ ہی ٹھہرے رہے، اس کو اس امر کا احساس ہوا کہ اگر وہ اہل مکہ کو اس معمرکہ کی اطلاع کر دے گا اس کے صلے مکہ والوں کا اس کے گھر والوں سے عہدہ سلوک ہوگا، اس احساس کو لے کر معمرکہ کی اطلاع کا حامل اک مراسلہ اہل مکہ کے واسطے لکھا اور وہ مراسلہ اہل مکہ کی اک مملو کہ سارہ کو دے کر کہا کہ مکہ والوں کو دے

۱۔ (ہادی عالم) ۲۰ آنحضرت ﷺ نے خیبر کی زمین مجاہدین میں تقسیم کر دی، چنانچہ ایک ٹکڑا شیخ نامی حضرت عمر فاروقؓ کے حصے میں آیا، انہوں نے اس کو راہ خدا میں وقف کر دیا۔ اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا وقف تھا جو عمل آیا (سیر الصحابہ، ج ۱، ص: ۱۱۲) ۳۔ صلح حدیبیہ میں بنو خزاعہ آنحضرت ﷺ کے اور بنو بکر قریش مکہ کے حلیف بن گئے، صلح نامہ کی رو سے اب وہ ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے، بنو بکر کی نیت بگڑی انہوں نے بنو خزاعہ پر شیخون مارا قریش مکہ کا فرض تھا کہ وہ اپنے حلیف کو اس سے باز رکھتے، لیکن قریش مکہ نے بنو بکر کو ہتھیار فراہم کئے اور اس کی مدد کی (تاریخ اسلام، ج ۱، ص: ۲۰۵) ۴۔ حاطب بن ابی بلتہ۔



آؤ! مملوکہ سارہ وہ مراسلہ لے کر سوائے مکہ راہی ہوئی، ادھر رسول اکرمؐ کو الہام الہی سے سارے معاملے کی اطلاع ہوئی اسی دم علی کریمؑ اللہ ولد عوامؑ اور ولد اسودؑ کو حکم ہوا کہ مملوکہ کو مراسلہ کے ہمراہ محصور کر کے لاؤ!

علی کریمؑ اللہ ہر دو ہمد کے ہمراہ دوڑ کر گئے اور راہ کے اک مرحلے آس کو روک کر کھڑے ہو گئے اور مراسلہ کے لئے سوال ہوا کہ کہاں ہے؟ وہ مگر گئی۔

مگر علی کریمؑ اللہ کی دھمکی سے ڈر گئی اور وہ مراسلہ اس کے مونے سر سے ملا۔ مراسلہ اور سارہ کو لے کر علی کریمؑ اللہ، رسول اکرمؐ کے آگے آئے، رسول اکرمؐ کا حکم ہوا کہ محرر مراسلہ کولاؤ! وہ لائے گئے، رسول اکرمؐ کا اس سے سوال ہوا: کس لئے اس مکروہ عملی کے عامل ہوئے ہو؟

وہ آگے آئے اور کہا: اے رسول اللہ! مری مراد رہی کہ اس اطلاع سے اہل مکہ مسرور ہوں گے اور مرے گھر والوں سے کئے والوں کا عمدہ سلوک ہوگا۔

اس کلام کو مسموع کر کے عمر مکرّم کھول اٹھے حسام لے کر آگے آئے اور کہا: اے رسول اللہ! اگر حکم ہو کہ اس مکار کا سراڑ اداوں! رسول اکرمؐ کا کلام ہوا: اے عمر! معلوم ہے کہ وہ معرکہ اول کا مساہم ہے اور معرکہ اول والوں کے لئے کلام الہی ہے: ”کوئی عمل کرو! دارالآم سے دور رہی رہو گے۔“ رسول اکرمؐ کے حکم سے اس ہمد کو رہائی ملی۔

حضرت زبیر بن عوامؑ معقد ابن اسودؑ معروضہ جناح، آپؐ نے فرمایا تھا کہ وہ عورت تمہیں روضہ جناح میں ملے گی ٹھیک اسی مقام پر ملی۔ (تاریخ اسلام، ج ۱، ص: ۲۰۷) مع حضرت علی نے تلوار سونت کر کہا کہ خط دو، ورنہ برہنہ کر کے تلاشی لی جائیگی، اس پر اس نے اپنے جوڑے سے خط نکال کر دیا۔ (حوالہ بالا) مع حضرت عمر فاروقؓ جو کہ منافقین سے سخت نفرت کرتے تھے حاطبؓ کو منافق سمجھ کر بولے: یا رسول اللہ! اجازت دیجئے! میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔

آپؐ نے فرمایا کہ حاطبؓ بدر میں شریک ہوئے ہیں اور خبر بھی ہے کہ اہل بدر کو اللہ نے جھانک کر دیکھا ہے اور ان سے فرمایا ہے کہ تم جو چاہو عمل کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ (عہد نبوت کے ماہ سال، ص: ۲۵۳، تاریخ اسلام

وداع مکہ کو آٹھ سال ہوئے ماہ صوم کی دس کورسول اکرم کے حکم سے دس دس سو کے دس گروہ اہل اسلام کے اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے ہمراہ سوئے مکہ راہی ہوئے اور مکہ مکرمہ سے کئی مرحلے ادھراک وادی کے وسط آ کر رکے۔

مکہ والوں کا سردار، دوسرے سرداروں کے ہمراہ حصول احوال کے لئے مکہ مکرمہ سے راہی ہو کر وادی کے سرے آ کر کھڑا ہوا، رسول اکرم کے ہر کارے اور عسکر اسلامی کی رکھوالی والے ادھر آئے اور سرداروں کو محصور کر کے کھڑے ہوئے، مکے کے سردار کی صدا مسموع کر کے رسول اللہ کے عم مکرم ادھر آئے، مکے کا سردار آگے ہوا اور کہا: اے عم رسول! ہماری رہائی کا کوئی سلسلہ کرو!

عم رسول کا کلام ہوا کہ اے سردار! مرے ہمراہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم سے ملو! عم مکرم اس سردار کو سوار کر کے سوئے عسکر رواں ہوئے۔

عم مکرم عسکر کی رکھوالی کے ارادے سے ادھر آئے اور معلوم ہوا کہ عم مکرم کے ہمراہ سردار مکہ سوار ہے، حسام لے کر اس سردار کے لئے دوڑے اور کہا:

”الحمد للہ مکہ کا سردار ہمارا محصور ہے۔“

عم رسول سواری دوڑا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے آگے آئے، ادھر عم مکرم دوڑے ہوئے وہاں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم سے کہا: اے رسول اللہ! وہ مکے کا سردار ہے! الحمد للہ کسی عہد کے علاوہ ہی ہم کو حاصل ہوا ہے، اس لئے اگر حکم ہوا اس کا سراڑا دوں۔

عم مکرم آگے آئے اور کہا: مکے کے اس سردار سے مرا عہد ہے کہ وہ ہلاکی سے

۱۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

دور ہوگا۔

عمر مکرم مصر رہے کہ مکے کی سرداری کی ہلاکی کا حکم ہو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا: اے عمر مکرم! اس سردار کو ہمراہ لے کر آرام گاہ لونٹو! اگلی سحر وہ اسلام لے آئے۔<sup>۱</sup>

اگلی سحر ہوئی رسول اکرم کا حکم ہوا کہ عسکر اسلامی اس وادی سے رواں ہو! اسلام کا وہ عسکر طر اسوئے مکہ مکرمہ راہی ہوا۔

مکے والوں کا کہاں حوصلہ کہ وہ اس سے معرکہ آراء ہوں، رسول اکرم مکہ مکرمہ کی کامگاری حاصل کر کے سوئے حرم رواں ہوئے، دار اللہ کا دور کر کے دار اللہ کے در کے آگے کھڑے ہوئے اور سارے لوگوں سے ہمکلام ہوئے۔<sup>۲</sup>

اس کلام کو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم عمر مکرم کو ہمراہ لے کر اس کوہ آئے کہ وہ کلام الہی کی رو سے علم اللہ کے اسم سے موسوم ہے۔ مردوں کے کئی گروہوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم سے عہد ہوا، مگر ہر مادام کو عہد سے دور رکھا اور اس گروہ کو حکم ہوا کہ وہ عمر مکرم سے عہد کرے۔<sup>۳</sup>

### معرکہ وادی واوطاس

اس معرکہ کے ہمدموں کے گروہ کا اک علم عمر مکرم کو عطا ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ ہمدموں کے گروہ کی سرداری کا اکرام عمر مکرم کو عطا ہوا۔<sup>۴</sup>

اول اول اس معرکہ عسکر اسلام، اعداء کے حملوں سے ادھر ادھر ہوا اور رسول اکرم کے ہمراہ کوئی دس آدمی رہ گئے، ہمد مکرم، ہمد عمر علی کریم اللہ، ہمد اسامہ اور رسول اللہ صلی اللہ

۱ (ہادی عالم، ص: ۳۶۳) ۲ (ایضاً) ۳ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. (ترجمہ) بے

شک صفا اور مروہ نشانوں میں سے ہیں اللہ کی (ترجمہ شیخ الہند) ۴ (سیر الصحابہ، ج ۱، ص: ۱۱۳) ۵ غزوہ حنین۔

۶ (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۱۰۱)

علیٰ کل رسلہ وسلم کے عمر مکرم ہادی کامل کے ہمراہ رہے۔<sup>۱</sup> مال کامگاری اہل اسلام ہی کو حاصل ہوئی۔

### معمر کے عسرہ<sup>۲</sup>

اس معمر کے عمر مکرم گھر کا آدھا مال اللہ کی راہ دے کر مسرور ہوئے اور ہر ہر گام رسول اکرم صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔

اعدائے اسلام لڑائی کے حوصلے سے محروم رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم اسلامی عسکر کے ہمراہ معمورہ رسول لوٹ آئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کے رحلہ وداع<sup>۳</sup> کے لمحے عمر مکرم ہادی کامل کے ہمراہ رہے۔

### وصالِ رسول اور حالِ عمر

مکہ مکرمہ سے لوٹ کر رسول اکرم معمورہ رسول آئے اور دس محرم مجوم رہ کر دارالسلام کو راہی ہوئے۔

عمر مکرم جو اس گم کر کے حرم رسول آئے اور لوگوں سے اس طرح ہم کلام ہوئے:

”اگر کوئی کہے گا کہ رسول اکرم راہی ملک عدم ہو گئے، عمر اس کا سر

اڑا دے گا“

کسے معلوم کہ عمر مکرم کی اس سے مراد ہو کہ مکاروں کا گروہ ہر طرح کی مکروہ کاروائی سے رکا رہے۔<sup>۴</sup>

۱۔ (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۱۰۱) ۲۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر فاروق نے گھر کا آدھا سامان لا کر رکھ دیا تھا۔ ۳۔ حجۃ الوداع۔ ۴۔ شاید اس میں یہ بھی مصلحت ہو کہ منافقین کو فتنہ پردازی کا موقع نہ ملے۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۱۳)

مگر اولاد ساعدہ کے محل عالم اسلام کی سرداری کا مسئلہ کھڑا ہوا، عمر مکرّم مسلم اول کے ہمراہ وہاں گئے اور کمال عمدگی سے وہ مسئلہ حل کر کے لوٹے اور سارے لوگوں سے اول عمر مکرّم کا مسلم اول سے عہد ہوا۔

مسلم اول سواد و سال اسلام کے حاکم اول رہے، ہر اہم کام کے واسطے حاکم اول کو عمر مکرّم کی ہمراہی حاصل رہی، کلام الہی اک محل عمر مکرّم ہی کی رائے سے اکٹھا ہوا۔

عمر مکرّم، اسلام کے دوسرے حاکم

مسلم اول ساٹھ اور سہ سال کی عمر تکمل کر کے ماہ صوم سے اُسے ماہ کم دس دس اور دو کو سوموار کی سحر راہی دار السلام ہوئے اور عمر مکرّم حاکم اسلام ہوئے۔

ملک کسریٰ اور دوسرے ملکوں کی کامگاری

آگے مسطور ہوا کہ ہمدم رسول، حسام اللہ کسکر اور دوسرے حصوں کی کامگاری حاصل کر کے وائل کے سردار کو عسکر اسلام کی سالاری دے کر ملک روم کے واسطے راہی ہوئے، اس لئے ادھر کامگاری کا سلسلہ رکا۔

عمر مکرّم حاکم اسلام ہو کر اول ملک کسریٰ کی کامگاری کے واسطے ساعی ہوئے اس لئے کئی سحر اسلامی لڑائی کے واسطے لوگوں سے ہم کلام رہے، مگر لوگ آمادگی سے دور رہے۔

۱۔ ۲۲ جمادی الثانی بروز سوموار سیدنا صدیق اکبر کی وفات ہوئی۔ بے بانتقیا اور حیرہ ان پر ایران کی حکومت تھی، ان اضلاع کو خالد بن ولید فتح کر چکے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے حکم سے شعی بن حارث کو اپنا جانشین کر کے ہم شام کی اعانت کیلئے ان کو شام جانا پڑا تھا، حضرت خالد بن ولید کا جانا تھا کہ عراق کی فتوحات رک گئیں۔ (سیر الصحابہ، ج ۱، ص ۱۱۳)

۲۔ لوگ تین دن تک خاموش رہے، اس خاموشی کو مورخین نے خاص طور پر محسوس کیا اور انہوں نے اس کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے پہلے ہی دن چونکہ خالد بن ولید کی معزولی کا فرمان لکھ کر شام کے ملک کی طرف بھیجا تھا، لہذا لوگ ان سے ناخوش ہو گئے تھے اور اسی لئے ان کے آمادہ کرنے سے آمادہ نہیں ہوئے تھے یہ خیال سراسر غلط ہے، فاروق اعظم کے فرمان کی کسی نے بھی مدینہ میں ایسی مخالفت نہیں کی (بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر ملاحظہ ہو۔)

اک سحر کمال عمدہ کلامی کی، اس سے اہل اسلام کے دل اسلامی لڑائی کے اکرام سے معمور ہوئے، سارے لوگوں سے اول ولد مسعود کھڑے ہوئے اور کہا کہ وہ مہم ملک کسریٰ کے واسطے آمادہ ہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) کہ اس کا حال عام لوگوں کو معلوم ہوا ہو، اگر واقعی فاروق اعظمؓ سے لوگ مدینہ میں ناخوش ہو گئے تھے تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، اس کا ذکر خاص الخاص طور پر مورخین کو لکھنا پڑتا اور اسی ناراضی کے دور ہونے کے اسباب بھی بیان کرنے ضروری تھے یہ ایک ایسا غلط خیال ہے کہ اصحاب نبویؐ کی شان میں بہت بڑی گستاخی لازم آتی ہے، وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ کسی اختلاف رائے کی بناء پر ترغیب جہاد کی تحقیر کرتے۔ بات صرف یہ تھی کہ جہاد کیلئے سب تیار تھے مگر ذمہ داری لینے یا بیڑا اٹھانے میں متائل اور ایک دوسرے شخص کے منتظر تھے، ان میں ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ بزرگ اور مجھ سے زیادہ قابل عزت لوگ موجود ہیں، وہ جواب دیں گے، اسی طرح ہر ایک شخص دوسرے کا منتظر تھا بعض اوقات اس قسم کی گرہ بڑے بڑے مجموعوں میں لگ جایا کرتی ہے اور ہم اپنے زمانے میں بھی اس قسم کی مثالیں دیکھتے رہتے ہیں یہ انسانی فطرت کا خاصہ معلوم ہوتا ہے، اسی لئے اعمال نیک، خیرات و صدقات کے متعلق ایک طرف سے بچنے کیلئے چھپانے کی ترغیب ہے تو دوسری طرق اعلانیہ بھی ان نیک کاموں کے کرنے کا حکم ہے تاکہ دوسروں کو تحریض و جرأت ہو اور خاموشی کی کوئی گرہ نہ لگنے پائے۔ فاروق اعظمؓ نے اگر اپنی خلافت کے پہلے ہی دن حضرت خالد بن ولیدؓ کی معزولی کا حکم لکھا تھا تو جہاد کی ترغیب تو انہوں نے بیعت خلافت لینے کے بعد ہی پہلی تقریر اور پہلی ہی مجلس میں دی تھی اس تقریر اور ترغیب کے بعد ہی انہوں نے خالد بن ولیدؓ کی معزولی کا پیغام لکھوایا ہوگا، پس سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پہلی ترغیب کا جواب مجمع کی طرف سے کیوں نہ ملا؟ بات یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی استاد اپنے شاگردوں کو مدرسے کے کمرے میں حکم دیتا ہے کہ تختہ سیاہ کو کپڑے سے صاف کر دو یا نقشے کو پلیٹ دو، مگر اس کے اس حکم کی کوئی طالب علم تعمیل نہیں کرتا، اس کا یہ سبب نہیں ہوتا ہے کہ استاد کے حکم کی تعمیل کو شاگرد ضرور نہیں سمجھتے، بلکہ تعمیل نہ ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ استاد نے سارے کے سارے شاگردوں کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا تھا جب وہی استاد کسی ایک یا شاگردوں کا نام لے کر یہی حکم دیتا ہے تو فوراً اس حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ بہر حال لوگوں کے مجمع کا تین دن خاموش رہنا خواہ کسی سبب سے ہو مگر یہ سبب تو ہرگز نہ تھا کہ وہ خالد بن ولیدؓ کی معزولی سے ناراض تھے، کیونکہ خود مدینہ منورہ میں انصار کی ایک بڑی جماعت ایسی موجود تھی جو خالد بن ولیدؓ کو مالک بن نویرہ کے معاملے میں قابل مواخذہ یقین کرتی تھی، اگر اور لوگ ناراض تھے تو وہ جماعت تو فاروق اعظمؓ سے خوش ہوگی، ان لوگوں کو کسی چیز نے خاموش رکھا؟ (تاریخ اسلام جلد ۱ ص ۳۱۴)

(حاشیہ صفحہ ۱۴۱) ابو عبید بن مسعود ثقفیؓ یہ قبیلہ ثقفین کے سردار تھے۔ (ایضاً ص: ۳۱۴)

اسی طرح سعد کھڑے ہوئے اور دم کے دم دوسو کا عسکر لڑائی کے واسطے آمادہ ہوا۔  
 عمر کرم کے حکم سے ولد مسعود اس عسکر کے سالار ہوئے، وہ عسکر اسلام کو لے کر ہم ملک کسریٰ کے  
 واسطے راہی ہوئے، وائل کا مسلم سردار اس عسکر کے ہمراہ رہا۔<sup>۱</sup>

آگے مسطور ہوا کہ حاکم اول کے دور کو ملک کسریٰ کے لوگوں سے اک لڑائی ہوئی اس  
 لڑائی سے ادھر کے لوگ اہل اسلام کے عدد ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کم عمر حاکم<sup>۲</sup> کسریٰ کی دائی  
 ماں<sup>۳</sup> کہ ملکی کاموں کے واسطے سر کردہ رہی اس کے حکم سے اک مرد حوصلہ<sup>۴</sup> ور، عسکر کا سالار اعلیٰ  
 ہوا۔ اسی سالار اعلیٰ کی سعی سے اہل اسلام مملوکہ حصوں سے محروم ہو گئے۔ کسریٰ کی دائی ماں کے  
 حکم سے اک اور عسکر طرار اس سالار اعلیٰ کی مدد کے واسطے آمادہ ہوا، اس عسکر کے دو حصے کر کے  
 دوسر داروں<sup>۵</sup> کے حوالے ہوئے ہر دو الگ الگ راہ<sup>۶</sup> لے کر اہل اسلام سے معرکہ آرائی کے واسطے  
 راہی ہوئے اور ”رودرد“ ہو کر معرکہ آراء ہوئے، عسکر اسلام ڈٹ کر لڑا، عسکر کسریٰ ہار کر  
 دوڑا، اسی طرح دوسرے عسکر کا حال ہوا، وہ دوسری راہ<sup>۷</sup> سے آ کر اہل اسلام سے معرکہ آراء  
 ہو کر رسوا ہوا، اس سے ارد گرد کے سارے رؤسا محکوم ہو گئے۔

۱۔ سعد بن عبید النزاری ان کے بعد سلیمان بن قیس<sup>۸</sup> کھڑے ہوئے۔ شیخی پہلے اسلامی لشکر کے سردار تھے، لیکن اب وہ  
 ابو عبید بن مسعود ثقفی<sup>۹</sup> کی ماتحتی میں روانہ ہوئے۔ (تاریخ اسلام، ج ۱، ص: ۳۱۷) سع یزدگرد، اس کی عمر سولہ سال تھی۔

۲۔ یزدگرد کی متولیہ پوران رخت یہ کسریٰ کی جگہ ملکی انتظامات کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ (سیر الصحابہ، ج ۱، ص: ۱۱۶)  
 ۳۔ رستم جو کہ نہایت شجاع اور مدبر آدمی تھا، پوران رخت نے اس کو بلوا کر وزیر جنگ بنا دیا۔

۴۔ رستم نے ابو عبید<sup>۱۰</sup> کے پہنچنے سے پہلے ہی اضلاع فرات میں غدر کروا دیا اور جو مقامات مسلمانوں کے قبضے میں  
 آچکے تھے وہ ان کے قبضے سے نکل گئے۔

۵۔ نرسی اور جابان۔ ۶۔ نمازق، جابان کی فوج نمازق پہنچ کر ابو عبید<sup>۱۱</sup> سے برسر پیکار ہوئی اور بری طرح شکست کھا کر بھاگی۔  
 ۷۔ ایرانی فوج کا دوسرا سردار نرسی سقاپیہ کے کی طرف سے آیا ابو عبید<sup>۱۲</sup> نے آگے بڑھان سے معرکہ آراء ہوئے

اور ایرانیوں کو شکست سے دوچار کیا۔ (سیر الصحابہ، ج ۱، ص: ۱۱۶)

عسکر کسریٰ کے سالار اعلیٰ کو اس حال کی اطلاع ہوئی، اس کے حکم سے دس دس سو کے دو اور دو گروہ اکٹھے ہو کر عسکر اسلام سے معرکہ آرائی کے واسطے راہی ہوئے۔

اسلامی عسکر کے سالار اعلیٰ ولد مسعود کو اس حال کی اطلاع ملی، اس کا ارادہ ہوا کہ عسکر اسلام کو لے کر ماہِ رواں کے ادھر لڑائی کرے، عسکر کے سرکردہ لوگ آڑے آئے اور کہا کہ ماہِ رواں کے ادھر ہی معرکہ آرائی ہو، مگر ولد مسعود عسکر کو ہمراہ لے کر ماہِ رواں کے ادھر گئے اور اعداء اسلام سے معرکہ آراء ہوئے۔

اس معرکہ کے اہل اسلام کو کمال دھکا لگا، عسکر اسلام کے ساتھ سو آدمی کام آئے، اس اطلاع سے عمر مکرّم کو کمال دکھ ہوا، وہ اٹھے اور سارے ملک کے لوگوں کو ملک کسریٰ کی مہم کے واسطے لاکارا، عمر مکرّم کی عمدہ کلامی سے ہر مسلک کے لوگ لڑائی کے واسطے آمادہ ہوئے۔ روح اللہ رسول ﷺ کے حامی لوگوں کے سردار عمر مکرّم کے آگے آئے اور کہا کہ وہ لڑائی دوا ہم گروہوں کی ہے، اس لئے ہمارا ہر آدمی اہل اسلام کے ہمراہ لے کر عسکر کسریٰ سے معرکہ آرائی کے واسطے آمادہ ہے۔

الحی صل اک عسکر طرار اکٹھا ہوا، والد عمر کے کو اس عسکر کا سالار طے کر کے عمر مکرّم کا حکم

۱۔ نزی اور جابان کی ہزیمت کا سن کر رستم نے مردان شاہ کو چار ہزار کی جمعیت کے ساتھ ابو عبیدہ کے مقابلہ میں روانہ کیا۔

۲۔ جاری پانی۔ فرات۔ ۳۔ ابو عبیدہ نے فوجی افسروں کے اختلافات کے باوجود فرات سے پار اتر کر نقیم سے خبرد آزمانی کی، کیونکہ اس پار کا میدان تنگ اور ناتما ہوا تھا نیز عربی دلاورں کیلئے ایران کے کوہ پیکر ہاتھیوں سے یہ پہلا مقابلہ تھا، اس لئے مسلمانوں کو سخت نقصان ہوا، نو ہزار فوج میں سے صرف تین ہزار فوج بچی رہے چھ ہزار۔ ۵۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عمرو تغلب کے سرداروں نے جو مذہباً عیسائی تھے، اپنے قبائل کے ہمراہ مسلمانوں کے ساتھ شرکت کی اور کہا کہ آج

عرب و عجم کا مقابلہ ہے، اس قومی معرکہ میں ہم بھی قوم کے ساتھ ہیں۔ (ایضاً: ص: ۱۱۷)

۶۔ حضرت جریر بن عبداللہ الجعفی ان کی کنیت ابو عمر تھی۔ (صحابہ کرام کا انسائیکلو پیڈیا، ص: ۷۰۳)



ہوا کہ عسکر اسلام کو لے کر معرکہ گاہ کو رواں ہوا!

ادھر وائل کے سردار کی سعی سے سرحدی لوگوں کا اک عسکر اس معرکہ کے واسطے آمادہ ہوا۔

کسریٰ کی دائی ماں کو عسکر اسلام کا حال معلوم ہوا، وہ اٹھی اور اہم عسکر سے دس دس سو کے دس اور دو گروہ لے کر گمراہ سردار کے ہمراہ اہل اسلام سے معرکہ آرائی کے واسطے رواں گئے۔

راہ کے اک مرحلے اعدائے اسلام، عسکر اسلام سے معرکہ آراء ہو کر رسوا ہوئے۔ گمراہوں کا سردار ہلاک ہو کر رہی دارالآلام ہوا۔ وائل کا سردار گمراہوں کی راہ روک کر کھڑا ہوا اور لاصحدود گمراہوں کو مارا۔ عسکر اسلام کو کامگاری ملی اور عسکر اسلام ملک کسریٰ کے اہم حصہ کو راہی ہوا۔ سردار وائل آگے ہو کر اس محل حملہ آور ہوا کہ لوگ وہاں سوداگری کے واسطے اکٹھے ہوئے، اس حملے سے لوگ ڈر کر دوڑے، سارا مال اہل اسلام کو ملا، اسی طرح سورا، کسکر اور دوسرے کئی حصوں کے اہل اسلام مالک ہوئے اور وہاں اسلامی علم پھرائے گئے۔

اہل کسریٰ اس حال کو معلوم کر کے دل مسوس کر رہ گئے، کسریٰ کی دائی ماں ملکی کاموں سے ہٹائی گئی اور سارا ملک سولہ سالہ لڑکے کے حوالے ہوا، ملک کے سرکردہ لوگ اکٹھے ہوئے اور اہل اسلام سے معرکہ آرائی کے واسطے عہد ہوا، سارے حصار اور عسکر گاہ محکم کئے گئے۔ ہر آدمی سرگرم ہوا کہ اہل اسلام کے مملوکہ حصوں کے لوگوں کو اہل اسلام سے روگردان کرے اور اہل اسلام مملوکہ حصوں سے محروم ہوں۔

اس سرگرمی سے سارا ملک کسریٰ دمک اٹھا، اہل اسلام کئی مملوکہ حصوں سے محروم

۱۔ پوران رخت نے ان تیاریوں کا حال سناتو اپنی فوج خاصہ سے بارہ ہزار جنگ آزمابہا و منتخب کر کے مہران بن مہرودیہ کے ساتھ مجاہدین کے مقابلے کے لئے روانہ کئے۔ (سیر الصحاب، ج ۱، ص: ۱۱۷) مہران ابن مہرودیہ۔ حجرات اور فلاح وغیرہ۔ ص: باغی۔

ہو گئے۔ سردار وائل طوعاً و کرہاً سمٹ کر اسلامی سرحدوں کو آگے اور آگے لڑنے والوں کو اکٹھا کر کے سارے احوال کی اطلاع عمر مکرم کو ارسال کی۔

اہل کسری کی سرگرمی کا حال معلوم کر کے عمر مکرم کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے ماموں، سعدؓ کو دس دس سو کے دو اور اٹھارہ گروہ دے کر حکم ہوا کہ وہ مہم ملک کسری کو سر کر کے آئے! راہ اور مراحل راہ، عمر مکرم ہی کے طے کردہ رہے۔

ہمد سعد کا عسکر کئی طرح سے اہم رہا، اس لئے کہ اس عسکر کے ہمراہ دس کم اسی آدمی معرکہ اولیٰ والے اور سہ سواہل سمرہ اور سہ سو معرکہ مکہ مکرمہ والے اور اک کم آٹھ سو وہ لوگ رہے کہ وہ ہمدوں اور مددگاروں کی اولاد ہے۔

ہمد سعد عسکر کو لے کر راہی ہوئے اور اٹھارہ مراحل طے کر کے اک محل آ کر ٹھہرے اور اک عرصہ رک کر آگے رواں ہو گئے۔

سردار وائل اک محل اسی سو لوگوں کے عسکر کے ہمراہ سعد مکرم کے واسطے کھڑے رہے، مگر اس سے اول کہ سعد ادھر آئے، سردار وائل کالجہ موعود آگے و لد حصامہ کو عسکر کا سالار طے کر کے اور ولد ام بن کو معرکہ آرائی کے اطوار کہہ کر راہی ملک عدم ہوئے۔

سردار وائل کے و لدام عسکر کے ہمراہ ادھر آ کر سعد سے ملے اور سردار وائل کا کلام کہا اور اسی محل سردار وائل اور سعد کے عسکر اک دوسرے سے مل گئے اور اسلامی عسکر کا عدد سوا ہوا۔

۱۔ شعی مجبور ہو کر عرب کی سرحد میں ہٹ آئے اور ربیعہ اور مضر کے قبائل کو جو اطراف عراق میں پھیلے ہوئے تھے، ایک تاریخ معین تک اسلامی علم کے نیچے جمع ہونے کیلئے طلب کیا۔ (سیر الصحاب، ج ۱، ص ۱۱۸) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۲۰ میں ہزار سے غزہ بدر ۵۰ بیعت رضوان بیکر کے درخت کے نیچے ہوئی تھی۔ ۱۔ مقام ثقلبہ آ کر رہے اور سیراف کو رواں ہوئے۔ ۲۔ موضع ذی قار۔ ۳۔ آٹھ ہزار۔ ۴۔ بشیر بن حصامہ۔ ۵۔ شعی کے بھائی مغنی بن حارثہ شیبانی۔ ۶۔ لشکر اسلام کی تعداد بیس اور تیس ہزار کے درمیان تھی۔ (ایضاً)

اسی محل ہدم سعد کو عمر مکرم کا حکم ملا کہ ادھر کے سارے احوال لکھ کر ہم کو ارسال کرو! اس لئے سارے احوال لکھ کر ارسال کئے گئے۔

احوال کا مطالعہ کر کے عمر مکرم کا ہدم سعد کو حکم<sup>۱</sup> ہوا کہ معرکہ آرائی کے واسطے اس طرح کے محل آ کر ٹھہرو کہ ادھر ملک کسریٰ ہو اور ادھر ہمارے کہسار۔ اگر کامگار ہوئے آگے ہو کر اور حملے کرو اور اگر معاملہ الٹا ہو، سوئے کہسار لوٹ آؤ اور اکٹھے ہو کر دہرا حملہ کرو! ہدم سعد اس حکم کے عامل ہوئے اور اسی طرح کے اک محل آ کر دو ماہ ٹھہرے رہے۔<sup>۲</sup> حصول رسد کے لئے ادھر ادھر کے گاؤں آ کر حملہ آور رہے۔<sup>۳</sup>

ادھر کے لوگ کسریٰ کے آگے گئے اور سارا حال کہا اور کہا کہ دوڑ کر اہل اسلام کو روکو اور اگر معاملہ اسی طرح رہا، ہم اہل اسلام کے مخلوم ہوں گے۔ اس اطلاع کو لے کر کسریٰ کا سارا اعلیٰ کو حکم ہوا کہ دوڑ کر عسکر اسلام کو اس لوٹ کھسوٹ سے روکو اور عسکر اسلام کو ہلاک کر کے ہی لوٹو!

کسریٰ کا سالار اعلیٰ سامعی رہا کہ اک اک کر کے دوسرے سرداروں کو لڑائی کے واسطے رواں کرے اور اس سلسلے کو طول دے، مگر حاکم کسریٰ کا دہرا حکم ہوا کہ دوڑ کر معرکہ آرائی کرو! اس حکم کو لے کر کسریٰ کا سالار اعلیٰ طوعاً و کرہاً رواں ہوا اور راہ کے اک مرحلے آ کر ٹھہرا، ملک کے ہر حصے سے لوگ آ کر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے اور اس کے عسکری آدھا لاکھ کم دو لاکھ ہو گئے۔<sup>۴</sup>

۱۔ فاروق اعظم کا فرمان ان کے نام پہنچا کہ ”قادسیہ کی طرف بڑھو اور قادسیہ پہنچ کر اپنے مورچے ایسے مقام پر قائم کرو کہ تمہارے آگے فارس کی زمین ہو اور تمہارے پیچھے عرب کے پہاڑ ہوں، اگر اللہ تعالیٰ تم کو فتح نصیب کرے تو جس قدر چاہے آگے بڑھتے جاؤ، لیکن خدا نخواستہ معاملہ برعکس ہو تو پہاڑ پر آ کر ٹھہرو اور پھر خوب چوس کر ہو کر حملہ کرو۔ (تاریخ اسلام، ج ۱، ص: ۳۳۰) ۲۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیراف سے کوچ کر کے قادسیہ آ کر ٹھہرے اور دو ماہ تک ایرانی لشکر کا انتظار کیا۔ (ایضاً) ۳۔ لشکر اسلام کو جب سامان رسد کی ضرورت ہوتی تو ایرانی علاقوں پر مختلف دستے چھاپے مارتے اور ضروری سامان حاصل کرتے (ایضاً) ۴۔ قادسیہ کے متصل علاقوں کے لوگ دربار کسریٰ میں شاکہ بن یحییٰ شریع ہو گئے کہ جلد کچھ تدارک ہونا چاہئے ورنہ ہم مجبوراً عربوں کی فرمان روی اختیار کر لیں گے (ایضاً) ۵۔ (ایضاً)

ہمد سعدؑ کے حکم سے سارے احوال کی اطلاع عمر مکرم کو دی گئی۔ عمر مکرم کا رد کلام ہوا کہ کسری کے نڈی دل کے ڈر کو دل سے دور رکھو اور اللہ سے آس رکھو اور اللہ ہی سے مدد حاصل کرو اور ہاں لڑائی سے آگے اک گروہ کو حکم دو کہ وہ کسری سے ملے اور اسلام کا حکم کرے!

اس حکم کو لے کر ہمد سعد کھڑے ہوئے اور اس کے حکم سے عسکر اسلام سے اہل رائے، ماہر، عمدہ کلام والے اور حوصلہ ور لوگوں کا اک گروہ اس کام کے واسطے مامور ہوا۔

وہ گروہ آ کر کسری سے ملا۔ کسری کا گروہ اسلام سے مکالمہ ہوا، اہل اسلام کی عمدہ کلامی اور حوصلہ وری کا مطالعہ کر کے کسری کے دل کی آگ دھک اٹھی اور اس کا ارادہ ہوا کہ سارے گروہ کو ہلاک کر دے، مگر اس کا کلام ہوا کہ رسولوںؐ کی ہلاکی سے سارے ملوک سدا دور

۱۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار خلافت میں ایرانیوں کی جنگی تیاریوں اور نقل و حرکت کے حالات بھیجے فاروق اعظمؓ نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو لکھا کہ تم ایرانیوں کی کثرت انواج اور ساز و سامان کی فراوانی دیکھ کر مطلق خائف و مضطرب ہو، بلکہ خدائے تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اور خدائے تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتے رہو اور قبل از جنگ چند آدمیوں کی ایک سفارت یزدجرد، شاہ ایران کے پاس بھیجتا کہ وہ دربار ایران میں جا کر دعوت اسلام کے فرض سے سبکدوش ہوں۔ (تاریخ اسلام، ج ۱، ص: ۳۳۱) ۲۔ اس اسلامی سفارت میں مندرجہ ذیل حضرات شامل تھے: نعمان بن مقرن، قیس بن زرارہ، اشعث بن قیس، فرات بن حبان، عاصم بن عمر، عمر بن معد کیرب، ہمیرہ بن شعبہ، مغنی بن حارثہ، عطارد بن حاجب، بشیر بن ابی رہم، حنظلہ بن الریح، عدی بن سہل، (ایضاً) ۳۔ کسری نے پوچھا تم لوگوں کو ہمارے مقابلے میں جرأت کیسے ہوئی؟ کیا تم بھول گئے کہ تمہاری قوم دنیا کی ذلیل و احق قوم تھی اور تمہاری سرکشی کو ہمارے سرحدوں کے عامل ٹھیک کرتے تھے؟ یہ سن کر نعمان بن مقرن نے جواب دیا کہ ہم دنیا سے بت پرستی اور شرک کو مٹاتے ہیں اور تمام دنیا کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں، اسلام ہی کے ذریعے انسان سعادت انسانی حاصل کر سکتا ہے، اگر کوئی اسلام نہ لائے تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی حفاظت میں سپرد کر دے اور جزیہ ادا کرے وگرنہ اس کے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ (تاریخ اسلام، ج ۱، ص: ۳۳۲) ۴۔ سفراء۔

رہے، اس لئے دور ہوں، مگر اس کا حکم ہوا کہ اک ٹوکری مٹی لاؤ اور اس گروہ کے سردار کے سر رکھ کر ہماری درگاہ سے دور کر دو! مٹی لائی گئی، ہمد عاصم کھڑے ہوئے اور مٹی کی ٹوکری اٹھا کر کہا کہ: ”وہی اس گروہ کا سردار ہے۔“

مٹی لے کر سارے لوگ ہمد سعد کے آگے آئے اور کہا کہ اللہ کی عطا سے ہم کو ملک کسریٰ کی مٹی ملی ہے، ہم کو ملک کسریٰ کی کامگاری ملے گی۔

اس کلام سے ہمد سعد کمال مسرور ہوئے ادھر کسریٰ کے سالار اعلیٰ کو کسریٰ سے کئی کمکی سردار ملے اور حکم ہوا کہ دوڑ کر اہل اسلام سے معرکہ آرائی کرو، مگر کسریٰ کا سالار اعلیٰ اک عرصہ ٹال مٹول کر کے معرکہ آرائی سے دور رہا اس کا ارادہ ہوا کہ کسی طرح لڑائی ملے، اس لئے اہل اسلام کے ٹھہراؤ والے محل آ کر ہمد سعد کو اطلاع دی کہ اہل اسلام کا کوئی آدمی ہمارے آگے آئے کہ صلح کا معاملہ ملے ہو۔ ہمد سعد کے حکم سے ہمد ولد عامر کسریٰ کے سالار اعلیٰ کے آگے گئے اور اس سے مکالمہ کرے لوٹے۔ اگلی سحر دہرا کر ہمد سعد کو اطلاع ملی کہ کوئی آدمی ارسال کرو! ہمد

حضرت سعدؓ اس فال سے بہت خوش ہوئے۔ رستم لڑائی کو نانا چاہتا تھا، اس لئے اس نے مدائن سے قادیسیہ تک پہنچنے میں چھ ماہ صرف کر دیئے۔ اس نے رستم مقام تھقین آ کر ٹھہرا اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے پاس پیغام بھیجا کہ تم اپنے کسی سفیر کو ہمارے پاس بھیج دو تاکہ ہم اس سے مصالحت کی گفتگو کریں۔ حضرت ربیع بن عامرؓ، رستم کے پاس سفیر بن کر گئے، رستم نے پر تکلف دربار جایا تاکہ صحابی رسولؐ کا دل خوفزدہ ہو، مگر حضرت ربیع بن عامرؓ اس شان و شوکت والے دربار میں داخل ہوئے اور گھوڑے کو اک گاؤ تکیبے سے جو کہ بفرش پڑا تھا باندھ کر تیر کی انی نکلتے ہوئے اور رومی قابینوں والے فرش کو چاک و سوراخ دار بنائے ہوئے، رستم کے سونے کے تخت کی طرف بڑھے اور اس کے برابر جا بیٹھے، لوگ آڑے آئے کہ کسی طرح حضرت ربیعؓ کو نیچے اتاریں، حضرت ربیعؓ نے فرمایا کہ میں آیا نہیں، بلایا گیا ہوں اور ہمارے مذہب میں اس کی سخت ممانعت ہے کہ کوئی شخص خدا بن بیٹھے اور دوسرے لوگ غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑے ہوں، رستم نے اپنے آدمیوں کو روک دیا، مگر کچھ سوچ کر ربیعؓ خود اٹھے اور تخت سے اتر کر خنجر سے زمین پر بیچھے ہوئے قابین اور فرش کو چاک کر کے نیچے سے خالی زمین نکال کر اس پر بیٹھ گئے اور رستم سے مخاطب ہو کر کہا: ہم کو تمہارے اس پر تکلف فرش کی ضرورت نہیں، ہمارے لئے خدا تعالیٰ (بتیسے حاشیہ اگلے صفحے پر)

سعد کا اک دوسرے ہمد کو حکم ہوا، وہ گئے اور کسریٰ کے سالار اعلیٰ سے ملے، سالار اعلیٰ کا سوال ہوا کہ کل والا آدمی کہاں ہے؟ کہا: ہمارا سردار عادل ہے، کل اک کو اس کام کا اکرام ملا اور اس سحر دوسرے کو۔ سالار اعلیٰ کا اس ہمد سے اسی طرح کا مکالمہ ہوا اور وہ لوٹ آئے۔

(حاشیہ صفحہ گذشتہ) کا بچھا ہوا فرس یعنی زمین کافی ہے، اس کے بعد ترجمان کے ذریعے رستم نے حضرت ربیعؑ سے سوال کیا کہ اس جنگ و پیکار سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ حضرت ربیعؑ نے جواب دیا کہ ہم خدا تعالیٰ کے بندوں کو دنیا کی تنگی سے دار آخرت کی وسعت میں لانا ظلم اور مذہب باطلہ کی جگہ عدل و انصاف اور اسلام کی اشاعت چاہتے ہیں جو شخص عدل اور اسلام پر قائم ہو جائے گا، ہم اس سے اور اس کے ملک و اموال سے معترض نہ ہونگے، جو شخص ہمارے راستے میں حائل ہوگا، ہم اس سے لڑیں گے یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائیں گے یا فتح مند ہونگے، اگر تم جزیہ دینا منظور کرو گے تو ہم اس کو قبول کریں گے اور تم سے معترض نہ ہونگے اور جب کبھی تم کو ہماری ضرورت ہوگی تمہاری مدد کو موجود ہوں گے اور تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے، اس کے بعد رستم نے حضرت ربیعؑ سے سوال کیا کہ تم مسلمانوں کے سردار ہو، حضرت ربیعؑ نے فرمایا کہ نہیں، میں ایک معمولی سپاہی ہوں، لیکن ہم میں ہر شخص خواہ ادنیٰ ہو اعلیٰ کی طرف سے اجازت دے سکتا ہے، یہ سن کر رستم اور اس کے درباری دنگ رہ گئے، پھر رستم بولا تمہاری تلوار کا پیام بہت بوسیدہ ہے، حضرت ربیعؑ نے فوراً تلوار پیام سے کھینچ کر کہا کہ اس پر آب ابھی دکھائی گئی ہے، پھر رستم نے کہا تمہارے نیزے کا پھل بہت چھوٹا ہے یہ لڑائی میں کیا کام دیتا ہوگا؟ حضرت ربیعؑ نے فرمایا کہ پھل سیدھا دشمن کے سینے کو چھیدا تو پورا ہو جاتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آگ کی چھوٹی سی چنگاری سارے شہر کو جلا ڈالنے کیلئے کافی ہوتی ہے؟ اسی قسم کی نوک جھوک کی باتوں کے بعد رستم نے کہا اچھا ہم تمہاری باتوں پر غور کر لیں۔ حضرت ربیعؑ وہاں سے واپس آ گئے۔ (ایضاً ص: ۳۳۴)

(حاشیہ صفحہ ۱۱۱) حضرت حذیفہ بن یحصن۔ ۲ حضرت حذیفہؑ اسی انداز اور آزادانہ روش سے گئے جیسے کہ حضرت ربیعؑ گزشتہ روز گئے تھے، حضرت حذیفہؑ رستم کے سامنے پہنچ کر گھوڑے سے نہ اترے بلکہ گھوڑے پر چڑھے ہوئے اس کے تحت کے قریب پہنچ گئے، رستم نے پوچھا: کیا سبب ہے آج تم آئے ہو وہ کل والے صاحب کیوں نہیں آئے؟ حضرت حذیفہؑ نے کہا کہ ہمارا سردار عادل ہے ہر خدمت کیلئے ہر ایک شخص کو موقع دیتا ہے، کل اس کی باری تھی آج میری باری آگئی، رستم نے کہا تم ہم کو کتنے دن کی مہلت دے سکتے ہو؟ حضرت حذیفہؑ نے فرمایا کہ آج سے تین روز تک کی۔ رستم یہ سن کر خاموش ہوا، حضرت حذیفہؑ گھوڑے کی باگ موڑ کر سیدھے اسلامی لشکر گاہ کی طرف روانہ ہوئے اور سارا دربار حضرت حذیفہؑ کی بے باکی اور حاضر جوابی دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا۔

اس سے اگلی سحر دہرا کر اسی طرح ہوا، اک اور ہمدلم سالار اعلیٰ کے آگے گئے، کسریٰ کا سالار ساعی ہوا کہ ہمد کوماں دے کر اسلام سے دور کرے اور دھسکی دی، مگر ہمد رسول کا کڑا کلام ہوا، سالار اعلیٰ اور سارے گمراہ دل موسوں کر رہ گئے، کسریٰ کا سالار اعلیٰ اٹھا اور عالم کے مہرے سے عہد کر کے کہا:

”سارے عسکر اسلام کو ہلاک کر کے ہی دم لوں گا۔“

### کالی سواری والا معرکہ

اس طرح کا کلام کر کے کسریٰ کے سالار اعلیٰ کا عسکر کو حکم ہوا کہ کل لڑائی ہوگی، آمادہ

رہو!

اگلی سحر کسریٰ کا ٹنڈی دل عسکر مسلح ہو کر اہل اسلام کے آگے آکھڑا ہوا۔ اس عسکر کے آگے کالی سواری کا وہ عسکر رہا کہ اس کے اسم سے کلام اللہ کی اک سورہ موسوم ہے۔<sup>۱</sup>

ادھر اہل اسلام کا معدود عسکر معرکہ گاہ آ کر عدو کے آگے کھڑا ہوا اور لڑائی کی رسم کی رو سے اول اول گمراہوں کے کئی لوگ عسکر سے آگے آئے اور لڑائی کے واسطے لاکار دی۔

اسلامی عسکر سے اک اک کر کے کئی آدمی گئے اور گمراہوں کو محصور کر کے لائے۔<sup>۲</sup>

۱۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ (ایضاً: ص: ۳۳۵) ۲۔ حضرت مغیرہ کے نہایت سخت اور مقتول جواب پرستم کو قصہ آیا اور کہا: آفتاب کی قسم میں تمام عربوں کو ویران کر دوں گا۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۱۹) ۳۔ ہاتھی۔ کلام پاک کی اک سورت کا نام سورہ فیل ہے۔ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ ۴۔ جنگ قادسیہ۔ اس لڑائی میں ایرانیوں کے پاس تین سو ہاتھی تھے، اس لئے اس کو کالی سواری والا معرکہ کہا گیا۔ ۵۔ اسلامی لشکر میں سے تیس ہزار کے درمیان تھا۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۲۹) ۶۔ سب سے پہلے لشکر ایران کی طرف سے ہرمز نامی ایک شہزادہ میدان میں نکلا جو زریں تاج پہنے ہوئے تھا اور ایران کے مشہور پہلوانوں میں شمار ہوتا تھا، اس کے مقابلے کیلئے حضرت غالب بن عبد اللہ اسدیؓ لشکر سے نکلے، حضرت غالب نے میدان میں جاتے ہی ہرمز کو گرفتار کر لیا اور لا کر حضرت سعدؓ کے سپرد کر گئے۔ اس کے بعد وہ اور بہادر نکلے، ان کا بھی یہی حال ہوا۔ (ایضاً: ص: ۳۳۶)

اس حال کا مطالعہ کر کے کسری کے سالار اعلیٰ کا عسکر کو حکم ہوا کہ عام حملہ کرو! اس طرح معرکہ عام کا سلسلہ ہوا، ادھر سے اللہ والے ”اللہ احد“ کی صدا لگا کر آگے آئے اور ہر دو گروہ اک دوسرے سے ٹکرائے، اس عرصے ہمد سعد کے اک درد اٹھا، وہ اس سے محروم ہوئے کہ اٹھ کر سوار ہوں اور معرکہ گاہ وارد ہوں، اس لئے وہ معرکہ گاہ کے سرے اک ٹوٹے گھر کے عالی حصے آ کر رہے اور ادھر ہی سے عسکر اسلام کی اہم اہم صلاحوں سے مدد کی۔

اعدائے اسلام کا کالا عسکر آگے رہا، اس کے حملوں سے کئی مسلم کھائل ہو کر گرے اور کئی اللہ کے گھر کو سدھا رہے (ہم ساروں کا اللہ کا مالک ہے اور ہمارا ہر آدمی اللہ کے گھر لوٹے گا)۔<sup>۲</sup>

اسلامی سپہام کاروں کے واسطے ہمد سعد کا حکم ہوا کہ عدو کے کالے عسکر کو سپہام کاری سے گھائل کر کے روکو! ہمد عاصم اور کئی دوسرے سپہام کار کالے عسکر کے آگے آ کر حملہ آور ہوئے اور اس طرح سپہام کاری کی کہ کالا عسکر اور اس کے سوار ادھر ادھر ہٹ گئے۔<sup>۳</sup>

مہر عالم مدہم ہوا، سحر مکمل ہوئی مگر کامل کامگاری سے ہر عسکر ہی محروم رہا اور اس سحری لڑائی اک اسم سے موسوم ہوئی۔<sup>۴</sup>

۱۔ سپہ سالار لشکر اسلامی حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے ذہل نکل رہے تھے اور عرق النساء کے درد کی بھی آپؓ کو شکایت تھی، بلذات گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے اور نہ چل پھر سکتے تھے، اسلامی لشکر گاہ کے ایک سرے پر اک پرانے زمانے کی پختہ عمارت کھڑی تھی، حضرت سعدؓ خود اس عمارت کی چھت پر گاؤتکیہ لگا کر بیٹھ گئے اور اپنی جگہ میدان جنگ کا سردار حضرت خالد بن عرفطہؓ کو تجویز کیا، اور لڑائی کے نقشے اور اہم تغیر و تبدیل کو اپنے ہاتھ میں ہی رکھا یعنی برابر حضرت خالدؓ کے پاس حدایات روانہ کرتے رہے۔ ۲۔ یہ انالسہ وانالسہ راجعون کا مہوم ہے۔ ۳۔ حضرت عاصمؓ اور دوسرے بہادروں نے تلوار اور نیزے سے ہاتھیوں کی سوٹھوں پر حملے شروع کئے اور تیر اندازوں نے ایسے تیر برسائے کہ فیل نشینوں کو جوابی تیر اندازی کی مہلت ہی نہ ملی، نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھی پیچھے ہٹ گئے۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۳۶) ۴۔ قادیسیہ کا یہ پہلا معرکہ تھا، عربی میں اس کو یوم الارماث کہتے ہیں۔



دوسری سحر ہوئی گواہوں کو لحد کے حوالے اہل اسلام معرکہ گاہ آئے اور عدو کے آگے ڈٹ گئے، لڑائی سے آگے ہی اک دوسرا اسلامی عسکر، روم کے سرحدی حصوں کی مہم سر کر کے لوٹا اور کئی حصے ہو کر ہمد سعد کے عسکر سے آملائے۔ اس اسلامی کمک سے عسکر کسریٰ کے دل ڈر گئے۔

کل کی طرح معرکہ آرائی کا سلسلہ ہوا، اسلامی عسکر سے اک ہمد آگے ہوا اور لڑائی کے لئے لاکاردی، ادھر سے اک آدمی آگے ہوا اور اک عرصہ لڑ کر عدو ہلاک ہوا، اسی طرح کا معاملہ عدو سے آئے ہوئے ہر آدمی سے ہوا۔

اس حال کا مطالعہ کر کے عدو کے سالار اعلیٰ کا حکم ہوا کہ عام حملہ کرو ہر دو گروہ اک دوسرے کے آگے ڈٹ گئے۔ سحر مکمل ہوئی اور ہر دو عسکر کامگاری سے محروم ہی آرام گاہ لوٹ گئے اور وہ لڑائی اک دوسرے اسم سے موسوم ہوئی۔

اگلی سحر کو ہر عسکر کامگاری کی اس لئے کہ معرکہ گاہ آ کر کھڑا ہوا اور ساری سحر لڑائی رہی کہ مہر عالم کی دمک مدہم ہوئی، اک عرصہ کے لئے ہر دو عسکر بیٹھے، مگر دہرا کر آئے اور معرکہ آراء ہو گئے۔ اہل اسلام حملہ کر کے عدو کے سالار اعلیٰ کے محل آ گئے، کسریٰ کا سالار اعلیٰ اٹھ کر معرکہ آرا ہوا اور گھائل ہو کر عسکر اسلام کے اک آدمی، ہلال کے آگے لگ کر دوڑا،

۱۔ شہداء کی تجزیہ و تکفین سے ملک شام سے حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ نے حضرت ہاشم بن عبدمنہجی سرداری میں لشکر عراق کو واپس بھیجا تھا۔ ہاشم بن عبدمنہجی میدان جنگ کے گرم ہونے کا حال سن کر اپنی چھ ہزار فوج کے بہت سے چھوٹے ٹکڑے کر دینے اور حکم دیا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک ایک حصہ نکبیر کہتا ہوا داخل ہو! اس طرح شام تک یہ دستے یکے بعد دیگرے لشکر اسلام میں داخل ہوئے اور ایرانی اس طرح پیہم کھلی دستوں کی آمد دیکھ دیکھ کر خوف زدہ ہوتے رہے (تاریخ اسلام، ج ۱، ص: ۳۳۷) حضرت قتادہؓ شام سے ایک ہزار لشکر لے کر آئے اور حضرت سعدؓ سے اجازت لے کر میدان میں نکلے اور مبارز طلب کیا مقابلہ میں بہمن جادو یہ آیا اور مارا گیا۔ یہ یوم الاعوام۔

ہلال ادھر گئے اور اسلحہ سے حملہ آور ہوئے اور اس حملے سے کسری کے سالار اعلیٰ کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ ماہراواں کو گرا، ہلال گھوڑے سے کودے اور اس کو محصور کر کے اس کا گلا کاٹ ڈالا اور اسی کی کرسی رکھ کر کھڑے ہوئے اور صدالگائی:

”واللہ! عدد کا سالار اعلیٰ مرے وار سے ہلاک ہوا۔“<sup>۱</sup>

اس صدا کو مسوم کر کے اہل اسلام کھیل اٹھے اور ”اللہ احد“ کی صدالگائی۔

اس اطلاع سے عدو کے سواروں کے حواس گم ہو گئے اور وہ معرکہ گاہ سے دوڑے اور معدود لوگوں کے علاوہ سارے مارے گئے<sup>۲</sup> اور ساٹھ سو اہل اسلام اللہ کے گھر کو سدھارے۔<sup>۳</sup> اسلامی عسکر کو وہم و گماں سے اعلیٰ مال کامگاری حاصل ہوا۔ اک آدمی کو ہدم سعد کا حکم ہوا کہ دوڑ کر اس کامگاری کی اطلاع عمر مکرّم کو دے آؤ!

عمر مکرّم کو اطلاع ملی وہ اس اطلاع سے کمال مسرور ہوئے اور حرم رسول آئے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا:

”لوگو! عمر حاکم و مالک کہاں کہ وہ لوگوں کو مملوک کرے؟ عمر اللہ کا مملوک ہے۔ ہاں! عمر کو اک اہم عہدہ ملا ہے، اگر اس کام کو اس طرح ادا کروں کہ ہر آدمی آرام سے رہے وہ اللہ کی عطا ہے اور اگر ارادہ کروں کہ ہر آدمی عمر کے گھر آ کر مومن دکھائے، وہ سوائے عملی ہے۔ عمر لوگوں کو کلام اور عمل ہر دو سے آگاہی دے رہا ہے۔“<sup>۴</sup>

اس معرکے سے علم کسری سدا کے لئے گرا اور اسلامی علم کو کمال علو ملا۔

اہل اسلام اور آگے گئے، ملک کسری کے دوسرے حصوں کے مالک ہوئے۔<sup>۵</sup>

۱ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۳۸) ۲ صرف تیس سوار بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ (ایضاً) ۳ چھ ہزار مسلمان شہید ہوئے۔ (ایضاً) ۴ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۳۹) ۵ مسلمانوں نے قادیسہ سے بڑھ کر آسانی کے ساتھ بابل، کوٹلی، بہرہ، شیر بر قبضہ کر لیا۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۲۱)

اہل کسریٰ رسوا ہو کر اک حصے سے دوسرے حصے کو دوڑے اور اہم راہوں کو مسمار کر گئے کہ کسی طرح اسلامی عسکر ہم سے دور رہے، مگر اسلامی عسکر ہر دم رواں ہی رہا۔

### اک اہم معاملہ

ملک کسریٰ کے اک اہم حصے اور اہل اسلام کے وسط اک گہرا ماہ رواں حائل ہوا، اہل کسریٰ ماہ رواں کی راہوں کو مسمار اور مائی سواری کو معدوم کر گئے اور اعداء کا اک عسکر ماہ رواں سے ادھر کھڑا ہوا کہ وہ عسکر اسلام کی ادھر آمد کو روکے سارے احوال کا مطالعہ کر کے عسکر اسلام کے سالار ہمد سعید کا اسلامی عسکر کو حکم ہوا:

”کمر کس لو“

اور کہا:

”کوئی سردار وعدہ کرے کہ وہ اک گروہ کو لے کر عسکر اسلام کو وعدہ کے حملے

سے اس لمحے دور رکھے گا کہ اسلامی عسکر ماہ رواں کا راہی ہوگا۔“

ہمد عاصم آگے آئے اور کہا: ”وعدہ ہے کہ وہ اس کام کو کرے گا۔“ ہمد عاصم دو سو کم

آٹھ سو سپاہیوں کے ہمراہ اک عالی محل آ کر کے۔

سالار اسلامی ہمد سعید، اللہ سے دعا گو ہوئے اور گھوڑے کو لے کر ماہ رواں کے راہی ہوئے۔

اس حال کا مطالعہ کر کے عسکر اسلام کو حوصلہ ملا، عسکر اسلام آگے ہوا اور گھوڑوں کو لے کر ماہ

رواں کا راہی ہوا۔

اہل اسلام آدھی راہ طے کر گئے کہ ادھر سے اعداء کی سپاہ کاری ہوئی، ادھر سے ہمد

۱۔ ایرانیوں نے بہرہ سے بھاگتے ہوئے پل مسمار کر دیا۔ (تاریخ اسلام) ۲۔ مدائن۔ ۳۔ حضرت سعید نے نستعین

باللہ و نتوکل علیہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کہہ کر اپنا گھوڑا

دریا میں ڈال دیا۔ (تاریخ اسلام: ۱، ج ۳۳۳)

عاصم اور اس کا گروہ آگے ہوا اور اس طرح سے سہام کاری کی کہ عسکر کسریٰ کے کئی لوگ مر گئے اور کئی گھائیل ہو کر دوڑے اور عسکر اعداء اس ارادے سے محروم رہا کہ وہ عسکر اسلام کی ادھر آمد کو روکے۔

مال کار کسی مائی سواری اور مائی راہ کے علاوہ ہی عسکر اسلام ادھر آگیا اور اہل اسلام کے گھوڑوں کے سم مکمل سوکھے رہے۔

اہل اسلام آگے ہوئے اور اعدائے اسلام سے معرکہ آرا ہو کر کامگار ہوئے۔

### اک دوسری لڑائی<sup>۱</sup>

ادھر اہل اسلام کی آمد ہوئی، ادھر کسریٰ گھر والوں کو لے کر آگے رواں ہوا، کسریٰ کے سالار اعلیٰ کی ماں کا لڑکا تساع ہوا کہ وہ لوگوں کو اسلامی عسکر سے معرکہ آرائی کے واسطے اکٹھا کرے، اس کی سعی سے اک عسکر طرارا اکٹھا ہوا اہل اسلام اس محل گئے کئی ماہ کا محاصرہ رہا کئی معرکہ ہوئے اور وہ حصہ عسکر اسلام کی ملک ہوا۔ معرکہ مکمل ہوا عسکر کسریٰ کے اک لاکھ آدمی واصل دارالآلام ہوئے اور سہ کروڑ کا مال کام گاری اہل اسلام کو ملا۔ ولہد الحمد!

کسریٰ کو اطلاع ملی کہ اہل اسلام کامگار ہو گئے وہ وہاں سے رے کو راہی ہوا اس کے حکم سے اک سالار کمال اسلحہ سے مسلح ہو کر عسکر اسلام کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ اسلامی عسکر سے معرکہ آرائی ہوئی اور عسکر کسریٰ ہار کر دوڑا۔ اللہ کے کرم سے اسلامی عسکر اس حصے کا مالک ہوا اور اک صد لگوائی کہ اے لوگو اسلام لے آؤ معصوم رہو گے، اسی طرح مال صلح ادا کرو معصوم رہو گے اس صدا سے کئی امراء و رؤساء دل سے اسلام لے آئے۔

اہل علم سے مروی ہے کہ اس محل سے آگے ملک کسریٰ اہم حصے کی حد مکمل ہوئی، اس

۱۔ معرکہ جولاء، ۱۱۰ھ، بن فرخ زاد کا بھائی، خرداد بن فرخ زاد۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۳۳)

۲۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۲۱)

لئے عمر مکرّم کا دلی ارادہ رہا کہ اس محلّ اسلام اور اہل کسریٰ کے وسط اک آگ کا کوہ حائل ہو کہ ہر اک گروہ معرکہ آرائی سے دور رہے۔

مگر ملک کے کئی اہم حصوں سے محروم ہو کر اہل کسریٰ کو سکھ کہاں؟ مروا کر کسریٰ ساعی ہوا کہ کسی طرح سرداری کے کھوئے ہوئے ٹھاٹھ لوٹائے، اس کام کے لئے رسائل لکھے گئے اور ہر سو ہر کارے دوڑائے گئے۔

کسریٰ کے رسائل و احکام سے اردگرد کے ممالک کو اک آگ سی لگ گئی اور آدھا لاکھ کم دولاکھ لوگوں کا نڈی دل اکٹھا ہوا۔

اس عسکر طرار کا سالار لڑائی کے اطوار کا ماہر آدمی لے طے ہوا اور اک اہم علم لے کہ وہ سدا سے اہل کسریٰ کے ہاں مسعودر ہا سالار اعلیٰ اس کے سائے سائے عسکر طرار کو لے کر کامگاری کی آس لگائے رواں ہوا۔

اس حال کی اطلاع عمر مکرّم کو ملی، عمر مکرّم کا اک ہدم کو حکم ہوا کہ اک گروہ کو ہمراہ لے لیا اور عسکر کسریٰ کو روکو! راہ کے اک مرحلے آ کر ہر دو عسکر اکٹھے ہو کر اک دوسرے سے معرکہ آراء ہوئے اسلامی عسکر کے سالار اعلیٰ اللہ کے گھر کو سدھار گئے۔ اس کا ولد ام آگے ہوا اور علم اٹھا کر عدو سے معرکہ آراء ہوا اور اسلامی عسکر کو اس سے لا علم رکھا کہ اس کا ولد ام اور عسکر اسلام کا سالار اعلیٰ دار السلام کو سدھارا۔

سحر مکمل ہوئی عسکر کسریٰ حوصلہ بار کر معرکہ گاہ سے سمٹ کر بٹا۔ اہل اسلام کمال حوصلہ وری سے حملہ آور ہوئے۔ مال کار کامگاری اہل اسلام کا حصہ ہوئی اور دس دس سو کے سہ گروہ عسکر کسریٰ کے مارے گئے اس معرکہ عسکر اسلام کا عدد اعداء اسلام کے عدد کا سدس رہا۔ والد لؤلؤ کہ اس کے وار سے عمر مکرّم اللہ کے گھر کو سدھارے، وہ اسی لڑائی کا مخصوص ہے۔

۱۔ فیروز اور بقول دیگر مردان شاہ۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۵۸) ۲۔ دیش کاویانی۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۲۲)

آگے مسطور ہوا کہ عمر مکرّم کی دلی آس رہی کہ کسی طرح معرکہ آرائی کا سلسلہ رکے، مگر مملوکہ حصوں کے لوگوں کی حکم عدولی اور معرکہ آرائی کا حال مسموع کر کے عمر مکرّم کا حکم ہوا کہ اک معرکہ عام ہو کہ اس کے آگے دہرا کر ہر آدمی اہل اسلام سے معرکہ آرائی کے ارادے سے دور ہے، اس لئے عسکر اسلام کے کئی حصے کئے گئے اور ہر عسکر کو الگ الگ علم عطا ہوا، سارے عسکر معرکہ عام کے لئے طے کردہ ممالک کو رواں ہوئے اور کمال حوصلہ وری سے لڑے، دو سال سے کم عرصہ لگا کہ کسریٰ کا سارا ملک اہل اسلام کی ملک ہو اور اللہ کے کرم سے اسلام کو علو ملا۔

کسریٰ ادھر سے رسوا ہو کر اگلے ستم مالک کوراہی ہو اور اک حاکم سے ملا اور اس کو عسکر اسلام سے معرکہ آرائی کے واسطے آمادہ کر کے مسرور ہوا، گو کہ وہ حاکم اک عسکر طرار کے ہمراہ اہل اسلام سے معرکہ آراء ہوا، مگر رسوائی گلے کا ہار ہوئی اور وہ کئی سرداروں کو مروا کر دوڑا، اس سے کسریٰ کی رہی سہی آس ٹوٹ گئی، وہ اٹھا اور سارا مال اکٹھا کر کے آگے راہی ہوا۔ اس حال کا مطالعہ کر کے کسریٰ کے ملک کے لوگ آڑے آگئے اور اس کو اس سے روکا، مگر کسریٰ کا ارادہ مصمم اسی طرح رہا۔

مال کار کسریٰ کے لوگ کسریٰ سے معرکہ آرا ہوئے اور لڑ لڑ کر سارا مال لے کر رہی رہے۔

۱۔ یزدجرد ترکستان کے علاقہ فرغانہ میں چلا گیا۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۶۱) ۲۔ خاقان۔ ۳۔ یزدجرد جب خاقان کے پاس فرغانہ میں پہنچا تو اس نے اس کی بڑی عزت کی اور زبردست فوج لے کر یزدجرد کے ہمراہ خراساں کی طرف روانہ ہوا، بلخ تک خاقان تو مرو رود پر حملہ آور ہوا اور یزدجرد نے مروشا جہان پر حملہ کیا۔ خاقان اخف بن قیس سے مقابلہ کر کے ناکام ہوا اور اپنے بعض ناموروں کو قتل کروا کے واپس فرغانہ بھاگ گیا۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۶۱) ۴۔ یزدجرد نے کوخاقان کے واپس جانے کی خبر ملی تو اس نے مایوس ہو کر خزانہ اور جواہرات ساتھ لئے اور ترکستان کا عزم کیا، دربار یوں نے دیکھا کہ ملک کی دولت ہاتھ سے نکلی جاتی ہے تو روکا، اس نے نہ مانا تو مقابلہ کر کے تمام مال و اسباب ایک ایک کر کے چھین لیا۔ یزدجرد بے سرو سامانی کی حالت میں خاقان کے پاس پہنچا اور خدا کی نافرمانی کے باعث مدتوں فرغانہ کی گلیوں کی خاک چھانتا رہا۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۲۳)

اس طرح رسوا ہو کر کسریٰ وہاں سے آگے راہی ہو اور اسی مددگار حاکم کے ہاں کئی سال رہا اور رسوائی گلے کا ہار ہوئی۔

اس کامگاری کی اطلاع عمر مکرم کو ملی، عمر مکرم کمال مسرور ہوئے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے

کہا:

”اس لمحے کسریٰ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو اور اہل کسریٰ سدا اہل اسلام سے معرکہ آرائی کے حوصلہ سے محروم ہوں گے۔ اس لمحے اسلام اور اہل اسلام ہر طرح سے معصوم ہوئے۔ اے لوگو! اگر راہ ہدئی سے ہٹو گے، اللہ اسی طرح اہل اسلام کا ملک دوسروں کو دے دے گا۔“<sup>۱</sup>

### ملکِ حمص<sup>۲</sup> کے معرکے

ملک کسریٰ کے معرکوں کا حال مسطور ہو اس لمحے ملکِ حمص کے معرکوں کے احوال مسطور ہوں گے۔

اس ملک کے کئی حصے<sup>۳</sup> حاکم اول کے دور کو ہی اہل اسلام کی ملک ہوئے، عمر مکرم حاکم اسلام ہوئے، اس لمحے اک اہم ملک<sup>۴</sup> اہل اسلام کے محاصرے کا محصور رہا۔

مال کار ماہ صوم سے دو ماہ ادھر<sup>۵</sup> ہدم حسام اللہ سے اس کی کامگاری ہوئی۔ اہل اسلام کی اس کامگاری سے رومی لوگوں کے دل کمال ملول ہوئے، ادھر ادھر سے کئی عسکر اکٹھے ہو کر عسکر اسلام سے لڑائی کے واسطے آمادہ ہوئے۔

اس اطلاع کو لے کر عسکر اسلام اٹھا اور عسکر اعداء کے آگے آڈٹا اک ہم کئے رسول صلح کے واسطے

۱۔ خاقان۔ ۲۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۶۱) ۳۔ ملک شام۔ ۴۔ اجنادین بصری اور دوسرے چھوٹے چھوٹے

مقامات۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۲۳) ۵۔ دمشق۔ ۶۔ رجب ۱۳ھ۔

۷۔ حضرت معاذ بن جبلؓ۔

گئے، مگر کامگاری سے محروم لوٹ آئے۔

مال کاروداع مکہ کے دو کم سولہ سال کو ماہ صوم سے دو ماہ آگے، ہی کئی معرکے ہو کر اک معرکہ عام ہوا اور اہل اسلام کامگار ہوئے۔ واللہ الحمد!  
وہاں کے لوگ آگے آئے اور مال صلح ادا کر کے معصوم ہوئے۔

### حمص کی کامگاری

کئی اہم حصوں کی کامگاری حاصل کر عسکر اسلام حمص وارد ہوا اور اہل حمص کا محاصرہ ہوا۔  
اک عرصہ حمص والے ڈٹے رہے، مگر مال کا صلح کر لی۔ حمص کی کامگاری کے آگے کئی دوسرے ممالک اہل اسلام کی ملک ہوئے اور عسکر اسلام کا ارادہ ہر کول کے دار الملک کی کامگاری کا ہوا، مگر عمر مکرّم کا حکم ہوا کہ اس سال اس ارادے سے دور ہی رہو، اس لئے اسلامی عسکر ادھر لوٹا۔

### دارالمطہر کی کامگاری

ہدم عمر و ولد عاص آگے ہی سے اس ملک کی کامگاری کے واسطے مامور رہے کہ اس کا اک حصہ رملہ کے اسم سے موسوم ہے، اس ملک کی کامگاری حاصل کر کے عمر و ولد عاص عسکر اسلام کو دارالمطہر لائے اور دارالمطہر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے۔  
دارالمطہر کے لوگوں کا اسلامی سال راغلی سے کلام ہوا کہ ہم کو علم سماوی کے واسطے سے معلوم ہوا ہے

۱ دمشق اور اردن مشق ہو جانے کے بعد مسلمانوں نے حمص کا رخ کیا، راہ میں بعلبک، حماة، شيراز، اور معرة النعمان فتح کرتے ہوئے حمص پہنچے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ (میرالصحابہ ج: ۱، ص: ۱۲۳) اور تاریخ اسلام مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کے مطابق مقام فحل، مقام بیسان، صیدا، عرقہ، جمیل، بیروت کو دمشق کے بعد فتح کیا گیا اور مذکورہ بالا ملکوں کو حمص کے بعد فتح کیا گیا۔ (تاریخ اسلام ج: ۱، ص: ۳۲۶) ۲ ہرقل۔ ۳ جہاں بادشاہ رہتا ہو۔ (لغات کشوری) ہرقل کا پایہ تخت انطاکیہ۔ ۴ بیت المقدس۔ ۵ فلسطین۔



کہ وہ آدمی کہ اس سے دارالمطہر کی کامگاری ہوگی، وہ کوئی اور ہی ہے، اس لئے اس کو لاؤ ہم صلح کے واسطے آمادہ ہوئے۔

اس حال کی اطلاع عمر مکرم کو دی گئی۔ اس اطلاع کو مسوع کر کے عمر مکرم کا لوگوں سے

کلام ہوا:

”اے لوگو! ہم کو رائے دو!“

لوگوں سے رائے لی اور معمورہ رسولؐ کا عامل دانا ڈرسولؐ کو طے کر کے دارالمطہر کو راہی ہوئے۔

### عمر مکرم کا رحلہ دارالمطہر

وداع مکہ کا سولواں سال ہے، اک سواری، اک مملوک اور معمولی سے مال کے ہمراہ

راہ کے مراحل اس طرح طے کئے کہ گاہ عمر مکرم سوار اور مملوک سواری کے آگے آگے سواری کی لگام

لے کر راہی رہا اور گاہ مملوک سوار اور اسلام کے حاکم دوم، سسر رسولؐ عمر مکرم سواری کی لگام لئے سواری کے آگے آگے راہی ہوئے۔<sup>۱</sup>

اسلامی سال ۲۱۲ھ آئے اور عمر مکرم کو سلام کر کے مسرور ہوئے، راہ اک محل عمر مکرم ٹھہر گئے،

ادھر ہی دارالمطہر کے رؤسا آ کر عمر مکرم سے ملے۔

۱۔ بیت المقدس کے عیسائی اور یہودی علماء نے کہا: عمرو بن العاصؓ بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے، کیونکہ فاتح بیت

المقدس کا حلیہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو عمرو بن عاصؓ پر منطبق نہیں ہوتا۔ حضرت عمرو بن العاصؓ نے اس کی اطلاع

حضرت عمر فاروقؓ کو دی تو حضرت عمر فاروقؓ تشریف لے گئے۔ (سیرت خاندان راشدین، ص: ۱۷۰)

۲۔ حضرت عثمانؓ غنیؓ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۳۹)

۳۔ فاروق اعظمؓ کے اس سفر کی سادگی و جفاکشی عام طور پر مشہور ہے کبھی غلام اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے چلنا اور فاروق اعظمؓ

سوار ہوتے اور کبھی غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور فاروق اعظمؓ اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے چلتے۔ اللہ! اللہ! یہ اس عظیم الشان

شہنشاہ اور خلیفہ کا سفر تھا جس کی فوج قیصر و کسریٰ کے محلات اور تخت و تاج کو اپنے گھوڑوں کی ناپوں میں روند چکی تھیں۔

رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ (ایضاً)

معابدہ صلح لکھ کر عمر مکرم دارالمطہر راہی ہوئے، اول عماد اسلام والے محل وارد ہوئے، اس کے آگے روح اللہ رسول کے لوگوں کے محل مکرم (صعومۃ) آکر گھومے، عماد اسلام کی گھڑی آئی، وہاں کے رؤسا آگے ہوئے اور کہا: ”ہمارے اس محل مکرم آکر عماد اسلام ادا کر لو!“

مگر عمر مکرم وہاں سے ہٹ گئے اور کہا: ”اگر عمر اس محل عماد اسلام ادا کرے گا، آگے کے لوگ لامحالہ عمر کے اس عمل کے عامل ہوں گے اور اسی طرح کے ہر محل کو لے کر مسرور ہوں گے۔“<sup>۱۲۷</sup>  
اس لئے عمر مکرم اٹھے اور دوسرے محل آکر عماد اسلام ادا کی اور سارے ملک کا دورہ اور سرحدوں کا مطالعہ کر کے معمورہ رسول بوٹے۔

## دوسرے معرکوں کے احوال

دارالمطہر کی کامگاری کے آگے کئی اور معرکے ہوئے۔ ہر کول کی مدد سے حمص کے

۱۔ اس معابدے میں حضرت عمرؓ نے لکھا: ایلیا والوں کی جان مال گھر، گرجے، صلیب، بیمار، تندرست سب کو امان ہے۔ ایلیا والوں پر فرض ہے کہ جزیہ دیں اور یہودیوں اور یونانیوں کو نکال باہر کریں، یہودیوں اور یونانیوں میں سے جو شہر سے باہر نکل جائے، اس کی جان مال اس وقت تک محفوظ ہیں، جب تک وہ محفوظ مقام تک نہ پہنچ جائے۔ اس عہد نامے پر اللہ اور رسول اور خلفاء اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے بشرطیکہ اہل ایلیا مقررہ جزیہ کی ادائیگی سے انکار نہ کریں۔ (ایضاً) ۲۔ گرجا۔ ۳۔ حضرت عمرؓ نے اس خیال سے کہ آئندہ نسلیں میرے گرجا کے اندر نماز پڑھنے کو جنت قرار دے کر سبھی معبدوں میں دست اندازی نہ کریں، باہر نماز پڑھی۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۲۷) ۴۔ عیسائیوں نے حمص پر دوبارہ قبضہ کی کوشش کی، مگر مسلمانوں نے نام کر دی ۱۸ھ میں قیساریہ پر اہل عمرو بن العاص حملہ آور ہوئے اور پھر امیر معاویہؓ نے اس کو فتح کیا۔ جزیرہ پر عبداللہ بن مغنم نے فوج کشی کی۔ تکریت کا ایک ماہ تک محاصرہ رہا اور اس دوران چوبیس حملے ہوئے، آخر میں حسن تدبیر سے مسخر ہوا۔ باقی علاقوں کو عیاض بن مغنم نے فتح کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ابواز، مناذر، سوس، رامرہ زکوٰۃ فتح کرتے ہوئے خوزستان کے صدر مقام کارخ کیا، یہ نہایت مستحکم اور قلعہ بند تھا، لیکن ایک شخص کی رہنمائی سے مسلمان تہ خانے میں گھس گئے اور اس کو مسخر کیا یہاں کا سردار ہرمزان گرفتار ہوا اور اس کو مدینہ بھیجا گیا، ادھر وہ مسلمان ہو گیا۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۲۷)

لوگ حکم عدولی کر کے سماعی ہوئے کہ کسی طرح حمص دہرا کر اہل حمص کا ہو، مگر وہ اس مراد سے محروم ہی رہے۔

## مصر کی کامگاری

عمر و ولد عاص، عمر مکرم کے آگے آئے اور کہا کہ اس کا ارادہ ہے کہ وہ اک عسکر کے ہمراہ مصر حملہ آور ہو! اللہ کی مدد سے وہاں اسلام کو بٹلو ملے گا۔  
عمر مکرم کی رائے سے عمر و ولد عاص اک عسکر کے ہمراہ مصر حملہ آور ہوئے اور مصر اور دوسرے کئی ملکوں کی کامگاری حاصل کر کے لوٹے۔

## گواہی (رحلہ دارالسلام)

اک ہمد رسولؐ کا مملوک، والد لؤلؤ اک سحر عمر مکرم کے آگے ہوا اور کہا:  
”اس کا مالک حد سے سوا محصول اس کے سر لگائے ہوئے ہے، اس سے  
کہو کہ وہ کمی کرے۔“

عمر مکرم کا سوال ہوا: ہم سے محصول کا عدد کہو! کہا: ”دودرہم ہے۔“  
عمر مکرم کا دہرا سوال ہوا: کس عمل کے عامل ہو؟ کہا: ”لو ہے کا، لکڑی کا، اور گل کاری کا۔“  
عمر مکرم کا کلام ہوا: ”اس طرح کے کاموں کے دودرہم کا محصول معمولی ہے۔“

اس کلام سے والد لؤلؤ کا دل حسد کی آگ سے سلگ اٹھا اور اس کا ارادہ ہوا کہ کسی طرح عمر مکرم کو ہلاک کرے، اس لئے وہ مردود، سحر کی عماد اسلام کے لئے حرم رسول وارد ہوا، عمر مکرم عماد اسلام کی ادائے گی کے واسطے آگے ہوئے، اسی لئے مردود والد لؤلؤ اٹھا اور دھاری

۱ فرما، پچیس اور امین و نین فسطاط، اسکندریہ کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ (ایضاً)

۲ شہادت۔ ۳ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ۔

۴ آہنگری، نجاری اور نقاشی کرتا تھا۔ ابولؤلؤ غیر وز۔ ۵ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۶۴)

دار آلے سے عمر مکرّم کو گھائل کر کے دوڑا۔

عمر مکرّم مصلے سے بٹے اور اک ہمد رسول، والد محمدؐ کو عماد اسلام کے لئے آگے کھڑا کر کے کھاؤ کے صدمے سے گر گئے، کئی لوگ دوڑے کہ کسی طرح والد لولوؓ مردود، محصور ہو، اک آدمیؓ کو ہلاک اور کئی لوگوں کو گھائل کر کے وہ مردود، محصور ہوا اور اسی دھاری دار آلے سے گلا کاٹ کے وہ مردود سدا کے لئے واصل دارالآلام ہوا (اللہ اس مردود کو دارالآلام کے سارے دکھ دے اور حد سے سوا کرے)

گھاؤ کمال گہرے لگے، اس لئے لوگوں کو حاکم دوم کی عمر کی آس ٹوٹ گئی، لوگوں کی رائے ہوئی کہ ہمد مکرّم، حاکم اولؓ کی طرح کسی آدمی کو حاکم اسلام کرو! عمر مکرّم کا حکم ہوا کہ دو کم آٹھ لوگوں کے گروہ سے کسی اک آدمی کو حاکم اسلام طے کر لو! اس گروہ کے لوگوں کا اسم اس طرح ہے:

”رسول اللہؐ کے دہرے داماد، حاکم سومؓ، داماد رسولؐ، علی کرّم اللہ، ہمد طلحہ، ہمد سعد، ہمد ولد عوام، ہمد والد محمدؐ۔“

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ (جن کی کنیت ابو محمد ہے۔) نے لوگوں کو اس حالت میں نماز پڑھائی کہ فاروق اعظمؓ زخمی حالت میں سامنے لیٹے تھے۔ جب لوگوں نے اس مردود ابو لولوؓ کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے کئی آدمیوں کو زخمی کیا اور حضرت کلیب بن ابی کبیرؓ کو شہید کر دیا بالآخر گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس نے گرفتار ہوتے ہی خود کشی کر لی اور ہمیشہ کے لئے واصل جہنم ہوا۔ سید ابو بکر صدیقؓ حضرت عثمان غنیؓ۔ حضرت زبیر بن العوامؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی کنیت۔ صحابہ کرام انس، یوسف، زید، آپ نے حضرت عثمان بن عفانؓ، حضرت علی کرّم اللہ وجہ، حضرت طلحہؓ، حضرت سعد بن وقاصؓ، حضرت زبیر بن العوامؓ، حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ کو طلب فرمایا۔ حضرت طلحہؓ مدینہ میں تشریف نہ رکھتے تھے، اس لئے پانچ آدمیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: تین دن تک حضرت طلحہؓ کا انتظار کرنا، اگر آجائیں تو ان کو بھی اپنی جماعت میں شامل کرنا ورنہ تم پانچ آدمی ہی مشورہ کر کے اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنا لینا۔ (تاریخ اسلام، ج ۱، ص: ۳۶۵)

(اللہ ہر اک سے مسرور ہو)

اس مرحلے کو مکمل کر کے عمر مکرم کے حکم سے عروس مطہرہ کو اطلاع دی گئی کہ عمر کی دلی آس ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرا مگاہ والے محل کی ہمراہی ملے۔  
عروس مطہرہ کی رائے اسی طرح کی ہو گئی۔ عمر مکرم اس سے کمال مسرور ہوئے، اس کے آگے عمر مکرم کا کلام ہوا:

”وہ آدمی کہ حاکم اسلام ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگاروں اور ہمدموں کو مکرم رکھے۔“

اور لڑکے سے کہا عمر کے سر لوگوں کا ادھار ہے، ہو سکے عمر ہی کے مال سے ادا کرو! اگر ادائے گی ادھوری رہے، اسرۂ عدی سے سوال کرو کہ کسی طرح ادھار ادا ہو، مگر اس سے دور رہو کہ سارے لوگوں سے سوال کرو!

اہل علم سے مروی ہے کہ معمورہ رسول کے اک گھر کے عمر مکرم مالک رہے، عمر مکرم کا حکم ہوا کہ اس گھر کو مول دے کر عمر کا ادھار ادا کرو۔ اس طرح کا اہم کلام کر کے عمر مکرم اک اور دو حجر گھاٹل رہے۔

وداع مکہ کو سولہ اور آٹھ سال ہوئے، محرم الحرام کی اول کو ساڑھے دس سال اسلام کا حاکم رہ کر، سر رسول، اسلام کا حاکم دوم، مراد رسول راہی دارالسلام ہوئے (ہم ساروں کا اللہ مالک ہے اور ہر آدمی اسی کے ہاں لوٹے گا۔) ۱

۱۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۶۶) سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لئے تجویز کی تھی، لیکن اب میں عمر فاروق کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ عمر فاروق اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میری سب سے بڑی مراد برائی۔ (ایضاً) ۲۔ حضرت عبداللہ بن عمر (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۹)

۳۔ اس گھر کو حضرت امیر حادیہ نے خرید لیا تھا۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۱۶۷)

۴۔ (ایضاً، ج: ۱، ص: ۳۶۶، ہادی عالم، ص: ۴۰۷)

رکوع سے عاری عماد اسلامؑ کے امام ہمد رومیؒ ہوئے اور حاکم سوم، ہمد علی، ولد عوام، ولد عمر اور والد محمد کی مدد سے لحد کے حوالے کئے گئے۔

---

۱۔ نماز جنازہ۔ ۲۔ حضرت صہیب رومیؓ، حضرت عثمان غنیؓ، حضرت علیؓ، حضرت زبیر بن عوامؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے قبر میں اتارا۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۶۶)

حمد اللہ کے لئے، سلام رسول اللہ اس کے ہمدوں کے لئے

## حصہ دوم

رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے

دوداماد

دہراداماد رسول اور ہمد علی

(اللہ ہر دو سے مسرور ہو)

کے احوال کا حامل ہے

اللہ کے اسم سے کہ وہ عمومی رحم و کرم والا ہے

### مطالعہ

والدِ عمر و، الرسول اللہ کا دہرا داماد، دوڑ حلوں والا، ولد و ولد والدِ عاص، دو لمعوں والا ﷺ۔ اسلام

کا حاکم سوم۔

### مولودِ سلسلہ

داماد رسول حاکم سوم کا مولودِ سلسلہ والد اور ماں ہردو کے واسطے سے ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا ہے۔

داماد رسول، حاکم سوم کو دو لمعوں والا اس لئے کہا کہ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوڑ کی کی عروسی حاکم سوم سے ہوئی۔

حاکم سوم کا اموی اسرہ دورِ لاعلمی سے ہی کو سرداری کا حامل رہا۔

### عالمِ مادی کو آمد

مکہ مکرمہ کے لئے اک سال اس طرح کا ہوا کہ اک حاکم مردود، دار اللہ کی مسامری کے ارادے سے مکہ وارد ہوا، حاکم سوم اس سال سے دو کم آٹھ سال ادھر مولود ہوئے اور رحلہ

۱۔ حضرت عثمانؓ کی کنیت۔ (صحابہ کرام انسائیکلو پیڈیا، ص: ۱۶۵) ۲۔ ذہب و جہر تین۔ ۳۔ عثمانؓ بن ابوالعاص۔ ۴۔ ذوالنورین۔

۵۔ والد کی طرف سے پورا سلسلہ نسب یہ ہے: عثمان بن عفان بن ابی العاص ابن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی القرشی۔ والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب یہ ہے: اروی بنت کریم بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف۔ حضرت عثمان کا سلسلہ پانچویں پشت عبد مناف پر آنحضرت ﷺ سے مل جاتا ہے یعنی عبد مناف کے دو فرزندوں میں سے ایک کی اولاد میں رسول اللہ ہیں اور ایک کی اولاد میں حضرت عثمانؓ آپؐ کی نانی بیضا، ام حکیم، حضرت عبد اللہ بن عبدالمطلب کی سگی بہن اور رسول اللہ کی پھوپھی تھیں۔ غرض آپؐ ماں اور باپ دونوں طرف سے بہت قرب کی قرابت رسول اللہ کے ساتھ رکھتے تھے۔ (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۲۰۰، تاریخ اسلام، اکبر شاہ، ج: ۱، ص: ۳۷۷، سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۷۵) ۶۔ واقعہ قبل کے چھٹے سال یعنی ہجرت نبویؐ سے ۳۷ سال قبل پیدا ہوئے۔



وداع مکہ سے سہ کم آدھی صدی آگے مولود ہوئے۔  
 داماد رسول، حاکم سوم اک آسودہ حال سوداگر اور داد و عطا کے عادی رہے۔

## حاکم سوم کا اسلام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے دہرے داماد کی عمر اٹھارہ اور سولہ سال کی ہوئی، مکہ مکرمہ کی وادی صدائے لالہ سے معمور ہوئی گو کہ اس صدا سے اہل مکہ اک عرصہ سے لاعلم رہے، مگر حاکم سوم کہ ملائم دل والے رہے، اس لئے اسلام کے حاکم اول کا کلام مسوع کر کے اسلام کے واسطے آمادہ ہوئے۔

اور اس ارادے سے کھڑے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے آگے آکر اسلام لائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم ادھر ہی مل گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کا کلام ہوا: اے والد عمرو! اسلام لا کر دارالسلام حاصل کر لو! حاکم سوم اسی لمحے اسلام سے مالا مال ہوئے۔

## اک اہم کلام

اہل مطالعہ کو معلوم رہے کہ اسلام کے حاکم سوم کا اموی اسرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے اسرہ کا ہمکار رہا اور وہ ہادی عالم کی کامگاری اور علو اسلام سے حاسد ہوا کہ اگر اسلام

سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۷۶) ۲ حریف۔ (فیروز اللغات) حضرت عثمان غنی کا تعلق اموی خاندان سے تھا جو بنو ہاشم کا حریف تھا، رسول اللہ ﷺ کی کامیابی کو اس لئے خوف و حسد کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ اس طریقے سے عرب کی سیادت کی باگ بنو امیہ کے ہاتھ سے نکل کر بنو ہاشم کے دست اقتدار میں چلی جائے گی یہی وجہ تھی کہ عقبہ بن ابی معیط اور ابوسفیان وغیرہ اس تحریک کو دبانے میں نہایت سرگرمی سے پیش پیش تھے، مگر حضرت عثمان کا آئندہ دل خاندانی تعصب کے گرد و غبار سے پاک تھا، اس لئے اس قسم کی کوئی پیش بینی ان کی صفائی باطن کو مکدر نہ کر سکی، آپ چوتھے مسلمان تھے۔

(سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۷۶، تاریخ اسلام، اکبر شاہ، ج: ۱، ص: ۳۷۵)

کو علو ملے گا سرداری، اموی اسرہ سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے اسرہ کو ملے گی۔ اس لئے اموی اسرہ کے کئی سر کردہ لوگ سماعی ہوئے کہ کسی طرح صدائے اسلام رکے، مگر داماد رسول حاکم سوم کا دل اس طرح کے ہر حسد سے کوسوں دور رہا۔ اسی لئے وہ اول اول اسلام لے آئے، اس سے اس کے اسرہ کے لوگ اس کے عدو ہو گئے۔

### دامادی رسول کا عالی اکرام

حاکم سوم کے اسلام کو اک عرصہ ہوا، حاکم سوم کو اک اعلیٰ اکرم ملا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے داماد ہوئے۔

رسول اکرم کی اک لڑکی کی عروسی ہادی اکرم کے عم گمراہ کے اک لڑکے سے ہوئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم داعی اسلام ہوئے، عم گمراہ لڑکے کے گھر آئے اور اس کو حکم ہوا کہ محمد کی لڑکی کو الگ کر دو! والد کے حکم سے لڑکا دوری کر کے سرور ہوا۔ رسول اللہ کی رائے سے اس لڑکی کی عروسی حاکم سوم سے ہو گئی۔

### رحلہ اول

مکہ مکرمہ کی وادی صدائے اسلام سے معمور ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم اور ہمدموں کی مساعی سے اسلام کو علو ملا۔ اس سے اہل مکہ کے دل حسد کی آگے سے سلگ اٹھے اور وہ اہل اسلام کو دکھ دہی اور الم رسائی کے واسطے سماعی ہوئے۔ گو کہ حاکم سوم، اموی اسرہ کے سر کردہ آدمی رہے، مگر اسلام کے لئے دکھ و الم سبے۔ حاکم سوم کے اک عم گمراہ کو اطلاع ملی کہ اس کے ولد ام کا لڑکا اسلام سے مالا مال ہوا ہے، وہ اٹھا اور حاکم سوم کو رسی سے کس کے مارا۔

۱۔ حضرت رقیہؓ: ۲۔ ابولہب: ۳۔ عقبہ: آپ کے دعوے نبوت کے بعد ابولہب ملعون و آنحضرتؐ سے اتنی عداوت ہو گئی کہ اس نے اپنے لڑکے متبہ پر دباؤ ڈال کر حضرت رقیہؓ کو طلاق دلوا دی۔ ۴۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۷۷) ۵۔ ہجرت حبشہ: ۶۔ حضرت عثمان غنیؓ کے چچا کو اطلاع ملی کہ حضرت عثمانؓ مسلمان ہو گئے ہیں تو اس نے حضرت عثمانؓ کو باندھ کر مارا۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۷۸)

اول اول اہل اسرہ سردمہری کے عامل رہے، مگر وہ لمحہ آ کے رہا کہ اسرہ اور مکہ کے گمراہوں کے دکھ دہی اورالم رسائی کے سلسلے کو اس طرح طول ہوا کہ اس کی سہارا آدمی کو کہاں؟ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حاکم سوم کو حکم ہوا کہ گھر والوں کو لے کر ملک احمہ کو راہی ہو۔<sup>۲</sup>

حاکم سوم گھر والی کو لے کر سوائے ملک احمہ راہی ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا کلام ہے:

”معمار حرم<sup>۳</sup> اور لوط رسول (سلام اللہ علی روحہما) کے علاوہ والد عمرو<sup>۴</sup> ہی وہ

آدمی ہے کہ گھر والی کے ہمراہ رحلہ کر گئے۔“

حاکم سوم آٹھ سال ادھر رہے<sup>۵</sup> اور اس کی اطلاع کو مسوع کر کے مکہ لوٹے کہ اہل مکہ سارے کے سارے اسلام لے آئے، مگر مکہ آ کر معلوم کہ اہل مکہ اسلام سے محروم ہی دور ہے۔ کئی آدمی دہرا کر ملک احمہ لوٹ گئے، مگر حاکم سوم مکہ ہی رک گئے۔<sup>۶</sup>

### رحلہ دوم

رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کو وحی آئی کہ مکہ مکرمہ کے ہدم اور اہل اسلام معمورہ احد کو اک اک کر کے رواں ہوں، ہدموں کو اس حکم اور اس رائے کی اطلاع دی گئی، لوگوں کو حکم رسول ملا اور وہ اس حکم الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے حکم کے لئے آمادہ عمل ہوئے۔

۱۔ نجاشی۔ ۲۔ سیرت خاتم الانبیاء، ص: ۱۳۶) ۳۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہم السلام نے بھی اپنے اہل کے ساتھ ہجرت کی تھی، ان کے بعد حضرت عثمان غنی نے۔ (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۲۰۲، سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۷۸) ۴۔ حضرت عثمان غنیؓ ہی صحابہ کرام انسانیلو پیڈیا، ص: ۱۶۸) ۵۔ صحابہ کرام کو قریش کے اسلام غلط خبر ملی وہ سب مکہ آ گئے ان میں عثمان بھی تھے۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۷۸) ۶۔ مدینہ کی ہجرت۔

حاکم سوم مع گھر والوں کے آمادہ ہوئے کہ مکہ مکرمہ کو الوداع کہہ کر اس مصر کو رواں ہوں کہ وہی معمورہ رسول ہوگا۔<sup>۱</sup>

حاکم سوم معمورہ احد آکر مددگار رسول اوس کے ہاں ٹھہرے۔

رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی رائے سے مددگار اوس اور حاکم سوم کا اک دوسرے سے معاہدہ ہمدردی و رواداری ہوا۔<sup>۲</sup>

### ماء رومہ اور داماد رسول

معمورہ رسول آکر اہل اسلام کو ماء طاہر سے محرومی ہوئی، لوگوں سے معلوم ہوا کہ معمورہ رسول کے لئے اک ماء طاہر کا گڑھا ہے، مگر اس کا مالک اک اسرائیلی<sup>۳</sup> ہے اور وہ ماء طاہر اس کی کمائی ہے۔

اہل اسلام کی ماء طاہر سے محرومی کو محسوس کر کے داماد رسول کا ارادہ ہوا کہ اسرائیلی کو دام دے کر ماء طاہر کا گڑھا مول لے لوں اور اس کو اللہ کی راہ دے دوں۔

اس ارادے کو لے کر حاکم سوم اٹھے اور اس اسرائیلی کے آگے آکر اس سے کہا:  
”ہم کو رومہ کا گڑھا مول دے دو!“

اس کا رد کلام ہوا کہ آدھا گڑھا مول دوں گا۔ اور وہ اس طرح کہ اک سحر رومہ ہمارا ہوگا اور اک سحر داماد رسول کا۔ داماد رسول آمادہ ہو گئے اور دام ادا کر کے آدھے رومہ کے مالک ہوئے اور اس کو اللہ کی راہ دے کر مسرور ہوئے۔

۱ (ہادی عالم، ص: ۱۳۶) ۲ حضرت اوس بن ثابتؓ - سید آپ نے حضرت عثمانؓ اور حضرت اوس بن ثابتؓ کے درمیان مواخات قائم کر دی۔ (صحابہ کرام انسائیکلو پیڈیا، ص: ۱۶۸) ۳ بیگز رومہ - ۵۔ یہودی - ۶۔ یہودی صرف نصف حق فروخت کرنے پر راضی ہوا اور شرط یہ قرار پائی کہ ایک دن حضرت عثمانؓ کی باری ہوگی اور ایک دن یہودی کیلئے یہ کنواں مخصوص رہے گا۔ (سیر الصحابہ، ص: ۱۷۹)

وہ سحر کی رومہ داماد رسول حاکم سوم کی ملک رہا، اسی سحر سارے لوگ اس کے ماءِ طاہر سے نالامال ہوئے اور گھڑوں ماءِ طاہر گھرا کر مسرور ہوئے۔

دوسری سحر رومہ لوگوں کی آمد سے محروم ہی رہا۔ کئی سحر اسی طرح ہوا، اس سے اسرائیلی کو ملال ہوا کہ کمانی گئی، اس لئے وہ داماد رسول حاکم سوم سے آکر ملا اور کہا:

”وہ آمادہ ہے کہ دام طے کر کے رومہ کا دوسرا حصہ داماد رسول کے حوالے کر دے۔“

حاکم سوم اٹھے اور دام دے کر سارے رومہ کے مالک ہوئے اور سارے رومہ کو اللہ کی راہ دے مسرور ہوئے۔ اس طرح سارے لوگوں کی ماءِ طاہر سے محرومی دور ہوئی۔

### معمر کے اور دوسرے احوال

معمورہ رسول آکر اہل اسلام کو آرام ملا، مگر گمراہوں کو کہاں گوارا کہ مسلم آرام سے رہے اور اسلام کو علو ملے؟

اس ڈر سے کہ اگر معمورہ رسول اسلام کا گوارا ہوا، اہل مکہ کی راہ کھوٹی ہوگی، وہ اسلام اور اہل اسلام کی رسوائی کے واسطے ساعی ہوئے اور اس لئے وداع مکہ کے دوسرے سال سے لے کر مکہ کی کام گاری کے لمحے معمر کوں کا سلسلہ دائم رہا۔ داماد رسول حاکم سوم اک، دو معمر کوں کے علاوہ ہر ہر معمر کے ہادی اکرم کے ہمراہ رہے۔

### اسلام کا معمر کہ اول اور اسلام کے حاکم سوم

اسلام کے معمر کہ اول کے لمحے داماد رسول کی گھر والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری

جس دن حضرت عثمانؓ کی باری ہوتی، اس دن مسلمان اس قدر پانی بھر کر رکھ لیتے تھے کہ دو دن تک کیلئے کافی ہوتا تھا، یہودی نے دیکھا کہ اب اس سے کچھ نفع نہیں ہو سکتا تو وہ بقیہ نصف بھی فروخت کرنے پر راضی ہو گیا۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۷۹) ع غزوہ بدر۔

کے واسطے ادھر ہی ٹھہرو! اللہ کی درگاہ سے صلہ و اکرام اور مال کا مگاری ملے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم اہل اسلام کے ہمراہ معرکہ اول کے واسطے راہی ہوئے اور داماد رسول، حاکم سوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے حکم سے معمورہ رسول ہی ٹھہر گئے کہ گھر والی کی دلداری کر سکے۔

داماد رسول، حاکم سوم کی گھر والی کئی سحر محمود رہ کر اللہ کے گھر کو سدھاری۔ (ہم ساروں کا اللہ مالک ہے اور ہر آدمی اسی کے ہاں لوٹے گا۔)

بادی کامل معرکہ گاہ سے سوئے معمورہ رسول رواں ہوئے، رسول اکرم کا حکم ہوا کہ دو آدمی دوڑ کر سوئے معمورہ رسول رواں ہوں کہ وہاں کے لوگوں کو اہل اسلام کی کامگاری کی اطلاع ملے، اس امر کے لئے ولد رواحد اک اور مددگار کے ہمراہ رواں ہوئے۔

ہدم اسامہ راوی ہوئے کہ ہم کو اہل اسلام کے اس معرکہ سے کامگاری کی اطلاع ماہ صوم کی اٹھارہ کو ملی، اسی لمحے ہم سرور عالم کی لڑکی اور ہدم داماد کی اہل کوٹھی دے کر آئے۔

معلوم رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے ہدم داماد اور اسلام کے حاکم سوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے حکم سے رسول اللہ کی لڑکی کی دلداری کے لئے معمورہ رسول ہی رہے۔ اہل اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ ہدم داماد سے معرکہ اول کے کامگار لوگوں کا سا سلوک ہو! اسی لئے معرکہ اول کے مال کامگاری سے اس کو دوسرے لوگوں کے مساوی حصہ ملا اور اللہ کی درگاہ سے وہ سارے احوال و اکرام ملے کہ اس معرکہ کے

اغزوہ بدر کے موقع پر آپ کی اہلیہ حضرت رقیہؓ بیمار تھیں، اس لئے آپ نے حضرت عثمان غنیؓ سے فرمایا: تم مدینہ ٹھہر کر اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرو! تم کو پورا پورا اجر ملے گا۔ اس آپؐ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۲۰۶، سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۸۰) ۲۔ سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۸۰، ہادی عالم، ص: ۳۰۷۔ ۳۔ حضرت اسامہ

بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت رقیہؓ کو دفن کر کے لوٹے تو ہمیں فتح کی اطلاع ملی۔ (ایضاً، ص: ۱۹۳)

دوسرے لوگوں کو ملے۔<sup>۱</sup>

اہل علم سے مروی ہے کہ داماد رسول حاکم سوم کو اس سے کمال دکھ ہوا کہ ادھر معرکہ اول سے محرومی ہوئی اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم سے سلسلہ دامادی ٹوٹا اور رسول اکرمؐ کا کلام ہے:

”دار المعاد کو مرے سلسلے کے علاوہ ہر سلسلہ ٹوٹ کر رہے گا۔“<sup>۲</sup>

اس حال کا مطالعہ کر کے رسول اکرمؐ آئے اور داماد رسول کی دلہنہ کی اور کہا کہ والد عمر کے لئے وہی اکرام ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کا ملا۔

### دامادی رسول کا دہرا اکرام

داماد رسول، حاکم سوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم سے اک اکرام اس طرح

کا ملا کہ سارے رسولوں کے سارے ہمد و جواری اس سے محروم رہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کی رائے سے رسول اللہ کی دوسری لڑکی کی عروسی حاکم سوم سے ہو گئی۔ اس طرح حاکم سوم رسول اللہ کے دہرے داماد ہو گئے اور دو لمعوں والے کہلائے۔

### معرکہ احد

معرکہ احد کو حاکم سوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے ہمراہ رہے اور کمال حوصلہ

وری سے لڑے، مگر گھاٹی والوں کی حکم عدولی سے اہل اسلام کی کامگاری ادھوری رہ گئی اور وہ ہر دورہ سے اعدائے اسلام سے گھر گئے اور سارا عسکر اسلامی کٹی حصے ہو کر ادھر ادھر ہوا۔

۱۔ حضرت عثمان غنیؓ حضرت رقیہؓ کی شدید بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ رہ گئے تھے، مگر آنحضرتؐ نے ان کو اصحاب بدر

ہی میں شمار فرمایا اور مال قیمت میں ان کا حصہ لگایا (ہادی عالم جس: ۱۹۳، بحوالہ الصحیح السیر) ۲۔ آخرت۔ رسول اللہ ﷺ

کا ارشاد ہے: قیامت کے دن میری قربت کے سوا ساری قربت داریاں منقطع ہو جائیں گی۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص:

۱۸۱، بحوالہ کنز العمال، ج: ۳، ص: ۳۷۹) ۳۔ حضرت ام کلثومؓ۔ ۵۔ ذوالنورین۔

رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کا اک ہم روہدم گمراہوں سے لڑ کر اللہ کے گھر کو سدھارا، اس سے اس گمراہ کو دھوکہ لگا کہ محمدؐ گھائل ہو کر گرے، وہ مسرور ہوا اور کہسار کے اک سرے سے صدا لگائی کہ محمدؐ کا وصال ہوا!

گمراہوں کے دل اس صدا سے مسرور ہوئے، مگر اہل اسلام کے دل اس صدا سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور سارے لوگ اک دم ٹھٹھر کر رہ گئے۔<sup>۱</sup>

رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کے دہرے داماد اور اسلام کے حاکم سوم کا حال دگر ہوا، وہ حواس گم کر کے رسول اللہ سے دور ہو گئے، اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کے وصال کی اطلاع عام ہوئی، اک مسلم کو اس کی سہار کہاں؟ حاکم سوم اس دوری کو لے کر سدا کھی رہے، حالانکہ اس طرح کے لوگوں کے لئے اللہ کا کلام وارد ہوا:

”اللہ سے اس طرح کے سارے لوگوں کو رہائی ملی، لامحالہ، اللہ کمال حلم والا اور رہائی والا ہے۔“<sup>۲</sup>

۱۔ (ہادی عالم، ص: ۲۲۲) ۲۔ احد کی لڑائی میں جب رسول خداؐ کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی اور صحابہ کرامؓ میں نہایت بے چینی اور سراپیسگی پھیل گئی اور اس پریشانی و بدحواسی میں بعض لوگ میدان جنگ سے ہٹ گئے، بعض معمولی روایات سے جن کی حیثیت اخبار احاد سے زیادہ نہیں، حضرت عثمانؓ غنیؓ کا نام بھی پیچھے ہٹ جانے والوں میں لیا گیا ہے، حالانکہ ایک تو حضرت عثمانؓ جیسے جلیل الشان و عظیم المرتبت صحابی کا میدان احد سے ہٹ جانا قابل تسلیم نہیں۔ دوسرے ان ہٹ جانے والے لوگوں پر کوئی ملامت بھی نہیں۔ اول: اس وجہ سے کہ رسول اللہؐ کی شہادت کی خبر سے سراپیسہ ہو کر ہٹے تھے۔ دوم: اس وجہ سے کہ ان ہٹ جانے والوں کے حق میں صاف طور پر قرآن کریم میں وارد ہو گیا ہے: ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ تحقیق اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا، بے شک اللہ بڑا علم والا اور بخشنے والا ہے۔ آل عمران:

۱۵۵) (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۲۰۷)



## دوسرے معرکے

وداع مکہ کو دو اور دو سال ہوئے کہ ڈروالی<sup>۱</sup> عماد اسلام والا معرکہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم اس معرکہ کے واسطے راہی ہوئے اور داماد رسول، حاکم سوم کو معمورہ رسول کا والی کر گئے۔

اسی طرح اسرائیلی گروہ سے معرکہ<sup>۲</sup> ہوا اور اس کے آگے کھائی والا معرکہ<sup>۳</sup> ہوا، داماد رسول اہل اسلام کے ہمراہ رہے۔

## معابدہ صلح اور حاکم سوم

وداع مکہ کو دو کم آٹھ سال ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہوئے، راہ کے اک مرحلے رسول اکرمؐ کو اطلاع ملی کہ مکے کے گمراہ ہر طرح لڑائی کے واسطے آمادہ ہو گئے اور سارے لوگوں کا ارادہ ہے کہ اہل اسلام کو مکہ سے دور ہی روک کر معرکہ آراء ہوں گے۔

سرکارِ دو عالم اہل اسلام کو لے کر مکہ مکرمہ سے کوئی دس کوس ادھراک گاؤں آ کر رکے، وہی محل رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم اور اہل اسلام کی ورود گاہ ہوا۔<sup>۴</sup>

مگر ہادی اکرم لڑائی کے ارادہ سے کہاں آئے؟ اس لئے ہادی کامل کا دہرے داماد اور اسلام کے حاکم سوم کو حکم ہوا کہ مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہوں اور مکے والوں سے کہو کہ ہمارا عمرے کا ارادہ ہے اور ہمارا عہد ہے کہ ہم لڑائی سے دور ہوں گے اور رو سائے مکہ سے اور مکہ مکرمہ کے مسلمانوں سے

۱۔ غزوہ ذات الرقاع، چونکہ اس غزوہ میں صلوة الخوف مشروع ہوئی، اس لئے اس کو یہ نام دیا۔ اس غزوے کے کل پانچ نام ہیں: (۱) غزوہ ذات الرقاع۔ (۲) غزوہ بنو حارب۔ (۳) غزوہ بنو ثعلبہ۔ (۴) غزوہ صلوة الخوف۔ (۵) غزوہ الاعاجیب۔ (عہد نبوت کے ماہ و سال: ۸۰) ۲ غزوہ بنو نضیر۔ (ہادی عالم: ص ۲۳۵) ۳ غزوہ خندق۔ ۴ حدیبیہ، مکہ مکرمہ سے ساڑھے نو میل جدہ کی سمت واقع ہے۔ (ایضاً: ص ۲۹۳) ۵ حضرت عثمانؓ کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ تعالیٰ عنقریب مسلمانوں کو فتح دے گا اور اپنے دین کو غالب کرے گا۔ (ایضاً: ص ۳۹۳)

کہہ دو کہ اک عرصہ ادھر، اللہ اہل اسلام کو کامگاری عطا کرے گا اور اسلام کو علو حاصل ہوگا۔  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے دہرے داماد، رسول اللہ کے حکم سے مکہ کے اک  
آدمی کے ہمراہ مکہ مکرمہ گئے اور وہاں کے سرداروں اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ  
وسلم کے حوالے سے اطلاع دی۔

مکہ والے اک رائے ہو گئے کہ اس سال مکہ مکرمہ سے دور رہو اور عمرے کے ارادے کو دل سے  
دور کرو! ہاں اگلے سال آ کر عمرہ ادا کرو اور داماد رسول سے کہا کہ اگر ارادہ ہو، دار اللہ کا دور کر لو!  
مگر داماد رسول حاکم سوم کو کہاں گوارہ کہ اللہ کا رسول دار اللہ کے دور سے محروم رہے اور وہ اس  
اکرام و سردور کو حاصل کرے؟۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے دہرے داماد وہاں روک لئے گئے اور ادھر اہل اسلام کسی  
طرح اطلاع ملی کہ داماد رسول مارے گئے۔

حاکم سوم کے صلہ دم کے واسطے اہل اسلام کا رسول اللہ سے عہد  
سرور عالم کو اس کی اطلاع ہوئی، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کو کمال  
صدمہ ہوا اور کہا کہ دہرے داماد کا صلہ دم لے کر ہی وہاں سے راہی ہوں گے اور وہاں سمرہ کے  
سائے آئے اور عام صدادی:

”ہر وہ آدمی کہ اللہ کے رسول کے ہمراہ حوصلہ وری سے لڑائی کے لئے آمادہ  
ہے، آگے آئے اور وہ رسول اللہ سے عہد کرے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
کل رسلہ وسلم کے ہمراہ ہر طرح سے لڑے گا اور دل کھول کر معرکہ آراء  
ہوگا۔“

۱۔ بیت الرضوان یعنی وہ بیعت جس سے صحابہ کرام کیلئے اللہ تعالیٰ کی عام رضا کا اعلان قرآن کریم میں ہوا۔ (ہادی عالم،  
ص: ۲۹۴) ۲۔ سمرہ، نیکر کا وہ درخت جس کے نیچے بیٹھ کر آپ نے بیعت لی (ایضاً بحوالہ سیرت مصطفیٰ، ص: ۲۳۰، ج: ۲)

سارے لوگوں سے اول رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے اک دلدادہ، اسدی آگے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے معرکہ آرائی کا عہد کر کے لوٹے۔ سارے اہل اسلام کھڑے ہوئے اور اک اک کر کے سارے لوگ عہد کر مسرور ہوئے، دہرے داماد کے لئے کلام ہوا: ”اس کے لئے اس طرح کا عہد اللہ کا رسول ہی کرے گا۔“

ہمدوموں اور مددگاروں کے اسی عہد کے لئے کلام الہی وارد ہوا اور اس عہد کے حامل سارے اہل اسلام کو وہ اکرام ملا کہ دوسرے لوگ اس سے محروم رہے۔ اس کلام الہی سے اس امر کی گواہی ملی کہ اللہ مالک الملک عہد کاروں سے مسرور ہوا اور اللہ کو سارے اہل اسلام کے دلوں کا حال معلوم ہے اور اہل اسلام کے لئے دل کا سرور وارد ہوا اور اس کے صلے، اللہ کی درگاہ سے اک عرصہ ادھر اک کامگاری عطا ہوئی اور اموال کامگاری ملے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے دہرے داماد کسی طرح مکہ والوں سے الگ ہو کر رو و درگاہ آگئے اور رسول اکرم سے آئے اور آ کر رسول اکرم سے عہد کر کے اس اکرام کے حصہ وار ہوئے۔<sup>۲</sup>

مال کار اہل مکہ صلح کے لئے آمادہ ہو گئے، معاہدہ صلح کے امور طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم اہل اسلام کو لے کر سوائے معمرہ رسول لوٹ گئے۔

اس کے آگے کئی دوسرے معرکے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے

قرآن کریم کی یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ ابایعوا بک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینة علیہم و اتاہم فتحا قریبا و ما عنہم کثیرة و یاخذونہا و کان اللہ عزیزا حکیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جس وقت کہ وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اور اللہ ان کے دلوں کا خلوص معلوم ہو گیا، اللہ نے ان پر سکینت نازل کی اور انعام میں قریبی فتح عطا فرمائی اور بہت سے اموال غنیمت عطا فرمائے، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ (ہادی عالم ہس: ۲۹۵) ۲ (ایضاً۔) ۲

۷۔ ھ میں غزوہ خیبر پیش آیا پھر ۸۔ ھ میں فتح مکہ ہوا، اسی سال ہوازن کی جنگ ہوئی جو غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عثمانؓ ان تمام معرکوں میں شریک رہے۔ (سیر الصحاب، ج ۱۱، ص: ۱۸۳)

دہرے داماد، ہر ہر معر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔

## معر کے عشرہ اور اسلام کے حاکم سوم کی داد و عطا

ملک روم کے حاکم کو کسی طرح اطلاع ملی کہ محمدؐ اس دارمادی سے دارالسلام کو راہی ہوئے اور اس ملک کے لوگ مال و طعام سے محروم ہو گئے، اس لئے اگر اس ملک آ کر حملہ آور ہو گئے، کامگار ہو گئے۔

حاکم روم ہر کس کا دل ملک و مال کی طمع سے معمور ہوا اور وہ اک عسکر طرار اکٹھا کر کے آمادہ ہوا کہ معمورہ رسول آ کر حملہ آور ہو۔

ادھر ملک روم کے کسی کارواں کے لوگوں سے سرور عالم کو معلوم ہوا کہ حاکم روم حملے کا ارادہ کر رہا ہے، سرور عالم کا حکم ہوا کہ عسکر اسلام ملک روم کے رحلے کے لئے آمادہ ہو!

وہ سال اہل اسلام کے لئے کڑا رہا، اس لئے کہ اس سے اگلے سال گراں سالی رہی اور وہ موسم کشتائی کا موسم رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ اس معر کے کے لئے لوگ کھلے دل سے اموال دے کر اللہ کے آگے کامگار و مسرور ہوں!

ہمد مکرم اور اسلام کے حاکم اول گھر کا سارا مال اور عمر مکرم گھر کا آدھا مال لے کر آئے۔<sup>۲</sup>

رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے دہرے داماد اک آسودہ حال سوداگر رہے اور اس کا اک سوداگری کا کارواں منانک روم سے مالامال ہو کر لوٹا، اس لئے وہ اٹھے اور کہا کہ وہ عسکر اسلام کے سہ حصے کر کے اک حصہ کو مکمل اسلحہ اور اس کے ہر ہر آدمی کو لدی لائی سواری دے گا۔<sup>۳</sup>

۱۔ غزوہ تبوک کو تخت آزمائشی حالات کی وجہ سے غزوہ عشرہ بھی کہتے ہیں۔ عشرہ کے معنی تنگی اور تکلیف کے ہیں۔ (ہادی عالم) ۲۔ (ایضاً، ص: ۳۸۴) ۳۔ اسی زمانے میں حضرت عثمان غنیؓ کا تجارتی قافلہ ملک شام سے نفع کثیر کے ساتھ واپس آیا تھا، اس لئے انہوں نے اک تہائی فوج کے جملہ اخراجات تنہا اپنے ذمہ لے لئے۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۸۳)

ولد سعد سے مروی ہے کہ معرکہ عسره کے لمحے عسکر اسلام کا عدد دس دس سو کے دس گروہ  
کم آدھا لاکھ رہا۔<sup>۱</sup>

اہل مطالعہ کو معلوم ہوا کہ دہرے داماد کا مال عسکر اسلام کے دس دس سو کے دس  
رسالوں سے سو الوگوں کو ملا اور ہراک کے لئے رسی اسی کے مال سے لی گئی۔ اس کے علاوہ دس  
سو سواری تھیں اور دس کم اسی گھوڑے اور رسد کے لئے اموال دئے۔

ہادی اکرم سارے اموال کا مطالعہ کر کے کمال مسرور ہوئے اور مسکرا مسکرا کر دھمکتے  
کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر الٹا الٹا کر کہا:

”اس سحر سے آگے داماد رسول کا ہر عمل اس کو گھانے سے دور رکھے گا۔“  
(رواہ احمد و حاکم)

ہادی اکرم کا رحلہ و داع اور رسول اللہ کا دہرا داماد  
وداع مکہ کو دس سال ہوئے، ہادی اکرم کا رحلہ و داع اسی سال ہوا، رسول اکرم کے  
دہرے داماد رسول اللہ کے ہمراہ رہے۔

رسول اکرم کے وصال مسعود کے آگے سر رسول، ہمد مکرم حاکم اسلام ہوئے، اس  
لمحے داماد رسول اہل الرائے کے سر کردہ آدمی رہے۔

۱۔ لشکر اسلام کی تعداد چالیس ہزار تھی، جن میں تیس ہزار پیادے اور دس ہزار سوار شامل تھے۔ (ایضاً) ۲ گویا حضرت  
عثمان نے دس ہزار سے زیادہ فوج کیلئے سامان مہیا کیا اور اس اہتمام کے ساتھ کہ اس کیلئے ایک ایک تسمہ تک کے  
روپے سے خریدا گیا۔ (ایضاً) ۳ ایک ہزار اونٹ۔ ۴ حضرت عثمان غنی نے ایک ہزار دینار دیئے آپ اس فیاضی سے اس  
قدر خوش تھے کہ دیناروں کو دست مبارک سے اچھالتے تھے اور فرماتے تھے: ماضی عثمان ماعمل بعدہذا الیوم.  
ترجمہ: آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا (ایضاً، بحوالہ مستدرک حاکم، ج: ۳، ص: ۱۰۲، ترمذی،  
ابواب المناقب: باب من قب عثمان)

## دہرے دامادِ رسول کی مدح سسر رسول سے

ہمد مکرّم کے وصال کے آگے ہمد مکرّم کے ارادے اور اہل اسلام کی رائے سے عمر مکرّم، اولی الامر ہوئے، اس کا حال اس طرح ہوا کہ ہمد مکرّم کے وصال سے اک عرصہ ادھر ہمد مکرّم کا ارادہ ہوا کہ لوگوں کے واسطے اک رسالہ اس طرح کا لکھوادوں کہ وہ اسلام کے اگلے حاکم کے اسم کا حامل ہو کہ لوگوں کے لئے حاکم اسلام کا مسئلہ سہل ہو، اس لئے ہمد مکرّم اور اسلام حاکم کے اول کا دامادِ رسول حاکم سوم کو حکم ہوا کہ ہمارے کلام کو لکھو!

حاکم سوم آئے اور کلام کا اک حصہ لکھا اس سے آگے کہ ہمد مکرّم اس آدمی کا اسم لکھوائے کہ وہ لوگوں کے واسطے اسلام کا اگلا حاکم ہوگا، درد کی کسک سے حواس گم کر گئے۔

دامادِ رسول اسلام کے حاکم سوم کو الہامی طور سے معلوم ہوا کہ وہ آدمی کہ اگلا حاکم اسلام ہوگا، وہ عمر مکرّم ہی ہے، اس لئے عمر مکرّم کا اسم لکھ کر رک گئے، کئی لمحے اسی طرح رہ کر ہمد مکرّم اٹھے اور کہا: ”ہمارے آگے کہو کس طرح لکھا ہے؟“

حاکم سوم سے عمر مکرّم کا اسم مسموع کر کے کمال مسرور ہوئے اور رسول اللہ کے دہرے داماد کی مدح کی۔ اس کے آگے عمر مکرّم حاکم اسلام ہوئے اور دس سال حاکم اسلام رہ کر دارالسلام کو سدھارے اور دو کم آٹھ لوگوں کا اسم لے کر کہا:

”دو اور اک سحر لگا کر رائے سے کسی اک کو حاکم اسلام کر لو!“

عمر مکرّم کے امور لحد کو مکمل کر کے دو کم آٹھ لوگوں کا گروہ اکٹھا ہوا کہ اولی الامر کی کا مسئلہ حل

حضرت ابو بکر صدیقؓ استخلافِ عمرؓ کا وصیت نامہ حضرت عثمان غنیؓ سے لکھوا رہے تھے، دورانِ کتابت کسی خلیفہ کا نام لکھانے سے قبل حضرت ابو بکر صدیقؓ پر غشی طاری ہوگئی۔ حضرت عثمانؓ نے اپنی عقل و فراست سے سمجھ کر اپنی طرف سے حضرت عمر فاروقؓ کا نام لکھ دیا، حضرت ابو بکر صدیقؓ کو ہوش آیا تو کہا کیا لکھا ہے پڑھ کر سناؤ؟ انہوں نے سنا شروع کیا اور جب حضرت عمرؓ کا نام لیا تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اختیار اللہ اکبر پکارا اٹھے اور حضرت عثمانؓ کی اس فہم فراست کی بہت تعریف و توصیف کی۔<sup>۲</sup> (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۸۴)

ہو، سارے لوگوں سے آگے والد محمدؑ کھڑے ہوئے اور کہا کہ کوئی ہے کہ کہے کہ وہ اولی الامری والے معاملے سے الگ ہے اور کسی کے لئے وہ اولی الامری کا حکم کر دے؟ اس کا حکم مسلم ہوگا۔ اس کلام کو مسوع کر کے سارے لوگ رد کلام سے رکے رہے۔

کئی لمحے ٹھہر کر والد محمدؑ کا کلام ہوا کہ وہ اولی الامری والے معاملہ سے الگ ہے اور آمادہ ہے کہ کسی اک کے لئے اولی الامری کا حکم کرے، مگر عہد کرو کہ حکم عدولی سے دور رہو گے!

اس کلام کو مسوع کر کے سارے لوگوں کا رد کلام ہوا کہ ہم آمادہ ہوئے، مگر ہدم علی کریمہ اللہ رد کلام سے رکے رہے۔

والد محمدؑ کا کلام ہوا:

”اے علی! کلام کرو!“

ہدم علی کریمہ اللہ کا کلام ہوا کہ آمادہ ہوں، مگر عہد کرو کہ اسلام اور اہل اسلام ہی کی اصلاح کو آگے رکھ کر حکم کرو گے! کہا:

”ہمارا عہد ہے کہ اسی طرح ہوگا۔“

اس کلام کو مسوع کر کے ہدم علی کریمہ اللہ کا کلام ہوا کہ کسی کے لئے اولی الامری کا حکم کرو، ہم سارے حکم عدولی سے دور ہوں گے!

مال کارا گلی سحر، سحر کی عماد اسلام ادا کر کے والد محمدؑ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ لوگو! حاکم اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہرے داماد ہوں گے۔

لوگ آگے آئے اور اک اک کر کے عہد کر کے لوٹے۔ ہدم علی کریمہ اللہ اول عہد سے رکے

۱۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ (صحابہ کرام انسائیگیو پیڈیا) حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ کوئی ہے جو خلافت سے دست بردار ہو جائے تو اس کو یہ حق ملے گا کہ وہ جس کیلئے بھی خلافت کا حکم کریگا دوسرے اس کا حکم مانیں گے؟ بالآخر عبدالرحمن بن عوفؓ خود ہی خلافت سے دست بردار ہو گئے اور فرمایا کہ میں انتخاب خلیفہ کے کام کو انجام دینے کیلئے تیار ہوں۔ (تاریخ اسلام، اکبر شاہ، ج: ۱، ص: ۳۷۶)

اور ادھر سے ہٹے، مگر معمولی عرصہ ٹھہر کر دوڑ کر آئے اور عہد کر کے لوٹے۔  
اس طرح محرم کی دو اور دو کورسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے دہرے داماد مسلمہ طور سے  
سارے اہل اسلام کے حاکم ہو گئے۔ (اللہ اس سے مسرور ہو)

### اسلام کے حاکم سوم کی درگاہ کا اول معاملہ

عمر مکرم کے وصال سے کئی سحر ادھر والد لؤلؤ اک دھاری دار آلے کے ہمراہ کسروی  
سردار کے آگے وارد ہوا، ادھر اک مملوک روح اللہ رسول کے مسلک کارا ہر و اس سردار کا ہمراہی  
رہا۔ والد لؤلؤ کوئی لمحے ہر دوسے ہم کلام رہا۔

اس گروہ کی ہم کلامی کا مطالعہ کر کے حاکم اول کا لڑکا محمد ادھر راہی ہوا، والد لؤلؤ کو معلوم ہوا کہ  
محمد ولد حاکم اول کا ارادہ ادھر ہی کا ہے، وہ اٹھا اسی لمحے اس کا دھاری دار آلہ گرا، والد لؤلؤ  
کو دا اور اس کو اٹھا کر آگے رواں ہوا۔

اس لمحے حاکم اول کا لڑکا محمد، ہر طرح کے وساوس سے دور رہا، مگر عمر مکرم کے وصال کے آگے  
معلوم ہوا کہ وہ دھاری دار آلہ کہ عمر مکرم اس سے ہلاک ہوئے، وہی ہے کہ کئی سحر آگے  
والد لؤلؤ اس کا حامل رہا۔

حاکم اول کا لڑکا اٹھا اور والد لؤلؤ، کسروی سردار اور مملوک کی ہم کلامی اور دھاری  
دار آلے کا حال لوگوں کے آگے کہا۔ عمر مکرم کے اک لڑکے کا دل صلہ دم کی آگ سے معمور  
ہوا، وہ اٹھا اور مصمام کے وار سے کسروی سردار کو گھائل کر کے رہا، سردار گھائل ہو کر گرا، عمر مکرم

حضرت علیؑ کو اول اس نظارے سے کچھ دل گرفتگی ہوئی اور مسجد سے اٹھ کر باہر جانے لگے، لیکن پھر کچھ خیال  
آیا تو فوراً بڑی عجلت و بے تابئی کے ساتھ صفوں کو چیرتے ہوئے بڑھے اور حضرت عثمان غنیؓ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ (تاریخ  
اسلام، اکبر شاہ، ج: ۱، ص: ۳۷۸) ہرمزان: ۳۔ بھینہ عیسائی غلام: ۳۔ ابولؤلؤ، ہرمزان اور عیسائی غلام بھینہ سے باتیں  
کر رہا تھا، محمد بن ابوبکرؓ کو دیکھ کر اٹھ کر چل دیا، اٹھتے وقت اس کا خنجر نیچے گرا، اس نے فوراً اس کو اٹھا لیا یہ سارا منظر محمد بن  
ابوبکرؓ نے دیکھ لیا۔ (تاریخ اسلام، اکبر شاہ، ج: ۱، ص: ۳۷۹) حضرت عبید اللہ بن عمرؓ نے انتقام۔



کالڑکا مملوک کی ہلاکی کے واسطے ادھر دوڑا، مگر اس کی ہلاکی سے اول ہم سعد آگے آگئے اور ولد عمر کو محصور کر کے ہدم رومیؑ کے آگے لائے۔ ہدم رومی اک اور دوسرے کے لئے حاکم اسلام ہوئے، اس لئے اس کا حکم ہوا اس کو محصور کر دو! وہ آدمی کہ اسلام کا حاکم ہوگا وہی اس مسئلے کو حل کرے گا۔

ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے دہرے داماد حاکم اسلام ہوئے، سارے معاملوں سے اول ولد عمر کا معاملہ اسلام کے حاکم سوم کے آگے ہوا۔

داماد رسول حاکم سوم کا ولد عمر سے سوال ہوا کہ کس رومی سردار، ولد عمر ہی کی صحمام سے ہلاک ہوا ہے؟ کہا: ہاں!ؑ

اسلام کے حاکم سوم کا لوگوں سے کلام ہوا: لوگو! ہم کو اس مسئلے کے حل کے واسطے رائے دو! داماد رسول علی کی رائے ہوئی کہ ولد عمر کے سر سردار کسریٰ کا لہو ہے اس لئے ولد عمر کو مار دو! مگر عمر ولد عاص کی رائے اور ہوئی، اس کا کلام ہوا کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اک دوسرے ہی ہوئی، کہ اس کے والد مارے گئے۔ کہاں کا عدل ہے کہ اس کو ہلاک کر دو؟ مری رائے ہے کہ اس کی ہلاکی

۱۔ حضرت صہیب رومیؑ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے عبید اللہ بن عمرؓ کو گرفتار کر لیا اور اسکو عارضی خلیفہ حضرت صہیب رومیؑ کے آگے لے گئے۔ (ایضاً) انتہائی غور کا مقام ہے کہ صحابہ کرامؓ اسلامی تعلیمات پر کس طرح سختی سے عمل پیرا تھے کہ ایک طرف مسلمان ہے دوسری طرف عیسائی، مگر حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ کوئی مسلمان خواہ وہ خلیفہ رسول عمرؓ کا فرزند ہی کیوں نہ ہو، کسی عیسائی پر بھی ظلم کرے، فوراً اس کو گرفتار کر لیا، اس سے بڑھ کر قابل غور امر یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کی شہادت کے بعد تین دن انتخاب خلیفہ میں گنگے یہ مدت خواہ قلیل ہی سی مگر صحابہ کرامؓ نے اپنا عارضی خلیفہ رومی باشندے حضرت صہیب رومیؑ کو منتخب فرمایا۔ سبحان اللہ! (رضی اللہ عنہم اجمعین) از مؤلف۔

۲۔ حضرت عثمان غنیؓ نے حضرت عبید اللہ بن عمرؓ سے پوچھا کہ تم نے ہی ہرمزان قتل کیا ہے؟ حضرت عبید اللہؓ نے اقرار کر لیا۔ (تاریخ اسلام، اکبر شاہ، ج: ۱، ص: ۳۷۹)

سے دور رہو! کئی لوگ ہمدوم کی رائے کے ہم رائے ہوئے۔

حاکم سوم کے واسطے مسئلے کا حل گراں ہوا، مگر اسی لمحہ کہا: ولد عمر کا مسئلہ عمر مکرم اور ہمارے دور کے علاوہ کا ہے، اس لئے اس مسئلے کا حل ہمارے سر کہاں؟ اس کے آگے اس مسئلے کے حل کے واسطے اک عمدہ سعی کی۔<sup>۲</sup>

وہ اس طرح کہ داماد رسول حاکم سوم ولد عمر کے ولی ہوئے اور اس کے مال دم کی ادائے گی کر دی۔ سارے لوگ اس عمل سے کمال مسرور ہوئے اور ولد عمر کو صلہ دم سے رہائی ملی۔

### علو اسلام اور کامگاری کے احوال

عمر مکرم کا عہد، عہد کامگاری رہا، اس دور کو روم، مصر اور ملک کسریٰ ممالک محروسہ کا حصہ ہوئے، عمر مکرم ملکی کارواں کے لئے عمدہ اصول دے کر گئے، اس لئے حاکم سوم کے لئے راہ ہموار رہی، وہ ہمدوم مکرم کا سالنامہ دل لے کر، عمر مکرم کے ملکی اصولوں کے عامل رہے، اک سال کا عرصہ اسی طرح مکمل ہوا۔ ہاں اک ہمدوم رسول<sup>۳</sup> کو اس کے عہدے سے ہٹا کر ادھر ہمدوم سعد کو والی و حاکم طے کر کے کہا:

”عمر مکرم کا ارادہ اسی طرح کار رہا۔“

۱ صحابہ کرامؓ کی رائے چونکہ مختلف تھی، اس لئے سیدنا عثمان غنیؓ شش و پنج میں مبتلا ہو گئے، مگر پھر فرمایا: یہ واقعہ نہ حضرت عمرؓ کے عہد خلافت کا ہے اور نہ میرے عہد خلافت کا، کیونکہ میرے خلیفہ ہونے سے پہلے یہ واقعہ ظہور میں آچکا تھا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔<sup>۲</sup> سیدنا عثمان غنیؓ نے خود عید اللہ بن عمرؓ کا ولی بن کر اپنے پاس سے اس کی دیت ادا کر دی اور منبر پر بیٹھ کر ایک پراثر تقریر کی۔ تمام لوگ اس فیصلے سے خوش ہو گئے۔ (تاریخ اسلام، اکبر شاہ، ج: ۱، ص: ۳۸۰) ۲ مغیرہ بن شعبہؓ۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو مغیرہ بن شعبہؓ کی جگہ کو فز کا گورنر مقرر فرمایا، لوگوں نے اس تقریر اور برطرفی کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: مغیرہ کو کسی خطا پر معزول نہیں کیا گیا، بلکہ میں نے یہ انتظام، وصیت فاروقی کے مطابق کیا ہے، کیونکہ حضرت فاروق اعظمؓ اپنے منشاء کو مجھ سے فرما چکے تھے۔ (تاریخ اسلام، اکبر شاہ، ج: ۱، ص: ۳۸۰)

اسی دور کو وہ ملکت کہ ہمدم سعد اس کے حاکم ہوئے، اس کے دارالمنال کے والی ولد مسعود<sup>۲</sup> ہے،  
 اک سحر کا حال ہے کہ ہمدم سعد<sup>۳</sup> دارالمنال کے والی، ولد مسعود کے آگے آئے اور کہا:  
 ”اس کو دارالمنال سے ادھار دے دو! لوٹا دوں گا۔“

ولد مسعود، حاکم سعد کے حکم کے عامل ہوئے، اک عرصہ ٹھہر کر ولد مسعود ہمدم سعد کے آگے  
 اور کہا: ”وہ ادھار لوٹاؤ!“

ہمدم سعد کا رد کلام ہوا کہ مال سے محروم ہوں، کہاں سے ادائے گی کروں؟  
 اک دوسرے کی صدا<sup>۴</sup> اٹھی اور ماحول مکدر ہوا اور معاملہ اسلام کے حاکم سوم کے آگے ہوا، حاکم  
 سوم کو اولی الامر ہوئے اک سال کا عرصہ ہوا، اگلے سال<sup>۵</sup> حاکم سوم کے حکم سے ہمدم سعد عہدے  
 سے ہٹائے گئے اور اس ملک کا حاکم اک دوسرا آدمی<sup>۶</sup> ہوا اسلام کے حاکم سوم کو اولی الامر ہوئے  
 اک سال مکمل ہوا وہ سال<sup>۷</sup> معرکوں سے عاری رہا۔

### اگلے سال کے معرکے

حاکم سوم کو اولی الامر ہوئے دوسرا سال ہے اس سال معمولی معرکے ہوئے۔

### اہل روم سے معرکہ

عمر مکرم کے وصال کی اطلاع مسوع کر کے حاکم روم کا ارادہ ہوا کہ اہل اسلام کے  
 اک معاہدہ<sup>۸</sup> ملک آ کر حملہ آور ہو کر اس کا مالک ہو، اس لئے اس کے حکم سے اک رومی عسکر حملہ  
 آوری کا ارادہ کر کے ساگر کی راہ<sup>۹</sup> سے اہل اسلام کے معاہدہ ملک کے ساحل وارد ہوا۔

۱۔ کوفہ۔ ۲۔ عبداللہ بن مسعود۔ ۳۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی کسی ضرورت کی غرض سے بیت المال سے قرض  
 لیا تھا۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۸۲) حضرت سعد بن ابی وقاص باوجودیکہ کوفہ کے گورنر تھے، مگر ان کے پاس اتنے  
 پیسے بھی نہ تھے کہ وہ اپنا قرض ادا کر پاتے ۵۔ بات بڑھ گئی۔ ۶۔ یعنی ۲۵۔ ۷۔ میں۔ ۸۔ ولید بن عقبہ بن ابی  
 معیط۔ ۹۔ یعنی ۲۳۔ ۱۰۔ میں کوئی اہم اور قابل تذکرہ واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۸۰)۔ یعنی  
 ۲۵ھ ۱۱۔ اسکندریہ۔ ۱۲۔ اسکندریہ راستہ۔ رومی فوج جہازوں کے ذریعہ اسکندریہ کے ساحل پہنچی تھی۔

اہل اسلام اس اطلاع کو لے کر ادھر آئے، راہ کے اک محل عسکر روم اور عسکر اسلام کا ٹکڑا ڈھوا اور معرکہ عام ہوا، اس معرکہ آرائی سے عسکر اعداء کا سالارا اعلیٰ ہلاک ہوا۔ اس سے عسکر روم حوصلہ ہارا اور رسوائی کو گلے لگا کر دوڑا۔ کئی رومی واصل دارالآلام ہوئے، عسکر اسلام کے سالارا اعلیٰ عمرو ولد عاص معاہد ملک کے لوگوں کے آگے آئے اور وہ گھائے کہ لوگوں کو عسکر روم سے ملے اس کی ادائے گی کر کے لوٹے۔<sup>۱</sup>

### اہل رے و ہمدان کی حکم عدولی

عمر مکرّم کے وصال کا حال مسوع کر کے ہی اہل روم کو اہل اسلام کے معاہد ملک کی حملہ آوری کا حوصلہ ہوا، اسی اطلاع کو لے کر اہل رے اور اہل ہمدان حکم عدولی کا علم لے کر اٹھے۔

اسلام کے حاکم سوم کو اس کی اطلاع ملی، والد سموسی اور دو اور مسلم سرداروں کو حاکم سوم

کا حکم ہوا:

”ادھر کے لوگوں کو حکم عدولی سے دور رکھو!“

مسلم سردار اسی حکم کے عامل ہوئے اور معمولی معرکہ آرائی سے لوگ حکم عدولی سے رک گئے۔

### عسکر روم سے معرکہ اور کامگاری

رسول اکرم کے سالے کے حکم سے ولد مسلمہ اہل روم کے ممالک محروسہ کے اک

۱۔ حضرت عمرو بن عاص نے رومیوں کو بھگا کر اسکندریہ اور نواح اسکندریہ کے باشندوں کے تمام ان نقصانات کی تحقیق کروائی جو رومی فوج کے ذریعے ہوا تھا، ان تمام نقصانات کو حضرت عمرو بن عاص نے پورا کیا کیونکہ وہ رومیوں کی حفاظت اور ان کو نقصانات سے بچانے کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۸۱) اسکندریہ۔  
 ۲۔ حضرت ایوبی اشعری، براء بن عازب اور قرط بن کعب کو حضرت عثمان غنی نے ان بغاوتوں کے فرو کرنے پر مامور فرمایا۔ (تاریخ اسلام، ج: ۳، فتح آرمینیا۔ سیدنا امیر معاویہؓ۔ حبیب بن مسلمہ۔

ملک کی کامگاری کے واسطے عسکر اسلام کے ہمراہ ادھر گئے، رومی لوگ طوعاً و کرہاً مال صلح کی ادائے گی کے لئے آمادہ ہو گئے۔

اس اطلاع سے حاکم روم کا دل صلح کی آگ سے معمور ہوا۔

اس کے حکم سے کئی ممالک کے عساکر اکٹھے ہوئے اور دس دس سو کے اسی گروہوں کے عسکرِ طرار، ہمد مسلمہ کے عسکر سے معرکہ آرائی کے واسطے رواں ہوا۔

ہمد مسلمہ کے حکم سے اس حال کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے کو دی گئی، اُس کے واسطے سے حاکم سوم کو عسکر گراں کا حال معلوم ہوا۔

حاکم سوم کا اک مسلم سردار کو حکم ملا کہ دس دس سو کے دس گروہوں سے ہمد مسلمہ کی

مدد کرو!

وہ اسی حکم کے عامل ہوئے اور اک عسکر کے ہمراہ ہمد مسلمہ کے عسکر سے آئے اور اکٹھے ہو کر عسکر روم سے معرکہ آراء ہوئے۔ اللہ کے کرم سے سارے ملک کی کامگاری حاصل کر کے لوٹے۔

## مصر کے احوال

ولد سعد نے کہ وہ والد سرح کے اسم سے معلوم ہوئے، وہ اسلام کے حاکم سوم کے دودھ

کے واسطے سے ولدا م رہے۔

رسول اکرم کے عہد کو اسلام لاکر اسلام سے روگرداں ہو گئے، مگر دہرا کر دل سے اسلام لائے اور ساری عمر مسلم رہے۔

وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہرے داماد کے حکم سے مصر اور اس کے دارالمال کے

۱۔ چارونجا چارہ قیصر قسطنطین۔ ۲۔ اسی ہزار بیسیدنا امیر معاویہؓ۔ ۳۔ گورنر کوفہ ولید بن عقبہ۔ ۴۔ حضرت عبداللہ بن سعد المعروف بہ ابن ابی سرح حضرت عثمان غنیؓ کے رضائی بھائی تھے۔ (تاریخ اسلام، ج ۱، ص ۳۸۳)

والی ہوئے اور عمرو ولد عاص عسکری امور کے والی رہے،<sup>۱</sup> اس دعویٰ سے ملکی اور عسکری سردار اک دوسرے سے دورائے ہوئے، اس سے ماحول مکدر ہوا۔ حاکم سوم کو اس کی اطلاع ملی، حاکم سوم کے حکم سے عمرو ولد عاص عسکری عہدے سے الگ ہوئے اور ولد سعد ملکی و عسکری عہدوں کے مالک ہوئے۔<sup>۲</sup>

گو کہ ولد سعد حوصلہ ور گھڑ سوار رہے مگر معرکہ آرائی کے اطوار کا علم عمرو ولد عاص سے کم ہی رہا اور وہ اس سے محروم رہے کہ اہل مصر کے دلوں کو گھبر کرے اور اہل مصر کو اس سے صدمہ ہوا کہ عمرو ولد عاص معطل کئے گئے، اس لئے وہ ولد سعد کی حکم عدولی کے لئے آمادہ ہوئے۔ اس حال کا مطالعہ کر کے حاکم روم<sup>۳</sup> کا ارادہ ہوا کہ اک عسکر کو مصر سے ملے ہوئے اک ملک کی کامگاری کے واسطے رواں کرے، اس لئے اس کے حکم سے اہل روم کا اک عسکر طرار ساگر کی راہ سے اس ملک کے ساحل آنگا اور معمولی سے لڑائی لڑ کر اس ملک کا مالک ہوا۔

اسلام کے حاکم سوم کو اس حال کی اطلاع ہوئی، اس کے حکم سے عمرو ولد عاص دہرا کر حاکم مصر ہوئے<sup>۴</sup> اور اسی لمحے عسکر روم سے معرکہ آرائی کے واسطے آمادہ ہوئے اور عسکر روم سے اس طرح لڑائی لڑی کہ رومی حوصلہ ہار گئے اور عسکر گاہ سے دوڑے اور وہ اسلامی ملک دہرا کر اہل اسلام کی ملک ہو، اس کے آگے عمرو ولد عاص دہرا کر عہدے سے معطل کئے گئے اور ولد سعد دہرا کر حاکم مصر ہوئے، اس سے عمرو ولد عاص دکھی ہوئے۔

عمرو ولد عاص کی معطلی کا حال دوسرے علماء سے اس طرح مروی ہے کہ عمر مکرم، اسلام کے حاکم دوم کے دور کو مصر کے حاکم عمرو ولد عاص رہے اور اک معمولی حصہ کی اولی الامری

۱۔ حضرت عمرو بن عاصؓ فوجی افریقہ۔ ۲۔ لا ۳۔ ۲۔ ۴۔ ۳۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔

ولد سعد کو ملی۔

مصر کے محصول کی کمی عمر کرم ہی کے دور سے محسوس کی گئی، وہی کمی حاکم سوم کے دور کو رہی، اس لئے حاکم سوم کا والی مصر عمر ولد عاص سے کلام ہوا کہ اس کمی کی اصلاح کرو! عمر ولد عاص کا رد کلام ہوا:

”دودھ والی سواری کا دودھ اس سے سوا کہاں؟“

اس لئے حاکم سوم کے حکم سے عمر ولد عاص معطل ہوئے اور ولد سعد سارے مصر کے والی ہوئے۔

ادھر کے لوگ حکم عدولی کا علم کے اٹھ کھڑے ہوئے، اس لئے حاکم سوم کے حکم سے عمر ولد عاص دہرا کر حاکم مصر ہوئے اور لوگوں کو اس حکم عدولی سے روکا۔

حاکم سوم کی رائے سے ولد سعد ملکی امور کے والی رہے اور عمر ولد عاص عسکری امور کے۔ مگر دو عملی کوٹھہراؤ کہاں؟ اس لئے ماحول مکدر ہوا۔

مال کار عمر ولد عاص عسکری عہدے سے معطل ہو کر معمورہ رسول آگئے اور ولد سعد ملکی و عسکری امور کے مالک ہوئے۔

عمر ولد عاص کے دور مصر کے محصول کا عدد دس اور دس لاکھ رہا، مگر ولد سعد کی سعی سے اس کا عدد سوا ہوا<sup>۲</sup>۔

اس حال کا مطالعہ کر کے حاکم سوم کا ہدم عمر سے کلام ہوا کہ لو! دودھ اور سوا ہوا۔ کہا: ہاں! مگر اولاد محروم رہ گئی۔<sup>۳</sup>

۱۔ حضرت عمرو بن العاص نے جواب دیا کہ اونٹنی اس سے زیادہ دودھ نہیں دے سکتی۔ (سیر الصحاب، ج: ۱، ص: ۱۸۶) حضرت عمرو بن عاص جب والی مصر تھے تو مصر کا خراج بیس لاکھ تھا حضرت عبداللہ بن سعد کی کوششوں سے چالیس لاکھ ہو گیا۔ ۲۔ جب مصر کا خراج چالیس لاکھ ہو گیا تو حضرت عثمان غنی نے حضرت عمرو بن عاص سے فرمایا: دیکھ لو! خراج اونٹنی نے زیادہ دودھ دیا... انہوں نے کہا: ہاں مگر بچے بھوکے رہ گئے۔ (ایضاً)

## اک صحرائی ملک کی کامگاری<sup>۱</sup>

ولد سعد حاکم سوم کی رائے سے اک صحرائی ملک کی کامگاری کے واسطے راہی ہوئے اور ادھر کے سرحدی رؤساء و امراء سے معرکہ آراء ہوئے، وہ مال صلح کی ادائے گی کے واسطے آمادہ ہوئے۔<sup>۲</sup>

اس کے آگے عسکر اسلام ملک کے وسطی حصے وارد ہوا، ادھر حاکم سوم کے حکم سے اک کمک معمورہ رسول سے رواں ہوئی اور مصر سے ہو کر عسکر اسلام سے آ ملی اس سے عسکر اسلام کا عدد سوا ہوا۔

## رومی لوگوں سے معرکہ<sup>۳</sup>

رومی لوگ عسکر اسلام سے معرکہ آرائی کے واسطے آئے، مگر اہل اسلام کی حوصلہ دوری کی سہارے محروم رہے۔

اور بار کر دوڑے، ادھر کی کامگاری<sup>۴</sup> حاصل کر کے عسکر اسلام صحرائی ملک وارد ہوا اور صحرائی ملک کی کامگاری حاصل کی۔

## اک اور ملک کی کامگاری<sup>۵</sup>

صحرائی ملک کی کامگاری سے اک اور ملک کی کامگاری کا درکھلا، اس لئے حاکم سوم کی رائے سے اسلامی عسکر آگے رواں ہوا اور کئی ملکوں کی کامگاری حاصل کر لی، مگر وہ ہم ادھر ہی

۱۔ فتح افریقہ: اس زمانہ میں افریقہ ایک براعظم کا نام ہے، مگر صحابہ کے دور میں افریقہ نام کی ایک ریاست بھی تھی جو طرابلس اور طنجہ کے درمیانی علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس زمانے میں افریقہ ان ملکوں کے مجموعے پر بھی بولا جاتا تھا جو آج کل براعظم افریقہ کے شمالی حصے میں واقع ہیں یعنی طرابلس، الجیریا، ٹیونس مراکو وغیرہ۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۸۳) ۲۔ فتح طرابلس۔ ۳۔ طرابلس پر قبضہ مکمل کر کے لشکر اسلام خاص ریاست افریقہ کی جانب بڑھا۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۸۳) ۴۔ فتح افریقہ۔ ۵۔ عبداللہ بن سعد نے دس ہزار کے لشکر کے ساتھ مصر سے خروج کیا اور علاقہ برقدہ میں سرحدی ریکسوں کو مغلوب کر کے جزیہ کی ادائیگی پر مجبور کیا ایضاً۔ ۶۔ اسپین کے بعض علاقے فتح کئے۔ (سیر الصحابہ۔ ج: ۱، ص: ۱۸۸)



روک دی گئی۔ ولد سعدؑ مصر لوٹ آئے اور اک دوسرا آدمیؑ صحرائی ملک کا والی طے ہوا۔

## ساگر کی مہموں کے احوال

اول اول اہل اسلام ساگر کی مہموں سے لاعلم رہے، اس لئے کہ ساگر کی مہموں سے سدا دور ہے۔

عمر مکرّم کے دور کو حاکم روم کے سارے ٹھٹھاٹ مٹھی ہوئے، اس کے ٹٹک کے سارے اہم حصے اہل اسلام کی ملک ہوئے، مگر کئی ساحلی ممالک اسی کی ملک رہے۔

## روڈس اور اس سے ملے ہوئے ملک کی کامگاریؑ

رسول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے اک سالےؑ کا عمر مکرّم کے دور سے ہی ارادہ رہا کہ وہ ساحلی ملکوں کی کامگاری کے واسطے عسکر اسلام کے ہمراہ راہی ہو، مگر عمر مکرّم آمادگی سے سدا دور ہے۔

عمر مکرّم کے وصال کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے سالے کا حاکم سومؑ سے کلام ہوا: ”اے داماد رسول! ساحلی ملکوں کی کامگاری کا ارادہ ہے۔ ساگر کی مہموں کے واسطے آمادہ ہوں۔ اس کے لئے حاکم سوم کی رائے درکار ہے اور معلوم رہے کہ ساگر کی مہموں والا معاملہ سہل ہی ہے مجال کہاں؟“ کے

اس کلام کو مسموع کر کے حاکم سوم کا رد کلام ہوا: ”اگر معاملہ سہل ہے ہماری رائے ہے کہ اک عسکر ساگر کی مہم کے واسطے راہی ہو، مگر اس عسکر کے ہمراہی وہی لوگ ہوں کہ وہ دل سے سے آمادہ ہوں“۔<sup>۱</sup>

۱۔ عبد اللہ بن سعد المعروف بـ ابن ابی سرح۔ عبد اللہ بن نافع بن عبد قیس افریقیہ کے حاکم مقرر کئے گئے۔ ۳۔ بحری جنگیں۔ ۳۔ قبرص۔ ۵۔ امیر معاویہؓ۔ ۶۔ سیدنا عثمان غنیؓ۔ ۷۔ حضرت امیر معاویہؓ نے سیدنا عثمان غنیؓ کو اطمینان دلایا کہ بحری جنگ کو جس قدر خوفناک سمجھا جاتا ہے، اس قدر خوفناک نہیں ہے۔ (سیر الصحاب، ج: ۱، ص: ۲۸۹) ۸۔ سیدنا عثمان غنیؓ نے اجازت تو دی، مگر فرمایا کہ اس مہم میں اسی کو شریک کیا جائے جو اپنی خوشی سے شرکت کرے۔ (ایضاً)

اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے سالے کی سعی سے اک گروہ ساگر کی مہم کے واسطے آمادہ ہوا۔ ام حرام اور اس کا مرد اسی گروہ کے ہمراہی ہوئے۔

اہل مطالعہ کو علم ہوگا کہ ساگر کی مہم کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کی آمادگی معلوم رہی۔

علماء کرام سے مروی ہے کہ رسول اکرمؐ اک سحر آدھی سحر کے لمحے ام حرام کے گھر آئے اور آکر سو گئے اک عرصہ سو کر اٹھے اور مسکرائے، ام حرام کا سوال ہوا:

”اے اللہ کے رسول! کس لئے مسکرا رہے ہو؟“

رسول اکرمؐ کا رد کلام ہوا: ”ہم کو سونے ہوئے معلوم ہوا کہ اہل اسلام کا اک گروہ امراء و رؤساء کی طرح ٹھاٹ سے ساگر کے راہوار لٹکا سوار ہو کر رواں دواں ہے۔ اے ام حرام! وہ سارا گروہ دارالسلام والا ہوگا۔“

ام حرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم سے کلام ہوا:

”اے اللہ کے رسول! دعا کرو کہ ام حرام اسی گروہ کے ہمراہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کا رد کلام ہوا کہ ام حرام اسی گروہ کے ہمراہ ہوگی۔“

آگے مسطور ہوا کہ ام حرام اور اس کا مرد اس گروہ کے ہمراہ ساگر کی مہم کے واسطے راہی ہوئے۔ راہ کے اک محل ام حرام کا گھوڑا کودا، اس سے وہ گھوڑے سے گری اور گر کر دارالسلام کو سدھار گئی اور اس کو ادھر ہی مٹی دی گئی اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے کلام کا اک اک کلمہ مکمل ہو کے رہا۔

دوسرا عسکر اسلام آگے رواں ہوا، اللہ کا حکم اس طرح ہوا کہ اس ساگر والی مہم کا سالار اعلیٰؑ راہ کے اک محل راہی ملک عدم ہوا، لوگوں کی رائے سے اک دوسرا آدمی کھنسالار

عسکر ہوا اور عسکر اسلام صحرائی ملک وارد ہوا۔

حاکم روم<sup>۱</sup> کہ اسی صحرائی ملک کو دارالامارہ کئے ہوئے رہا، وہ معرکہ آرائی کے حوصلہ سے محروم ہو کر دوڑا اور وہ صحرائی ملک اہل اسلام کی ملک ہوا۔

ادھر کی کامگاری مکمل کر کے عسکر اسلام روڈس کی کامگاری کے واسطے راہی ہوا، ادھر کڑی معرکہ آرائی ہوئی۔

تال کار روڈس کی کامگاری اہل اسلام کو حاصل ہوئی۔

### والد موسیٰؑ کی معظلی

والد موسیٰؑ، عمر مکرم کے عہد سے ہی ممالک کسریٰ کے اک ملک کے والی رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہرا داماد، اولی الامر ہوا اور والد موسیٰؑ کو دو کم آٹھ سال کا عرصہ اسی طرح والی رکھا، مگر ادھر کے کئی لوگ حاکم سوم کی درگاہ آئے اور کہا والد موسیٰؑ کو اس کے عہد سے ہٹا کر ادھر کسی دوسرے آدمی کو حاکم کر دو!

اس لئے حاکم سوم کے حکم سے والد موسیٰؑ معطل ہوئے اور ولد عامرؑ اس ملک کے حاکم ہوئے۔

### موسم احرام

حاکم سوم کو حاکم اسلام ہوئے سہ کم آٹھ سال ہوئے، اس کا ارادہ ہوا کہ وہ اسی سال عمرہ و احرام کے احکام کی ادائے گی کرے، اس لئے ہمدموں اور مددگاروں کے اک گروہ کے ہمراہ سوئے مکہ راہی ہوئے۔

حاکم سوم اول ہی سے داد و عطا کے عادی رہے، اس لئے راہ کے اک مرحلے سارے کارواں کو روک کر کہا کہ ادھر ہی ٹھہرو! ہمارا ارادہ ہے کہ سارے کارواں کو اکل و طعام سے مالا مال کروں! اس طرح سارے لوگ حاکم سوم کی داد و عطا سے مالا مال ہوئے۔

<sup>۱</sup> قسطنطین۔ ع ابو موسیٰٰ اشعریؑ۔ ع بصرہ۔ ع عبداللہ بن عامر۔ ع سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۰۹۔

راہ کے اک مرحلے اک ہمدہ حاکم سوم کے آگے لائی گئی، لوگوں کا اس ہمدہ کے لئے کلام ہوا کہ وہ حرام کاری کی عامل ہوئی ہے، اس لئے کہ وہ ہمدہ اک عرصہ دو لمبے سے محروم رہی اور اس کی دوسری عروسی کو آدھا سال ہی ہوا ہے کہ وہ اک لڑکے کی ماں ہو گئی۔

کئی لوگوں کا کلام مسموع کر کے حاکم سوم کا حکم ہوا کہ اس ہمدہ کو مرمر کے ٹکڑوں سے مار مار کر ہلاک کر دو۔<sup>۱</sup>

داماد رسول علی کریم اللہ کو اس کا علم ہوا، وہ آئے اور حاکم سوم سے کہا کہ اسلامی رو سے محال ہے کہ کوئی اس ہمدہ کو مرمر کے ٹکڑوں سے ہلاک کرے،<sup>۲</sup> اس لئے کہ کلام اللہ گواہ کہ اک ہمدہ کا عرصہ حمل کم سے کم آدھا سال ہوگا۔

کلام الہی ہے:

”اور اس کے حمل اور دودھ سے دوری کا عرصہ، ڈھائی سال ہے۔“

اور کلام الہی سے ہی معلوم ہوا ہے کہ دودھ کا عرصہ دو سال ہے۔

اللہ کا کلام ہے:

”اور ماں اولاد کو دو سال تک دودھ دے۔“<sup>۳</sup>

ڈھائی سال سے دو سال دودھ کا عرصہ ہے، ادھر حمل کا عرصہ آدھا سال رہا، اس لئے وہ ہمدہ حرام کاری کی عامل کہاں ہوئی؟

اس کلام کو مسموع کر کے حاکم سوم کا اک آدمی کو حکم ہوا کہ دوڑا اور لوگوں کو اس ہمدہ کی ہلاکی سے در رکھو! مگر اس آدمی کے ورود سے آگے ہی وہ ہمدہ مرمر کے ٹکڑوں سے ماری گئی اور ہلاک ہوئی

۱۔ نصاب شہادت اور علامات کو دیکھتے ہوئے سیدنا عثمان غنی نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ ۱۔ حضرت علیؑ نے فرمایا:

کلام اللہ کی رو سے وہ عورت بالیقین زانیہ نہیں ہے۔ وحملہ و فصالہ ثلثون شهراً۔ (الاتحاف: ۱۵)

۳۔ والوالدات یرضعن اولادھن حولین کاملین۔ (البقرہ: ۲۳۳)

حاکم سوم کو سدا اس کا ملال رہا۔<sup>۱</sup>

علماء سے مروی ہے کہ اگر لوگ اسلامی علوم کے کسی ماہر عالم کی رائے کے عامل ہوں اور وہ رائے عمدہ ہو، اس عالم کے لئے دو صلے ہوں گے اور اگر وہ رائے سوء ہو، اس کو اک صلہ مل کر ہی رہے گا۔<sup>۲</sup>

اسی سال حاکم سوم کے حکم سے حرم رسول کا احاطہ اور کھلا ہوا۔

### اک حاکم کو کوڑے اور اس کی معطلی

مکار لوگ سدا اس امر کے لئے ساعی رہے کہ مکاری کی راہ سے اسلام کو اور اہل اسلام رسوا کر کے مسرور ہوں۔ اسی سلسلے کی اک کڑی وہ ہے کہ اک اسلام ملک کے حاکم کے لئے لوگوں کا گماں ہوا کہ وہ ماءِ سکر کا عادی ہے۔

حاکم سوم کے حکم سے وہ والی لائے گئے اور لوگوں سے کہا کہ کوئی گواہ ہے؟ لاؤ! مگر محال ہوا کہ کوئی گواہی دے کہ وہ والی ماءِ سکر کا عادی ہے۔

اک عرصہ ٹھہر کر لوگوں کا کلام ہوا کہ ہاں! ہم لوگ اس طرح کے گواہ سے محروم ہوئے کہ کوئی گواہی دے کہ وہ والی ماءِ حرام کا عادی ہے مگر ہمارے آگے اس والی کو ماءِ سکر کی الٹی آئی ہے۔

مال کار حاکم سوم کا حکم ہوا کہ اس والی کو اسی کوڑے لگاؤ! مگر آدھے کوڑے لگے کہ داماد رسول علی کھڑے ہوئے اور کہا کہ رکو!

ہمد علی کا کلام ہوا کہ ہم کو معلوم ہے ماءِ سکر کے عادی کے واسطے عمر مکرم کا عمل اسی کوڑوں کا ہی ہے، مگر ہم کو اس معاملے کے واسطے اسلام کے حاکم اول کا عمل عمدہ لگا ہے۔ ماءِ سکر کے عادی کے

۱ (تاریخ اسلام ج: ۱۱، ص: ۳۹۰) ۲ فقہ کی رائے اگر درست ہو تو اس کو دو اجر ملتے ہیں اور اگر رائے غلط ہو ایک اجر

۳۔ ولید بن عقبہ۔ ۴۔ کوفہ۔ ۵۔ شراب۔

واسطے اس کا حکم اسی کوڑوں کا آدھا ہے۔<sup>۱</sup>

الحاصل حاکم سوم کی اولی الامری کو دو کم آٹھ سال ہوئے، وہ والی معطل کئے گئے اور ادھر ولد عاص والی ہوئے۔

## اک کسروی ملک کی کامگاری<sup>۲</sup>

اسلامی ملکوں کے دو سردار ولد عامر<sup>۳</sup> اور ولد عاص<sup>۴</sup> الگ الگ راہ لے کر ممالک کسریٰ کی کامگاری کے واسطے رواں ہوئے۔

ولد عاص کے ہمراہ داماد رسول علی کرمہ اللہ کے وہ دو لڑکے رہے کہ وہ دارالسلام والے لڑکوں کے سردار ہوں گے۔ اسی طرح ولد عمر<sup>۵</sup> ولد عمرو<sup>۶</sup>، ولد ولد عوام<sup>۷</sup> اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے عم مکرم کا لڑکا<sup>۸</sup> عسکر کے ہمراہ رہے۔

ولد عاص عسکر اسلام کو لے کر آگے آئے۔ اس سے اول کہ ولد عامر ادھر آئے، ولد عاص کا عسکر اعداء اسلام سے معرکہ ہوا اور اس ملک کی کامگاری حاصل کر لی<sup>۹</sup> ادھر ولد عامر عسکر اسلام کو لئے ہوئے اور آگے گئے اور کئی ملکوں کی کامگاری حاصل کر کے سوئے معمورہ رسول لوئے<sup>۱۰</sup>۔

۱۔ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ اگر چہ فاروق اعظمؓ نے شراب خور کے اسی کوڑے لگائے ہیں، مگر وہ بھی درست ہیں، لیکن صدیق اکبرؓ نے شراب خور کو چالیس کوڑے لگائے ہیں اور مجھ کو اس معاملہ میں صدیق اکبرؓ کی تقلید زیادہ محبوب ہے۔

(تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۹۰) ۲۔ فتح طبرستان۔ ۳۔ عبد اللہ بن عامر بصرے کے نئے والی۔ ۴۔ سعید بن عاصؓ۔ ۵۔ حضرت حسنؓ و حضرت حسینؓ۔ ۶۔ آپؐ کا ارشاد ہے: "الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة." ۷۔ عبد اللہ بن عمروؓ۔ ۸۔ عبد اللہ بن عمرو۔ ۹۔ عبد اللہ بن زبیر بن العوامؓ۔ ۱۰۔ عبد اللہ بن عباسؓ۔ (ایضاً ص: ۳۹۲، سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۹۱)

۱۰۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۱۹۱) ۱۱۔ عبد اللہ بن عامر نے اپنی مہم کو جاری رکھا اور ہرات، کابل اور بختگان کو فتح کرتے ہوئے نیشاپور کا رخ کیا اور بست اشندورخ، خوف، اسرا، ارغیان وغیرہ کو فتح کرتے ہوئے نیشاپور پہنچے۔ (ایضاً)

## اک ہدم رسولؐ کا حال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کا اک معمر ہدم، رسول اکرمؐ کے اک سالے، محرروچی کے ملک ٹھہرا رہا، کلام اللہ کے اک حصہ کی مراد کے واسطے اس ہدم کی رائے وہاں کے حاکم اور دوسرے لوگوں سے الگ ہی رہی کہ: کسی مسلم کے لئے روا کہاں کہ وہ مال اکٹھا کرے؟ اور وہاں کے حاکم کی رائے رہی: وہ مال کہ اس سے محروموں کو حصہ ملا ہو، روا ہے کہ مسلم آدمی اس کو اکٹھا کر کے رکھے۔

لوگوں کو اس ہدم رسول کے مسلک کا علم ہوا، لوگ آئے اور ٹھہر کر کے مسرور ہوئے۔ اس حال کی اطلاع حاکم سوم کو دی گئی، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے سالے کو حکم ہوا کہ اس ہدم رسول کو اکرام سے معمورہ رسول رواں کر دو! معمورہ رسول آکر اس کا حال اسی طرح رہا، اس لئے حاکم سوم کی رائے سے وہ ہدم معمورہ رسول سے دور اک گاؤں آ کر ٹھہرے۔

## رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کی مہر

رسول اللہؐ کی وہ مہر کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے ملوک عالم کو ارسال کردہ مراسلے مہر کئے گئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے وصال مسعود کے آگے عروس مطہرہؑ کو ملی اور حاکم اول اولی الامر ہوئے، وہ مہر اس کو دے دی، اس کے آگے وہ مہر عمر مکرم کو ملی۔

۱۔ حضرت ابوذر غفاریؓ۔ ۲۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب الیم۔ اس آیت کے معانی و مطالب میں حضرت ابوذر غفاریؓ کا میر معاویہؓ سے اختلاف تھا۔ ۳۔ حضرت ابوذر غفاریؓ نے حضرت عثمان غنیؓ کے مشورے سے مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر مقام موضع ربہہ میں سکونت اختیار کی۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۹۴) ۴۔ سیدہ عائشہ صدیقہؓ۔

عمر مکرم لے وصال کے آگے وہ مہر عمر مکرم کی لڑکی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عروس ہوئی، اس کو بیٹی۔

اس سے ہو کر وہ مہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہرے داماد اور اسلام کے حاکم سوم کو بیٹی، مگر حاکم سوم سے وہ مہر ماء طاہر کے اک گہرے گڑھے گر گئی۔<sup>۲</sup>  
حاکم سوم کے حکم سے کئی آدمی آئے اور سارے گڑھے کو ماء طاہر سے محروم و عاری کر کے رہے، مگر محال ہے کہ مہر دکھائی دے۔ مہر رسول گم ہوئی اس سے حاکم سوم کو کمال صدمہ ہوا، اسی لمحے سے حاکم سوم کے واسطے دکھوں اور آلام کے در کھلے۔ حاکم سوم کے حکم سے مہر رسول کی طرح کی اک دوسری مہر لے لی گئی۔<sup>۳</sup>

### اس سال<sup>۴</sup> کے دوسرے احوال

اسی سال عماد اسلام کے واسطے لوگوں کا عدد سوا ہوا اور وہ عماد اسلام کہ اس کے اسم سے کلام اللہ کی اک سورہ موسوم<sup>۵</sup> ہے، اس کے واسطے اہل اسلام کا عدد اس طرح سوا ہوا کہ صدائے عماد اسلام کے سماع سے کئی لوگ محروم رہے۔

اس حال کا مطالعہ کر کے حاکم سوم کا حکم ہوا کہ وہ آدمی کہ وہ صدائے عماد اسلام کے واسطے مامور ہے، وہ امام کی حمد و دعا سے اول اک صدائے عماد اسلام اور دے، اس طرح اس عماد اسلام کے لئے دو صدائے عماد اسلام کا سلسلہ ہوا۔<sup>۶</sup>

اسی سال اسلام کے حاکم سوم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدموں کو رائے ہوئی کہ دوسرے ملکوں سے آ کر مکہ اور اس کے ارد گرد گھر مول لے لو! کئی لوگ اس

۱۔ ابو ایوب انصاری نے حضرت حفصہؓ سے ۳۰ ہجری میں مدینہ میں دو میل کے فاصلے پر ایک کنواں جس کا نام ہزار بیس ہے، وہ انوشی حضرت عثمانؓ کے ہاتھ اس کنویں میں گر گئی، اس کنویں کا تمام پانی بیخ دیا گیا، لیکن وہ کہیں ہاتھ نہ آئی۔ (تاریخ

اسلام، ج: ۱، ص: ۳۹۲) ۲۔ (ایضاً) ۳۔ ۴۔ ۵۔ جمعہ۔ ۶۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۹۲)



رائے کے عامل ہوئے۔

## کلام اللہ کا معاملہ

اک ہمدم<sup>۱</sup> کا حاکم سوم سے کلام ہوا کہ عالم اسلام کا کلام الہی سے کس طرح کا معاملہ ہے؟ کہ ہر ملک کے لوگوں کا الگ الگ کلام الہی ہے۔ ہماری رائے ہے کہ سارے عالم اسلام کو اک ہی طرح کے کلام الہی کا عادی کر دو۔ حاکم سوم کا کلام ہوا: لوگو! ہم کو رائے دو! سارے لوگ ہمدم رسول کی رائے کے ہم رائے ہوئے، اس لئے حاکم سوم کے حکم سے کلام الہی کے کئی رسالے اک ہی طرح کے لکھوا کر ملکوں کو ارسال کئے گئے۔<sup>۲</sup>

## کسریٰؑ کی ہلاکی

کسریٰ کے کئی ملک عمر کرم کے عہد کو ہی اسلام کے ممالک محروسہ کا حصہ ہوئے اور کئی ساحلی ملک اک اک کر کے حاکم سوم کے عہد کو اہل اسلام کو ملے اور کسریٰ کا حال دگر ہوا کہ وہ گاہ رے کو دوڑ رہا ہے اور گاہ اس ملک گاہ اس ملک۔<sup>۳</sup>

لوگوں کا اک گروہ اس آس کو لے کر سد اس کا ہمراہی رہا کہ کسی سحر دہرا کر وہ سارے ملکوں کا مالک ہوگا، اسی لئے ممالک کسریٰ کے لوگ حکم عدولی کے عادی رہے۔ مگر کسریٰ کے احوال اک اک سحر کر کے اور دگر ہوئے۔

اک سحر، نک لکا کر کسریٰ اک آٹے والے کے ہاں وارد ہوا۔ آٹے والے کا دل مال

۱۔ حضرت حذیفہ بن الیمانؓ نے حضرت عثمانؓ سے کہا: عجیب بات ہے کہ عراق والے قرآن مجید کو الگ قرات میں پڑھتے ہیں اور شام والے دوسری قرات کو پند کرتے ہیں۔ اسی طرح بصرہ، کوفہ، اور فارس والوں کی قرات الگ الگ ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سب کو ایک ہی قرات پڑج کیا جائے۔ (ایضاً، ج: ۱، ص: ۳۹۳) ۲۔ اس طرح سیدنا عثمانؓ نے جمع قرآن کا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ یزدجرد، شاہ فارس۔ یہ اس کی حالت یہ تھی کہ کبھی رے میں ہے، کبھی لخ میں ہے، کبھی مرو میں ہے تو کبھی اسفہان میں، کبھی اصطر میں ہے تو کبھی جیحون کو عبور کر کے ترکستان چلا گیا۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۹۳)

کی طرح سے معمور ہوا اور اس کا ارادہ ہوا کہ کسی طرح کسریٰ کا سارا مال حاصل کر لے۔

اک سحر کسریٰ آٹے والے کے گھر محو آرام ہوا، آٹے والا مصصام لے کر اٹھا اور اس

کے اک ہی وار سے کسریٰ ہلاک ہو کر واصل دارالآلام ہوا۔

آٹے والا اس کے مال اسلحہ اور حلے کا مالک ہوا اور اس کے مردہ دھڑ کو ساگر کے حوالے کر کے لوٹا۔ اس طرح ممالک کسریٰ کی حکم عدولی کے درمسدور ہوئے۔

کسریٰ کے دو اور دو سال عمدہ حالی کے رہے اور سولہ سال دکھوں اور آوریگی سے کٹے۔<sup>۲</sup>

### دور مکارہ<sup>۳</sup>

آگے مسطورہ ہوا کہ وہ ملک کہ ہمدم علی کے واسطے دارالامارہ رہا، اس ملک کے حاکم ولد عاص<sup>۴</sup> ہوئے اور عمدہ اطوار سے ملکی کارواں لے کر رواں دواں رہے، لوگ اس سے مسرور ہوئے۔

مالک<sup>۵</sup>، اسود<sup>۶</sup>، عمرو<sup>۷</sup>، مصصم<sup>۸</sup>، اولاد مواعدی<sup>۹</sup>، اور کئی دوسرے لوگوں کا ولد عاص کے ہاں آکر ہم کلامی کا معمول رہا۔

اک سحر ولد عاص کہہ گئے کہ وہ ملک کہ ولد عاص اس کا والی ہے ہمارا ہی ہے گل کدہ ہے۔<sup>۹</sup>

اس کلام کو مسموع کر کے مالک کا کلام ہوا: اس طرح کہاں؟ وہ ملک ہمارے اسلحہ سے حاصل ہوا ہے۔ اس طرح کے کلام کو طول ملا اور لوگوں کی صداؤں سے ماحول مکر ہوا۔

اسدی<sup>۱۰</sup> اسم کا اک آدمی اٹھا اور لوگوں سے کہا: رکو! لوگ اٹھے اور اسدی کو اس طرح مارا کہ

۱۔ کسریٰ نے بھاگ کر اک پن بجلی والے کے ہاں پناہ لی۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۹۴) ۲۔ (ایضاً) ۳۔ مکارہ: برائیاں۔ مراد فتنے ہیں۔ ۴۔ سعید بن العاص۔ ۵۔ مالک بن حارث جو مالک بن اشتر کے نام سے مشہور تھا۔ ۶۔ اسود بن یزید۔ ۷۔ عمرو بن الجعد۔ ۸۔ کھیل بن زیاد وغیرہم۔ ۹۔ سعید بن العاص کی زبان سے نکلا کہ یہ علاقہ تو قریش کا باغ ہے۔

۱۰۔ عبدالرحمن اسدی۔ (ایضاً)

اسدی ادھ موئے ہو گئے۔

اس کے آگے ولد عاص اس طرح کے لوگوں کی ہم کلامی سے رک گئے۔ اس سے لوگوں کو ملال ہوا۔

اگر کسی محل دو آدمی مل کر کھڑے ہوئے، اسی محل ولد عاص اور حاکم سوم کے لئے سوء کلامی کا در کھولا۔ اس سلسلے کو طول ہوا طوعاً و کرہاً ساری روداد حاکم سوم کو ارسال کی گئی اور کہا کہ اس طرح کے لوگوں کے واسطے لائحہ عمل طے کرو!

حاکم سوم کا کلام ہوا کہ اس طرح کے لوگوں کو اہل اسلام کے ماموں کے ہاں رواں کر دو کہ وہ اس گروہ کو راہدئی دکھائے۔ سارے لوگ ادھر رواں کئے گئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے سالے اور اہل اسلام کے ماموں اٹھے سارے لوگوں کو سلام کہا، دلداری کی اور اکل و طعام کی ہمراہی عطا کی اور کہا:

”اس کمروہ عملی سے دور رہو کہ اہل اسلام کے نکلڑے نکلڑے کر دو۔“

مگر وہ سارے لوگ راہدئی کی راہ روی سے دور و محروم رہے۔<sup>۲</sup>

اہل اسلام کے ماموں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے سالے کے حکم سے سارے احوال کی اطلاع حاکم سوم کو دی گئی۔ حاکم سوم کا حکم ہوا کہ اس گروہ کو والی حمص کے ہاں ارسال کر دو! آس ہے کہ حمص آ کر وہ گروہ راہدئی کا راہرو ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے سالے اور اہل اسلام کے ماموں اسی حکم کے عامل ہوئے اور سارے لوگ ملک حمص رواں کئے گئے۔

والی حمص کا معاملہ کٹڑا رہا، سارے گروہ کو درگاہ سے دور اور اکل و طعام کی ہمراہی سے

۱۔ حضرت امیر معاویہؓ جو آپ کے سالے تھے۔ ۲۔ حضرت امیر معاویہؓ نے ان لوگوں کو سمجھایا، مگر وہ لوگ شس سے مس نہ ہوئے۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۹۶) ۳۔ عبدالرحمن بن خالد۔

محروم رکھا۔ معمولی عرصہ ہوا ہوگا کہ سارا گروہ راہِ ہدٰی کا راہِ روہوا۔  
اس حال کی اطلاع حاکم سوم کو دی گئی۔ حاکم سوم کا حکم ہوا کہ اس گروہ کو رہائی دو، کسی محل رہے۔  
ولد سوداء<sup>۲</sup>

اک اسرائیلی مردود، ولد سوداء، سدا سے اسلام اور اہل اسلام کا عدو رہا اور ہر دم ساعی  
رہا کہ اسلام اور اہل اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کرے۔

وہ اسی ارادے کو لے کر معمرہ رسول وارد ہوا اور اک عرصہ اہل اسلام کے احوال  
کا مطالعہ کر کے لائحہ عمل کے لئے اگلے ملک راہی ہوا اور لوگوں کے آگے طرح طرح کا کلام  
کر کے لوگوں کی گمراہی کے واسطے ساعی ہوا۔

کم علم لوگوں کا اک گروہ اس کے گرد ہوا۔ اس کا لوگوں سے اس طرح کا کلام ہوا:  
”اہل اسلام کا معاملہ کس طرح کا ہے کہ روح اللہ رسول لوٹ کر اس  
دار آئے گا، مگر محمد عود سے محروم رہے گا؟“<sup>۳</sup>  
اور کہا کہ:

”ہر رسول کا کوئی اک وصی رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
کا وصی ہمد علی ہے اور اہل اسلام کی سوء عملی ہے کہ ہمد علی کے علاوہ  
دوسرے لوگ اولی الامر ہو گئے، اس لئے اٹھوا اور ہمد علی کی مدد کرو اور  
دوسرے اولی الامر کو ہلاک کر دو! کم سے کم معطل ہی کر دو۔“<sup>۴</sup>

ولد سوداء اک گروہ کو ہم مسلک کر کے اگلے مصر راہی ہوا اور اک اک کر کے کئی ملک وارد ہوا

۱۔ حضرت عثمان غنیؓ نے فرمایا اگر یہ لوگ کوفہ جانا چاہیں تو اس کو جانے دو۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۹۶) ۲۔ عبد اللہ  
بن سبا المعروف بہ ابن السوداء۔ ۳۔ بصرہ۔ وہ کہتا: مجھے تعجب ہے کہ مسلمان اس بات کے تو قائل ہیں کہ حضرت  
عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، لیکن اس بات کو نہیں مانتے کہ حضرت محمدؐ بھی دنیا میں ضرور آئیں گے۔ (تاریخ  
اسلام، ج: ۱، ص: ۳۹۷) ۴۔ (ایضاً)

اور ہر ملک سے اک اک گروہ کو اس کام کے واسطے آمادہ کر کے رہا۔  
 اس مردود کا اگلا کام اس طرح ہوا کہ اک مصر کے عامل کا گلہ دوسرے مصر کے عامل  
 سے اور دوسرے کا دوسرے سے اور سارے عاملوں کا گلہ معمورہ رسول والوں سے کہ کسی طرح  
 لوگوں کے دل حاکم سوم اور اس کے طے کردہ عمال کے حسد سے معمور ہوں اور کسی طرح اہل  
 اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہوں۔<sup>۲</sup>

ہمد مہار سارے احوال کی اطلاع کے واسطے حاکم سوم کے حکم سے ملک مصر راہی  
 ہوئے، مگر وہ لوگوں کے ہم مسلک ہو گئے اور مصر ہی رک گئے۔<sup>۳</sup>

روگردوں کی کاروائی اک اک کر کے حد سے سوا ہوئی، اس لئے ولد<sup>۴</sup> عاص احوال کی  
 اطلاع لے کر معمورہ رسول راہی ہوئے اور روگردوں کا اک گروہ<sup>۵</sup> معمورہ رسول اس مکروہ  
 ارادے سے راہی ہوا کہ وہ حاکم سوم کو ادلی الامری سے معطل کرے۔  
 ولد عمرو<sup>۶</sup> آڑے آئے، اس گروہ سے لڑائی ہوئی۔

مال کار اس گروہ کا سالار محصور ہوا، مگر دھوکے سے رہائی حاصل کر لی اور رہا ہو کر دہرا کر معمورہ  
 رسول راہی ہوا۔

حاکم سوم کے حکم سے اسلامی ملکوں کے عمال موسم احرام کے لمحے معمورہ رسول آ کر

عبداللہ بن سبا پہلے بصرہ آیا یہاں اپنی ہم خیال جماعت بنا کر کوفہ پہنچا اس کے بعد شام، پھر مصر آیا اور ہر جگہ اپنے ہم  
 خیال لوگ چھوڑ جاتا۔ (ریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۹۸) ۲۔ اس کا اگلا مشن یہ تھا کہ ہراک ملک کے عامل کو دوسرے ملک  
 کے عوام کے ظالم سمجھیں اس لئے اس جماعت کے لوگوں نے اپنے اپنے حاکم کی شکایتیں دوسرے عمال اور مدینہ  
 میں بھیجنا شروع کیں ہر ایک یہی سمجھتا کہ شاید ہم سے زیادہ ظلم دوسرے ملک ہو رہا ہے۔ ۳۔ آپ نے تحقیق حال کیلئے  
 عمار بن یاسر کو مصر کی جانب بھیجا کہ وہاں کے حالات دیکھ کر آئیں اور صحیح اطلاع دیں عمار بن یاسر جب مصر پہنچے تو عبداللہ  
 بن سبا کے ساتھیوں نے ان کو اپنا ہم نوا بنا لیا اور مدینہ جانے سے روک دیا (تاریخ اسلام ج: ۱ ص: ۳۹۹) ۴۔ سعید بن  
 العاص۔ ۵۔ اس گروہ کا سالار یزید بن قیس تھا۔ ۶۔ قعقاع بن عمرو۔

اکٹھے ہوئے۔ سارے احوال کہہ کر ہر کسی سے رائے لی گئی، مگر اس سے محرومی رہی کہ کوئی لائحہ عمل طے ہو۔

سارے عمال لوٹ گئے، ولد عاص کو راہ کے اک مرحلے حکم عدولی والوں کا عسکر ملا اور کہا کہ معمورہ رسول لوٹو اور حاکم سوم سے کہو: ہمارا عامل والد موسیٰ کو طے کر دے۔

ولد عاص معمورہ رسول لوٹ آئے اور سارا حال حاکم سوم سے کہا۔ حاکم سوم کی رحم دلی کا مطالعہ کرو کہ اسی لمحے ولد عاص کو معطل کر کے والد موسیٰ کو حکم ہوا کہ وہ اس گروہ کے مضرب کا عامل ہو اور گمراہوں کے واسطے حاکم سوم کا کلام ہوا کہ سدا اصلاح کے لئے سماعی رہوں گا۔  
حاکم سوم کی سعی رہی کہ کسی طرح روگردوں کی اصلاح ہو، مگر ہر راہ سے محرومی ہوئی۔

### ہمدم طلحہ کی رائے<sup>۵</sup>

ہمدم طلحہ کا حاکم سوم سے کلام ہوا کہ ہماری رائے ہے کہ اہل اسلام سے اک گروہ ادھر ادھر کے ملکوں کو راہی ہو اور اصل احوال کی اطلاع لائے۔ حاکم سوم کو ہمدم طلحہ کی رائے عمدہ لگی اور کئی گروہ اس مہم کے واسطے رواں ہوئے۔

### روگردوں کی مکروہ سعی

ادھر روگردوں کی اصلاح کے لئے رائے دہی کا سلسلہ ہے، ادھر روگردوں کے کئی گروہ موسم احرام کے لمحے اس ارادے سے راہی ہوئے کہ وہ معمورہ رسول آکر حاکم سوم سے طوعاً و کرہاً سارے حلال و حرام معاملے طے کروائے۔

۱۔ حضرت عثمان غنیؓ کے حکم سے اکثر ملکوں کے گورنر مکہ آئے اور موجودہ حالات پر رائے لی گئی، مگر کوئی خاص تجویر اور لائحہ عمل نہیں سوچا گیا۔ اور سب لوگ واپس لوٹ گئے۔ ۲۔ سعید بن العاص۔ ۳۔ اس لشکر میں مالک بن اشتر بھی شامل ہو گیا تھا، اس نے سعید کو کوفے سے روکا اور مدینہ واپسی پر مجبور کیا۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۳۰۱) مع کوفہ۔

روگردوں کا گروہ معمورہ رسول سے دوسہ کوس دور ہی رکھا۔ اس گروہ کے سرکردہ لوگ معمورہ رسول آئے اور الگ الگ ہدم علی، ہدم طلحہ، ولد عوام اور ہدم سعد سے ملے۔ اور کہا کہ ہمارا معاملہ حل کرواؤ!

مگر ہر کوئی اس معاملے سے دور ہی رہا۔ حاکم سوم کا ارادہ اول ہی سے اصلاح کا رہا، اس لئے ہدم علی سے کہا کہ وہ روگردوں سے مل کر اس معاملے کو حل کرے۔ اس گروہ کا ہر اسلامی امر وصول ہوگا۔!

ہدم علی اٹھے اور آ کر اس گروہ سے ہمکلام ہوئے اور کسی طرح اس گروہ کو آمادہ کر کے لوٹا آئے۔ سارے لوگ مسرور ہو گئے کہ لڑائی ٹل گئی اور دہرا کر اسلامی کارواں رواں دواں ہو گا۔ مگر اللہ کا حکم اور ہی رہا کہ اک سحر معمورہ رسول کے محلوں سے اللہ کے اسم اور گھوڑوں کے سموں کی صدا اٹھی۔ لوگ ڈر کر گھروں سے آگئے معلوم ہوا کہ وہی روگردوں کا گروہ ہے اور ”صلہ، صلہ“ کی صدا دے رہا ہے۔

ہدم علی آگے آئے اور کہا: ”کس لئے لوٹے ہو؟“

اہل مصر کا رد کلام ہوا کہ راہ کے اک مرحلے حاکم سوم کا ہر کارہ ملا، معلوم ہوا کہ وہ مصر ہی کو رواں دواں ہے۔ ہمارا دل و ساوس سے معمور ہوا کہ لامحالہ ہمارے لئے والی مصر کو کوئی حکم ارسال ہوا ہو گا۔ اس لئے اس کو روک کر ٹٹولا۔ ہم کو اس سے اک مراسلہ ملا، لکھا ہے:

”حاکم سوم کا والی مصر کو حکم ہے، اس گروہ کے سرکاٹ دو۔“

اس لئے ہمارا گروہ اس سوء عہدی کا صلہ لے کر ہی رہے گا۔ حاکم سوم کو اس کی اطلاع دی گئی۔ حاکم سوم کا کلام ہوا:

! آپ نے حضرت علیؑ کو بلا کر کہا کہ آپ اس جماعت کو راضی کر کے واپس کر دیجئے میں جائز مطالبات پورے کرنے

کیلئے تیار ہوں۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۱۴)

”واللہ! ہم اس مراسلے سے لاعلم رہے۔“

حاکم سوم کے اس کھرے کلام سے لوگوں کو گماں ہوا کہ لامحالہ وہ ولد حکم<sup>۱</sup> کا کام ہے۔

روگردوں کا کلام ہوا:

”وہ آدمی کس طرح اہل اسلام کا حاکم ہوگا کہ وہ اس طرح کے اہم امور سے

لاعلم ہے؟ اس لئے حاکم سوم اہل اسلام کی اولی الامری سے معطل ہو۔“

حاکم سوم کا کلام ہوا:

”وہ اس حلقے کو کہ وہ اللہ کی عطا ہے، اوڑھے رہے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو لے لے کر سارے دکھوں کو سبھ لے لے گا۔“

### محاصرہ

حاکم سوم کا کلام مسموع کر کے روگرداٹھے اور حاکم سوم کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے

ہوئے۔

وہ محاصرہ اک ماہ اور دس سحر رہا، اس عرصہ حاکم سوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہرا داماد ہر طرح کے ماء و طعام سے محروم رہا۔<sup>۲</sup>

اہل اسلام کی ماں، رسول اللہ کی عروس، ساعی ہوئی کہ کسی طرح ماء و طعام حاکم سوم کو دے آئے۔ مگر مردودوں کو کہاں گوارا؟ اس لئے وہ لوٹ آئی۔

حاکم سوم کی رحمتی سے روگردوں کو اس حد حوصلہ ہوا کہ ہمدموں اور مددگاروں کے ہر طرح کے کلام کو رد کر کے اسی طرح محاصرہ کر کے کھڑے رہے۔<sup>۳</sup>

حاکم سوم کا ہمد علی کے واسطے کلام ہوا کہ ہمارے گھر آؤ! ہمد علی اٹھے، مگر روک دئے

۱۔ مروان بن حکم۔ ج۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱۱، ص: ۴۱۲، سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۱۵) ۲۔ البتہ ہمسایہ گھروں سے کبھی کبھی رسد اور پانی کی امداد پہنچ جاتی تھی۔ ج: ۱، ص: ۴۱۲، حضرت ام حبیبہؓ۔ حضرت عبداللہ بن سلام، ابو ہریرہؓ، سعد بن ابی وقاصؓ، اور زید بن ثابتؓ جیسے اکابر صحابہ تک کی کسی نے نہ سنی۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۱۶)



گئے۔

ہمد علی کا ارادہ ہوا کہ کسی طرح اس حال کی اطلاع حاکم سوم کو دوں۔ اس لئے سر سے کالامامہ کھولا اور اطلاع رساں کو دے کہا:

”لو! مرا امامہ حاکم سوم کو دکھا کر کہو: علی کی ہر راہ مسدود ہے کس طرح آئے؟“

کئی ہمد و مدگار معمورہ رسول سے الگ ہو گئے اور اہل اسلام کی ماں، عروس رسول، حاکم اول کی لڑکی، منوسم احرام کی ادائے گی کے واسطے سوئے مکہ راہی ہوئی۔ اہل رائے کے سہ آدمی، ہی معمورہ رسول رہ گئے۔ اول: ہمد علی۔ دوم: ہمد طلحہ۔ سوم: ولد عوام۔

ہر اک ساعی رہا کہ کسی طرح اس معاملے کا حل ہو، مگر محرومی ہوئی۔

مگر لڑکوں کو حکم ہوا کہ حاکم سوم کے گھر کے آگے کھڑے ہو کر رکھوالی کرو اور روگردوں کو حاکم سوم سے دور رکھو۔<sup>۱</sup>

## حاکم سوم کا روگردوں سے کلام

اک سحر حاکم سوم گھر کے عالی حصے سے روگردوں سے اس طرح ہمکلام ہوئے: لوگو! معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم معمورہ رسول آئے، حرم رسول اہل اسلام کے لئے کم ہوا، رسول اللہ کا کلام ہوا:

”کوئی ہے کہ اک حصہ مٹی کا مول لے کر حرم رسول کے لئے کر دے؟ اس کو

دارالسلام کا عمدہ گھر ملے گا۔“

اس لمحے حاکم سوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے اس حکم کے عامل ہوئے اور اس سحر اسی

۱۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۱۶) ۲۔ حضرت عائشہ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا کے ارادے سے مکہ مکرمہ چلی گئیں۔ ۳۔ چنانچہ حضرت علیؑ نے

حضرات حسنینؑ کو اور حضرت زبیرؓ نے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کو حضرت عثمان غنیؓ کی حفاظت پر مامور فرمایا۔ (سیر الصحابہ

ج: ۱، ص: ۲۱۶) ۴۔ مسجد نبوی۔

حرم رسول آ کر عماد اسلام کی ادائے گی سے ہم کو روک رہے ہو۔  
 لوگو! اللہ سے عہد کر کے کہو کہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمولہ رسول آئے،  
 لوگ ماء طاہر سے محروم ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوا:  
 ”کوئی ہے کہ ماء رومہ کو مول لے کر اللہ کی راہ دے دے؟ اللہ اس کو  
 دارالسلام کا ماء دے گا۔“

حاکم سوم ہی اور اس کمال کے حامل ہوئے۔ اور اسی ماء رومہ سے اس کو محروم کر رہے ہو۔  
 لوگو! معلوم ہے کہ عسکرِ عمرہ کو حاکم سوم ہی سے اموال ملے؟ سارے لوگو کا اکٹھا رد کلام ہوا:  
 ہاں! واللہ! اسی طرح ہے۔

حاکم سوم کا دہرا کر کلام ہوا: لوگو! معلوم ہے کہ اک سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہِ حرا گئے،  
 وہ کوہِ ہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوہِ حرا کو حکم ہوا:  
 ”اے کوہِ ٹھہر! اس لئے کہ اک اللہ کا رسول، اک ہمدم رسول اور اک گواہ!  
 اس کوہ کا سوار ہے۔“

اور اس لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمراہی حاکم سوم ہی رہا؟  
 لوگو کا رد کلام ہوا کہ ہاں! اسی طرح ہے۔

اور کہا: لوگو! اگر معلوم ہے، اللہ کے واسطے ہم سے کہو: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم  
 سے معرکہ صلح کے لمحے ہم ہی اطلاع لے کر اہل مکہ کے آگے گئے؟ لوگوں کا رد کلام  
 ہوا: ہاں! معلوم ہے۔

مگر اس سارے کلام سے مردودوں، ردگردوں کے دل، رحمہلی سے عاری رہے  
 اور وہ اسی طرح محاصرہ کر کے کھڑے رہے۔

محاصرے کو طول ہوا، ردگردوں کا اک دوسرے سے کلام ہوا:

”اس سے آگے کہ موسم احرام مکمل ہو اور لوگوں کو معمورہ رسول کے احوال کا ظلم ہو، حاکم سوم کو ہلاک کر دو!“<sup>۱</sup>

لوگوں سے اس طرح کا کلام مسموع کر کے حاکم سوم کا کلام ہوا:

”لوگو! کس لئے ہم کو ہلاک کرو گے؟ اسلام اس طرح کے آدمی کی ہلاکی کا حامی ہے کہ وہ حرام کاری کا عامل ہو۔ دوم: اس سے کوئی ہلاک ہوا ہو۔ سوم: اسلام لا کر دہرا کر اسلام سے روگرداں ہوا ہو۔ حاکم سوم اس طرح کے ہر کام سے دور رہے اور گواہ ہے کہ اللہ واحد ہے اور محمد اس کا رسول ہے۔“

مگر روگردوں کا گروہ اس عمدہ کلام کی وصولی سے محروم ہی رہا۔

**دل دادوں کی رائے**

اک ہدم رسولؐ دلدادہ حاکم سوم کی رائے ہوئی:

”اے داماد رسول! سہ امور سے اک امر کو وصول کر لو! اول: عسکر اسلام کو حکم کرو کہ وہ روگردوں کو مار مار کر ادھر سے ہٹا دے۔ دوم: گھر کے دوسرے در کی راہ لے کر مکہ مکرمہ راہی ہو۔ سوم: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے کے ملک کی راہ لو کہ ادھر دلدادوں کا اک عسکر ہے۔“

مگر حاکم سوم ہر امر کی وصولی سے دور ہی رہے۔ اس لمحے حاکم سوم کے گھر کے

گرداک کم آٹھ سو ہدموں اور مددگاروں کا گروہ کھڑا رہا، اس گروہ کا سالار اعلیٰ ولد عوام کا لڑکا رہا، وہ آگے ہوا اور کہا:

۱۔ حضرت عثمان غنیؓ نے اپنے قتل کا منصوبہ خود لوگوں سے سنا۔ (سیر الصحاب، ج ۱، ص: ۲۱۶) زانی، حضرت عثمان غنیؓ نے فرمایا: قتل تو صرف تین صورتوں میں جائز ہے۔ اول: زانی ہو۔ دوم: ناحق قتل کیا ہو۔ سوم: مرتد ہو۔ سب مغیرہ بن شعبہؓ (سیر الصحاب، ج ۱، ص: ۲۱۸) کئی لوگوں نے بائیسوں سے لڑنے کی اجازت مانگی، مگر حضرت عثمانؓ نے سب کو منع ہی کیا۔ (ایضاً)

”اے اہل اسلام کے حاکم! ہمارے ہمراہ اہل اسلام کا اک عسکر ہے، اگر حکم ہو روگردوں سے لڑوں۔“

حاکم سوم کا رد کلام ہوا:

”لوگو! اللہ کا واسطہ ہے، لڑائی سے دور رہو! ہم کو کہاں گوارا ہے کہ کوئی آدمی ہمارے لئے ہلاک ہو؟“

اور اس لمحے اٹھارہ اور دو مملوکوں کو رہائی دی۔

اک دوسرے ہمدم آئے اور کہا:

”اے داماد رسول! مددگاروں کا گروہ کھڑا ہے کہ اگر رائے ہو، وہ روگردوں سے لڑائی کرے۔“

حاکم سوم کا کلام ہوا:

”ہمارا مددگار وہی ہے کہ وہ لڑائی سے دور رہے۔“

حاکم سوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی رو سے مصمم گماں رہا کہ وہ لمحہ اس کی گواہی<sup>۲</sup> اور ملکِ عدم سے رحلہ کا ہے، اس لئے سارے دکھ والہ سہمہ کر مسرور رہے اور ہر دم گواہی کے واسطے آمادہ۔

گواہی کی سحر حاکم سوم صائم رہے، گواہی سے اک سحر آگے حاکم سوم کو سوائے ہوئے معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حاکم اول اور حاکم دوم سے ملے، رسول اللہ کا کلام ہوا:

”اے مرے دہرے داماد! دوڑ کر آؤ اور طعامِ صوم<sup>۳</sup> ہمارے ہمراہ کھاؤ!“

سو کراٹھے اور سارا حال لوگوں سے کہا اور گھر والی سے کہا کہ:

”ہماری گواہی کا لمحہ آگیا ہے، روگردوں کا گروہ ہم کو ہلاک کر کے ہی رہے گا۔“ وہ اٹھے اور کلام الہی کھول کر آگے رکھا اور سارا گھر کلام الہی کی صدا سے معمور ہوا۔

۱۔ حضرت زید بن ثابتؓ سے شہادت۔ ۲۔ افطاری۔ ۳۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۱۹)

## گواہی

روگرد گھر کے دوسرے حصے<sup>۱</sup> سے گھس گئے اور آکر حملہ آور ہوئے، ہمد علی کے لڑکے اور وہ لوگ کہ گھر کے اگلے حصہ کے گرد کھڑے رہے، وہ اس کا روائی سے لاعلم رہے۔ ہمد مکرم حاکم اول کا لڑکا محمد آگے ہوا اور آکر داماد رسول کی داڑھی کس کے بلائی۔ حاکم سوم کا اس سے کلام ہوا:

”اے لڑکے! اگر حاکم اول اس حال کا مطالعہ کر لے، لامحالہ وہ دکھی ہو۔“

اس کلام سے حاکم اول کے لڑکے کو عار آئی اور وہ وہاں سے پٹا اور اک دوسرا مردود آگے ہوا اور لوہے کی لاٹ ماری، اس سے حاکم سوم گھائل ہو گئے۔ اک اور آدمی صمصام لے کر حملہ آور ہو، حاکم اول کی گھر والی انھی اور اس کے حملے کو روکا، اس سے اس کی مٹھی کا اگلا حصہ کٹ کر گرا، وہ مردود، دہرا کر حملہ آور ہوا، اس سے حاکم سوم دارالسلام کو سدھارے اور رسول اللہؐ اور حاکم اول و دوم کے مہماں ہوئے۔ (ہم ساروں کا اللہ مالک ہے اور ہر آدمی اسی کے ہاں لوٹے گا۔)

گواہی کے لمحے حاکم سوم کے آگے کلام الہی کھلارہا اور حاکم سوم کا لہو کلام الہی کے اس حصہ کو لگا: ”لوگوں کے واسطے اللہ ہی ہے، وہ سامع ہے اور علم والا ہے۔“ گواہی کو دو سحر مکمل ہوئی، حاکم سوم کا دھڑ گورتے سے محروم رہا۔ ہر آدمی روگردوں کے ڈر سے اس حوصلہ سے محروم رہا کہ اس کو مٹی دے۔

مال کار دوسری سحر مکمل ہوئی، معدود لوگ حوصلہ کر کے آئے اور حاکم سوم کا دھڑ اٹھا کر لے گئے۔ رکوع سے عاری عماد اسلام کے امام ولد مطعم<sup>۲</sup> ہوئے اور دوراک محل ملخود

۱۔ شہادت۔ ۲۔ باغی گھر کی پچھلی طرف سے اندر آئے۔ (تاریخ اسلام، ج ۱۰، ص ۴۱۴) حج قبرین حضرت جبریلین معطم نے نماز جنازہ پڑھا۔ (تاریخ اسلام، ص ۴۱۵)

کرائے!

## حاکم سوم کی گواہی اور اہل اسلام کا رد عمل

حاکم سوم کی گواہی کی اطلاع عام اہل اسلام کو ملی، لوگ اس وہم و گمان سے دور رہے کہ روگردوں کو اس حد حوصلہ ہوگا اور حاکم سوم اس طرح ہلاک ہوں گے۔ ہر سو ہوکا عالم ہوا، لوگ اس اطلاع سے رو دئے۔

مال کو لے کر روگردوں کو عارضوں ہوئی، مگر ولد سوداء اور دوسرے اعداء اسلام کو مراد مل گئی، اہل اسلام کا اک دوسرے سے ہمدردی، رواداری، رحم دلی اور عمدہ سلوکی والا سلسلہ کٹ کے رہا اور وہ لوگ کہ اک دوسرے کے لئے سرکٹا کر مسرور ہے، وہ کئی گروہ ہو کر اک دوسرے کے سدا کے لئے عدو ہو گئے۔

ہدم علی حرم رسولؐ سے گھر کو لوٹے، راہ کے اک مرحلے حاکم سوم کی گواہی کی اطلاع ملی، اسی لمحے کہا:

”اے اللہ! علی حاکم سوم کی ہلاکی سے الگ ہے۔“

عمر مکرم کے والد کے دامادؐ کا کلام ہوا:

”لوگو! روا ہے کہ کوہ احد اس سوء عملی سے ٹوٹ کر گرے اور سارے لوگوں کو ہلاک کر دے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم اسرارؐ کا کلام ہوا:

”آہ! حاکم سوم کی ہلاکی سے اسلام کو وہ دراڑ لگی کہ وہ سدا رہے گی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولد عمؑ کا کلام ہوا:

۱۔ آپؐ کو جنت البقیع کے قریب حش کوکب میں سپرد خاک کیا گیا، بعد میں یہ حصہ جنت البقیع میں شامل کر لیا گیا۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۲۱) ۲۔ مسجد نبویؐ۔ ۳۔ حضرت عمر کے بہنوئی سعید بن زید بن عمرو بن نفیل۔ ۴۔ حضرت حدیفہؓ۔ ۵۔ عبد اللہ بن عباسؓ۔

”اگر سارے لوگ حاکم سوم کی ہلاکی کے لئے ساعی ہوئے ہوں، گروہ لوط

کی طرح - ماویٰ ڈلوں سے ہلاک ہوں۔“

ہمسائے ملک کے والی کو اطلاع ملی، وہ رو دئے اور کہا:

”ہائے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے کے اہل اٹھ گئے۔“

ہمد ساعدیؒ کا اللہ سے عہد کر کے کلام ہوا:

”سدا کے لئے محال ہے کہ مسکراؤں۔“

ولد سلامؒ کا کلام ہوا:

”آہ! اہل لساںؒ کی ساکھ مٹ گئی۔“

عرویں رسولؐ کا کلام ہوا:

”حاکم سوم لا رو! مارے رے گئے۔“

واللہ! اس کا رسالہ اعمال دھلے ہوئے رومال کی طرح ہوا۔“

دوسرے کئی ہمدوں کے کارور و کرحال دوگر ہوا۔

حاکم سوم کا ابو آو و حلد اور اس کی گھر والی کی کئی بوئی مٹھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وسلم کے سالے کے آگے اس کے ملک لائی گئی، اس کا مطالعہ کر کے لوگ دھاڑ دھاڑ روئے

اور صلہ، صلہ کی صداؤں سے ماحول معمور ہوا۔<sup>۵</sup>

۱۔ صنعائے یمن کے والی، شامہ بن عدیؒ۔ ۲۔ ابو حمید ساعدیؒ۔ ۳۔ عبداللہ بن سلامؒ۔ ۴۔ عرب۔ ۵۔ سیدہ عائشہ

صدیقہؓ۔ ۶۔ ناجزہ۔ ظنمائیے حضرت زید بن ثابتؓ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے اور حضرت ابو ہریرہؓ

کا یہ حال تھا کہ جب اس سانسے کا ذکر آ جاتا تو دھاڑیں مار مار کر روتے۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۲)

اللہ کے اسم سے کہ وہ عمومی رحم و کرم والا ہے

## مطالعہ

داماد رسول، مسلم اول، ولد عم رسول، حاکم اہل اسلام، در علم، اسامہ، اسد اللہ، علی کرمہ اللہ۔

## اسم و اسرہ

داماد رسول کا اسم، علی (کرمہ اللہ) ہے۔ داماد رسول علی کرمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ولد عم شہ رہے، اس لئے علی کرمہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا اسرہ اک ہی ہے۔ اسرہ علی کرمہ اللہ سرداری اور دار اللہ کے کام کار اور رکھوالی کے کمال کا حامل رہا۔

## ہمد علی کرمہ اللہ کے والد

علی کے والد مکرم مکہ کے اہل رائے آدمی رہے۔ سول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے والد مکرم کے وصال کے آگے رسول اللہ کو گود لے کر اس عمدہ کمال سے مالا مال ہوئے اور اعلاء اسلام کے لئے سدا رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے حامی رہے، اس لئے ہمد علی کے والد اور اس کے اسرہ کے لوگوں کو مکہ کے گمراہوں سے دکھ اور الم ملے۔ وہ اک گھائی کے محصور کئے گئے اور ہر طرح سے ماء و طعام سے محروم کئے گئے، مگر محال ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی مدد سے روگرداں ہوئے ہوں۔

رسول اللہ کی دلی آس رہی کہ عم مکرم والد علی اسلام لاکر دار السلام کے حصہ دار ہوں، مگر وہ وصول اسلام سے محروم رہے کہ لمحہ وصال آگیا، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل

لے روایت ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علیؑ ایمان لائے۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۵۰) آپ نے ارشاد فرمایا: انامدینہ العلم وعلی بابہا۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ح: حیدر، شیر۔ مع اللہ کا شیر، یہ آپ کا لقب ہے۔ ۵۰ پچا کے لڑکے۔ ۶۰ آپ کے والد محترم کا نام عبدمناف ہے اور بعضوں نے عمران لکھا ہے، لیکن آپ اپنی کنیت، ابوطالب کے ساتھ مشہور ہیں (سیرت علیؑ، ص: ۲۱) ح: شعب ابی طالب۔ ۷ ابوطالب۔



رسلہ وسلم عم کرم، والد علی کے آگے آئے اور کہا: اے عم! لا الہ الا اللہ کہہ دو! دارالسلام کے حصے دار ہو گئے۔

مگر والد علی کا رد کلام ہوا کہ اے ولد ام! کے لڑکے! ہماری دلی آس اسی طرح ہی ہے کہ اسلام لاؤں، مگر ہم کو ڈر ہے کہ مکہ کا ہر آدمی کہے گا کہ وصال کے ڈر سے والد اور داداؤں کے مسلک سے روگرداں ہو کر ولد ام کے لڑکے کے مسلک کا راہ رو ہوا۔<sup>۲</sup>  
اس لئے والد علی، وصول اسلام سے محروم رہے۔

### والدہ علیٰ کرمہ اللہ

ہمد علی کی والدہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم سے ماؤں کی طرح کا سلوک رہا۔

علماء سے مروی ہے کہ وہ اسلام لائی اور وداع مکہ کے اکرام سے مالا مال ہوئی اور اس کے وصال کے لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم اک حلقہ لائے اور حلقہ اوڑھا کر اس کو منیٰ دی اور کہا:

”والد علی کے علاوہ ہم کو سارے لوگوں سے سوا والدہ علی سے لگاؤ رہا۔“

### عالم مادی کو آمد

علیٰ کرمہ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کے امرومی سے دس سال آگے مولود ہوئے۔

### رسول اللہ کی ہمراہی

علیٰ کرمہ اللہ کے والد کی مالی آلودگی سے محرومی کو محسوس کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل

۱۔ بھائی ۲۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۳۹) ۳۔ حضرت علی کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بن اسد تھا، ان کو بھی رسول اللہ کی

پرورش کا شرف حاصل ہے۔ (ایضاً)

رسلہ وسلم کا اک دوسرے علم سے کلام ہوا: اے عم! والدِ علی کی مدد کرو! وہ اس طرح کہ اس کے اک لڑکے کو گود لے لو!

وہ آمادہ ہو گئے اور والدِ علی کے اک لڑکے کو گھر لے آئے اور علی کرمہ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے آئے۔

اس طرح علی کرمہ اللہ کو رسول اللہ کی ہمراہی کا دائمی کمال حاصل ہوا۔

### اسلام

داماد رسول علی کرمہ اللہ کی عمر دس سال کی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امروہی عطا ہوا۔ علی کرمہ اللہ رسول اللہ ہی کے گھر کے آدمی رہے، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے احوالِ اسلامی مطالعہ ہوئے۔

اک سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عروس مکرمہ کی عماد اسلام کا مطالعہ کر کے سائل ہوئے کہ کس عمل کے حامل ہو؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہا:

”اے علی! اللہ کا رسول ہوں۔ اے علی! اسلام لے آؤ!“

ہمدم علی کے لئے وہ اک الگ راہ رہی، اس لئے کہا:

”اس کے لئے والدِ مکرم سے رائے لوں گا۔“

مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوا:

”اے علی! اس لمحے اس سے دور ہی رہو کہ ہمارے اس عمل کی اطلاع کسی

کو کرو!“

۱۔ حضرت عباسؓ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۵) ۲۔ حضرت علیؓ نے آپؐ اور ام المومنین حضرت خدیجہؓ کو مصروف

عبادت دیکھا تو پوچھا آپؐ دونوں کیا کر رہے تھے۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۵) ۳۔ چونکہ آپؐ کو ابھی اعلان منظور نہ

تھا، اس لئے فرمایا کہ اگر تمہیں تاہل ہے تو خود فوراً کرو، لیکن کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۵)

انگلی سحر کو علی کرمہ اللہ رسول اللہ کے آگے آئے اور اسلام لائے۔<sup>۱</sup>

## مکی دور

ہمد علی اسلام لا کر سہ کم سولہ سال مکہ مکرمہ رہے اور ہر دم بہر محل رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔

عمر مکرم کے وصول اسلام سے آگے اہل اسلام اس سے محروم رہے کہ وہ کھل کر احکام اسلام کے عامل ہوں، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم اور ہمد علی کرمہ اللہ اور دوسرے اہل اسلام لک لک کر اعمال اسلام کے عامل رہے۔

اک سحر علی کرمہ اللہ کے والد ادھر آئے اور علی کرمہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے احوال اسلام کا مطالعہ کر کے سائل ہوئے کہ کس عمل کے عامل ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم اٹھے اور اسلام کے اساسی امور آگے رکھے اور وصول اسلام کا کہا۔

علی کرمہ اللہ کے والد کا رد کلام ہوا کہ گوکہ عمدہ راہ ہے، مگر ہم اس کی راہ روی سے دور ہوئے۔  
موسم احرام کے لئے علی کرمہ اللہ گاہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمراہ رہے اور گاہ رسول اللہ کے ہمراہ دار اللہ وارد ہو کر مٹی کے اُہوں کے ٹکڑے کئے۔

## اہم امور<sup>۲</sup> کی حوالگی

رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کو امر وحی عطا ہوئے سہ سال کا عرصہ ہوا، ہادی اکرم کھلم کھلا اعلائے اسلام سے دور رہے۔<sup>۳</sup> اگلے سال حکم الہی ہوا کہ کھلم کھلا اعلائے اسلام کرو! کلام

۱ آپ کی پرورش سے فطرت سنہنجل چکی تھی، اس لئے زیادہ غور و فکر کی ضرورت پیش نہ آئی اور دوسرے ہی دن بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو گئے۔ (ایضاً) ۲ آپ اور حضرت علیؑ مصروف عبادت تھے، ابو طالب نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ (سیر النصاب، ج: ۱، ص: ۲۵۱) ۳ ایام حج۔ ۴ انتظام دعوت۔ ۵ ابھی تک کھلم کھلا تبلیغ اسلام کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔

الہی ہے:

”اور اسرہ کے لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ!“

اس حکم کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم اک کوہ کے سرے آئے اور اسرہ کے لوگوں کو صدادی، لوگ آگئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم آگے ہوئے اور لوگوں کو وصول اسلام کا کہا، مگر وہ لوگ وصول اسلام سے محروم رہے۔

اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ لوگوں کو طعام کے واسطے اکٹھا کر کے وصول اسلام کا کہوں۔

اس لئے دہرا کر اسرہ والوں کو کہا:

”وہ محمد کے گھر آ کر طعام سے مالا مال ہوں!“

لوگ اکٹھے ہو گئے، اس لمحے لوگوں کو طعام رسائی کے امور علی کریمہ اللہ کے حوالے ہوئے گو کہ علی کریمہ اللہ کم عمر رہے مگر طعام رسائی کے سارے امور عمدہ طور سے مکمل کئے۔

سارے لوگ طعام کھا کر مالا مال ہوئے، اس لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا:

”لوگو! اللہ کا رسول ہوں اور ہر دو عالم کے کاموں سے عمدہ کام کا داعی

ہوں۔ کوئی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا مددگار ہو؟“

سارے لوگ رد کلام سے رکے رہے، مگر ہمدم علی کھڑے ہوئے اور کہا:

”گو کہ کم عمر ہوں، مگر اللہ کے رسول کا مددگار ہوں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کا علی کے لئے کلام ہوا کہ ہاں!

لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کا دہرا کر اسی طرح کا کلام ہوا۔ مگر لوگ رد کلام سے محروم رہے اور ہمدم علی کریمہ اللہ کا اسی طرح کا رد کلام ہوا۔

اس حال کا مطالعہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم مسرور ہوئے اور کہا کہ ہاں! علی ہمارا ولد امام ہے اور حصہ دار ہے۔<sup>۱</sup>

## وداع مکہ

رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کو امروچی طے سے کم سولہ سالہ ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم اور رسول اللہ کے ہمدموں کی مسلسل مساعی سے اردگرد کے لوگوں کو راہ ہدی ملی۔

اس حال سے گمراہوں کے دلوں سے حسد کا دھواں اٹھا، وہ اہل اسلام کے اور سوا عدو ہو کر اہل اسلام کی رسوائی اور الم دہی کے لئے ہر ہر گام مساعی ہوئے۔

اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کے لئے مکہ مکرمہ کی وادی، آرام اور دکھوں کا گھر ہو کر رہ گئی۔<sup>۲</sup>

اس لئے اللہ کا حکم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کو وحی آئی کہ مکہ مکرمہ کے ہمدم اور اہل اسلام معمورۃ احد کو اک اک کر کے رواں ہوں۔

اہل اسلام کو اس حکم کی اطلاع دی گئی، وہ اس حکم الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کے حکم کے عمل کے لئے آمادہ ہوئے۔

مکہ نے لوگ اہل اسلام کے ہر طرح آڑے آئے، مگر مکہ مکرمہ کے اہل اسلام اک اک کر کے معمورہ رسول راہی ہوئے اور مکہ مکرمہ کے صد ہا گھرمالکوں سے محروم ہو گئے۔ وہی معدودے لوگ مکہ مکرمہ رہ گئے کہ وہ گمراہوں کے مملوک رہے اور مال سے محروم۔ مکے کے سردار اس حال سے کمال ملول ہوئے اور دل مسوس کر رہے۔

<sup>۱</sup> آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۵۲، بطبری ص: ۱۲۴۲،

مسند احمد ج: ۱، ص: ۱۵۵) حجرت - ۳ (ہادی عالم ص: ۹۳)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم علیٰ کرمہ اللہ اور ہمد مکرّم، اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ ہی رکے رہے۔

بچے کے سرداروں کو اس حال سے کمال دکھ ہوا اور احساس ہوا کہ رسول اللہ کے سارے ہمد مکہ مکرمہ سے راہی ہوئے، اسی طرح کسی لمحے محمد مکہ مکرمہ الوداع کہہ کر راہی ہوں گے اور معمورہ رسول اسلام کا اک حصار ہو کر گمراہوں کی راہ کھوٹی کرے گا۔ اس ڈر کو لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کی روح کے عدو ہو گئے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کی ہلاکی کی رائے ہوئی، مگر اللہ کا حکم دوسرا ہی رہا اور وحی الہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کو گمراہوں کے ارادے کی اطلاع ملی اور وداع مکہ کا حکم ہوا۔<sup>۱</sup>

### علیٰ کرمہ اللہ کی دلدادگی

ادھر سارے سردار طے کردہ معاملے کی رو سے مسلح ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے گھر کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور رسول اللہ کے گھر کو محصور کر کے کھڑے ہوئے کہ کس لمحے سارے سردار مل کر حملہ آور ہوں۔

اللہ کی درگاہ سے ہادی اکرمؐ کو اس امر کی اطلاع دی گئی، رسول اکرمؐ اٹھے اور علیٰ کرمہ اللہ کو حکم ہوا: ”اے علیٰ! اللہ کے رسول کو حکم ہوا ہے کہ وہ ہمد مکرّمؐ کو لے کر سوائے معمورہ رسول راہی ہو اور حرم مکہ کو الوداع کہے۔ بچے کے سرداروں کا گروہ گھر کے ادھر اس ارادے سے کھڑا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو مار ڈالے، اس لئے ہماری رائے ہے کہ مکہ مکرمہ ہی رکے رہو اور اہل مکہ کے رکھوائے ہوئے اموال ہم سے لے لو! مالکوں کو اموال لوٹا دو اور معمورہ رسول آ کر ہم سے ملو اور اے علیٰ! ہماری ہری ردا اوڑھ کر سو رہو! اللہ کا وعدہ ہے کہ سرداروں کے آلام سے دور رہو گے۔“

۱ (ہادی عالم بس: ۱۳۷) سیدنا ابو بکر صدیق۔

علیٰ کرمہ اللہ کو اس طرح مامور کر کے رسول اللہؐ گھر سے آگے آئے اور ہمد مکرّم کے گھر آگئے اور سارے احوال کہے اور گھر کی کھڑکی کی راہ سے ہمد مکرّم کو ہمرا لے کر روانہ ہوئے۔<sup>۱</sup>

اللہ کے حکم سے سارے سردار حواس گم کردہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔

سحر ہوئی مکہ کے گمراہ سردار رسول اللہؐ کی ہلاکی کا ارادہ لے کر رسول اللہؐ کے گھر آئے اور اس حال کا مطالعہ کر کے رسوا ہوئے کہ رسول اللہؐ کے محل علیٰ ردا اوڑھ کر سوتے رہے اور رسول اللہؐ کو اک عرصہ ہوا کہ وہاں سے رواں ہو گئے۔

اس لئے مکہ کے لوگ سماعی ہوئے کہ کسی طرح رسول اللہؐ اور ہمد مکرّم کو اس رحلے سے روک کر کامگار ہوں۔

مگر اللہ کا حکم سدا حاوی ہے اور سدا حاوی رہے گا گمراہوں کے سارے ارادے مکر و حسد کے سارے ولولے لٹشی ہو کر رہے۔

علیٰ کرمہ اللہ دو، سہ سحر رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کے حکم سے مکہ مکرمہ ہی رہ گئے۔ سارے اموال مکہ والوں کو لوٹا کر اولاد عمرو کے گاؤں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم سے ملے۔

رسول اللہؐ کے حکم سے ہمدموں اور مددگاروں کا عمدہ سلوک کا معاہدہ<sup>۲</sup> ہوا، اس لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کے ولدا م، ہمد علیٰ ہوئے۔<sup>۳</sup>

۱ (بادی عالم، بالاختصار، ص: ۱۳۰، ۱۳۱) ۲ بھائی چارہ۔ ۳ آپ نے حضرت علیٰ کو اپنا بھائی بنایا۔ (سیر الصحاب، ج: ۱، ص:

## اللہ کے گھر کے معماری<sup>۱</sup>

معمورۃ رسول اسلام کا حصار ہوا اور اہل اسلام کھل کر احکام اسلام کے عامل ہوئے، اس لئے اک اک کر کے اہل اسلام کا عدد سوا ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہوئی کہ اللہ کا اک گھر ہو کہ لوگ وہاں آکر کھڑے ہوں اور اللہ واحد کی حمد کے لئے اکٹھے ہوں۔

اس لئے وداع مکہ کو اک کم آٹھ سال ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسلہ و سلم کے حکم سے اللہ کے گھر کی اساس رکھی گئی۔ رسول اکرمؐ کے ہمراہ سارے ہمد و مددگار، روح و دل سے اللہ کے گھر کی معماری کے کام سے لگے رہے۔ اس لمحے ہمد علی گارا اور مٹی کے ڈلے لالا کر اللہ کے گھر کی معماری کے حصے دار ہوئے اور کمال و لو لے سے اس طرح کے مصرعے کہے۔<sup>۲</sup>

”وہ آدمی کہ دکھ و الم کو سبہ کر ہر حال اللہ کے گھر کی معماری کرے اور وہ کہ دھول مٹی سے معصوم رہ کر اس کام سے دور رہے، اک طرح کے کہاں؟“<sup>۳</sup>

۱۔ تعمیر مسجد ۲۔ دوران تعمیر حضرت علیؑ رجز پڑھ رہے تھے۔ ۳۔ حضرت علیؑ یوں کہہ رہے تھے: لایستوی من یعممر المساجد یدائب فیہ قائما و قاعدا و من یری عن الغبار حائدا۔ ترجمہ: جو مسجد تعمیر کرتا ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اس مشقت کو برداشت کرتا ہے اور جو گرد و غبار کے باعث اس کام سے جی چراتا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔



## معرکوں اور مہموں کے احوال

اسلام کا معرکہ اول<sup>۱</sup> اور ہمد علی کرمہ اللہ

اس معرکے کے معدود احوال اس طرح ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کئے کا اک سردار کے والوں کا اک کارواں لے کر مکہ مکرمہ کے لئے معمورہ رسول ہی کی راہ سے آرہا ہے اور اموال و املاک کا حامل ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کے حکم سے ہمد و مدگار اکٹھے ہوئے اور رسول اکرم کا حکم ہوا کہ لوگو! مکے والوں کا اک کارواں اموال و املاک لے کر سونے مکہ مکرمہ راہی ہے، اس لئے اگر اہل اسلام اس کارواں کے لئے راہی ہوں، اللہ کے کرم سے آس ہے کہ وہ اہل مکہ کے اموال و املاک اہل اسلام کو عطا کرے گا۔

رسول اللہ کے حکم سے سہ صد اور دس سے سو لوگ اس کارواں کے لئے راہی ہوئے۔ اس مہم کا مدعا اس کارواں کی راہ روک کر اس کے اموال کا حصول ہی رہا معرکہ آرائی اور لڑائی کے ہر ارادے سے اہل اسلام دور ہی رہے، اسی لئے معرکہ آرائی کے لئے اسلحہ اور دوسرے املاک کم رہے۔<sup>۲</sup>

ہادی اکرم، مال و املاک اسلحہ و سواری سے محروم، اللہ والوں کا محدود گروہ لے کر سونے کارواں راہی ہوئے۔ سہ صد سے سو لوگوں کے لئے دو گھوڑے اور ساٹھ اور دس دوسری سواری، اس کے علاوہ دو دو آدمی ہر سواری کے سوار ہوئے۔<sup>۳</sup>

رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کی سواری کے حصے دار، علی کرمہ اللہ اور اس کے اک اور ہمراہی ہوئے۔<sup>۴</sup> گاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم اس سواری کے سوار ہوئے اور گاہ

۱۔ غزوہ بدر۔ ۲۔ ہادی عالم ص: ۷۷ (۱) ۳۔ اہل اسلام کی تعداد تین سو تیرہ تھی، جبکہ ان کے پاس صرف دو گھوڑے، ستر اونٹ تھے اور دو آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ ۴۔ صحیح جہنم ابولبابہ ۳۔ (ایضاً)

دوسرے دو حصہ دار۔

اس طرح اللہ والوں کا محدود گروہ معمورہ رسول سے راہی ہو کر دو مرحلے ادھر اک محل روحاء آ کر رکا۔ اس عسکر اسلام کا اک علم علی کریم اللہ کو ملا۔

راہ کے اک مرحلے آ کر رسول اللہ کا علی کریم اللہ کو حکم ہوا کہ اے علی! اک گروہ کو لے کر آگے رواں ہو اور مکے والوں کے کارواں کے احوال سے مطلع کرو! علی کریم اللہ گئے اور کمال عمدگی سے اس کام کو مکمل کر کے لوٹے۔

اسلامی صدی کے دوسرے سال کے ماہ صوم کی سولہ ہے، اسلحہ و عدد سے محروم، ماہ صوم کے احکام کی رو سے اکل و طعام سے دور، مگر اللہ اور اس کے رسول کے سہارے کو اصل سہارا کئے ہوئے اور اللہ کی مدد کے احساس سے مسلح، اللہ والوں کا گروہ معمورہ رسول سے ساٹھ کوس دور اک کہساری حصے آ کر رکا، اہل اسلام کو مٹی والا حصہ ملا اور وہی عسکر اسلامی کی درود گاہ ہوا۔ مگر اہوں کا عسکر اک کہساری اور عمدہ حصے کو درود گاہ کر کے وہاں اول ہی سے ٹھہرا رہا اور وہاں آ کر سلسلہ مائے کمال کا مالک ہوا۔

اس طرح اہل اسلام مائے سلسلہ سے محروم ہو گئے، مگر اللہ کا حکم ہوا، اک گٹھا اٹھی اور امطار کرم کا سلسلہ لگا، اہل اسلام اٹھے اور گڑھے کھود کر مائے مطہر کو اکٹھا کر کے اللہ کی حمد کی۔

اس مائے مطہر سے اہل اسلام کی درود گاہ کی مٹی سوکھ کر محکم ہو گئی کہ اللہ والوں کی راہ روی سہل ہو۔ اگلی سحر ہوئی، درود گاہ لڑائی کے لئے آمادہ ہو کر اک دوسرے کے آگے آ کر ڈٹ گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ اول حملہ اعداء ہی کے عسکر سے ہو! اس لئے اللہ والے لڑائی سے رکے رہے۔

لڑائی کی رسم کی رو سے اول اول گمراہوں کے سردار الگ الگ عسکر سے آگے آئے

اور آگے آکر لڑائی کے لئے لاکار دی۔<sup>۱</sup>

عسکر اسلامی سے اول رسول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے مددگار ولد روادح اور اس کے دو اور ہمراہی آگے آئے اور سرداروں سے لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے، مگر مکے کے سرداروں کا اصرار ہوا کہ ہم سے لڑائی کے واسطے مکہ والے ہمدموں کو آگے لاؤ! رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے حکم سے وہ مددگار سوائے عسکر لوٹ آئے اور رسول اللہ کے حکم سے علی کرمہ اللہ اور رسول اللہ کے عم اسد اللہ اور رسول اللہ کے اک اور ہمدم آگے آئے۔

عسکر اعداء سے مکہ کا اک سردار اس کا ولد ام اور اس کا اک لڑکا لاکار کر آگے آئے سردار کا لڑکا ہمدم رسول علی کرمہ اللہ کے آگے ڈٹا، مگر اس کو حوصلہ کہاں کہ علی کرمہ اللہ کی دلاوری اور حوصلہ وری کے آگے ٹھہر سکے؟

علی کرمہ اللہ آگے آکر حملہ آور ہوئے اور اس طرح کا کاری وار ہوا کہ اسی اک وار سے اس سردار کا سر کٹ کر گر اور اس طرح وہ اللہ کا عدو، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ کے حوالے ہوا۔<sup>۱۱</sup> علی کرمہ اللہ اور عم مکرم کے ہمراہی کے لئے اک سردار حملہ آور ہوا، وہ دلاوری سے اس سردار سے لڑے، مگر اللہ سے وصال کے لئے اس ہمدم رسول کی دعا مسوع ہوئی، وہ اک کاری گھاؤ کھا کر گرے، علی کرمہ اللہ اور عم مکرم دوڑ کر اس کی مدد کو آئے اور اس سردار کو حملہ کر کے مار ڈالا۔

۱ لشکر کفار سے رسم عرب کے موافق اول عقبہ و شیبہ پسران ربیعہ اور ولید بن عقبہ نفل کر میدان میں آگے آئے اور جنگ مبارزہ کیلئے لاکار دی۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۱۳۹) ۲ عبد اللہ بن روادح۔ ۳ عوف اور معوذتینوں انصاری صحابی آگے آئے۔ ۴ عقبہ نے کہا کہ ہم سے لڑنے کیلئے ہماری قوم کے آدمی آئیں۔ ۵ حضرت حمزہ بن عبدالمطلب۔ ۶ عبیدہ بن الحارث۔ ۷ عقبہ۔ ۸ شیبہ عقبہ کا بھائی۔ ۹ عقبہ کا بیٹا ولید۔ ۱۰ ولید۔ ۱۱ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۱۳۹، ہادی عالم، ص: ۱۸۸) ۲ عبیدہ بن الحارث۔ ۳ شیبہ۔

علیٰ کرمہ اللہ اس ہدم رسول کو اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کے آگے لائے رسول اکرم اس کے لئے دعا گو ہوئے، اس طرح وہ رسول اللہ کا دلدادہ اللہ کے رسول کی دعا ہمراہ لے کر دارالسلام کی دائمی آرام گاہ کو راہی ہوا (ہم ساروں کا اللہ مالک ہے اور ہر آدمی اسی کے گھر لوٹے گا)۔<sup>۱</sup>

## علم رسول

اس معرکہ کا اک علم علیٰ کرمہ اللہ کو عطا ہوا۔<sup>۲</sup> اس کے آگے معرکہ عام کا سلسلہ ہوا، علیٰ کرمہ اللہ اس طرح دل کھول کر دلادوری اور دلولہ کاری سے لڑے کے اہل مکہ کے سارے ولولے دھرے رہ گئے۔

اللہ کے کرم سے اہل اسلام کو کامگاری حاصل ہوئی گمراہوں کے عسکر طرار کو رسوائی ملی اور ہلاکی گلے کا ہار ہوئی۔

گمراہوں کے کل ساٹھ اور دس لوگ مع سرداروں کے مارے گئے اور اہل اسلام سے کل دو کم سولہ آدمی روح و دل سے اللہ کی گواہی دے اللہ کے گھر کو سدھارے۔

اور ساٹھ اور دس گمراہ، اہل اسلام کے محصور ہوئے۔ مال کامگاری سے علیٰ کرمہ اللہ کو اک حسام، اک لوہے کی صدری اور اک سواری ملی۔<sup>۳</sup>

## دامادِ رسول کا عالی اکرام

اسلامی صدی کے دوسرے سال رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کے حکم سے علیٰ کرمہ اللہ کی عروسی رسول اللہ کی لاڈلی لڑکی، مملکہ دارالسلام<sup>۴</sup> سے ہوئی۔ اس طرح ہدم علیٰ کرمہ اللہ رسول اللہ کے داماد ہو گئے۔

۱ (ہادی عالم، ج: ۱۸۹) ۲ (سیرت علی، ج: ۵۳) ۳ (سیرت علی، ج: ۵۳، ہادی عالم، ج: ۱۹۲) ۴ سیدہ فاطمہ

رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ ۵ حدیث میں ہے کہ حضرت فاطمہؑ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔

مملکت دارالسلام سے عروسی کی آس حاکم اول اور حاکم دوم کو اول ہی سے رہی اور وہ اس کے لئے الگ الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے مگر رسول اللہ کا ارادہ رہا کہ مملکت دارالسلام کی عروسی علی کرمہ اللہ سے ہو۔

اس لئے علی کرمہ اللہ سے عروسی کی آس مسوع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کل رسد وسلم کا علی کرمہ اللہ سے کلام ہوا: ”اے علی! مہر ہے؟“

کہا: ”اک گھوڑا اور اک لوہے کی صدری ہے۔“ رسول اللہ کا کلام ہوا کہ گھوڑا لڑائی کے لئے رکھو اور لوہے کی صدری کسی کو مول دے کر دام وصول کرو اور مہر ادا کرو!

علی کرمہ اللہ لوہے کی صدری لے کر اسلام کے حاکم سوگم کے آگے گئے اور لوہے کی

صدری اس کو دے کر دام وصول کر لائے۔<sup>۲</sup>

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اک ہدم کو دھم دے کر حکم ہوا کہ عطر مول لے آؤ اور اللہ کی حمد کہہ کر عروسی علی کے سارے امور مکمل کئے اور عادی۔

عروسی کو دس ماہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علی کرمہ اللہ کو حکم ہوا کہ اک

دوسرا گھر لے لو! علی کرمہ اللہ اس حکم کے عامل ہوئے اور اک دوسرا گھر لے کر مملکت دارالسلام کو اس گھر لے آئے<sup>۳</sup> اور لوگ علی کرمہ اللہ کے گھر طعام عروسی کے واسطے مدعو کئے گئے۔

۱۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ ۲۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۵۶) ۳۔ مؤذن رسول سیدنا مال۔ ۴۔ حضرت حارث بن نعمان نے اپنا مکان ہدینہ دے دیا اور کہا: یا رسول اللہ! میں اور میرا مال اللہ اور اس کے رسول کیلئے حاضر ہیں۔ جو مکان آپ مجھ سے حاصل فرمائیں گے وہ میرے لئے اس مکان سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جو آپ میرے لئے چھوڑیں گے تو آپ نے ان کا مکان حضرت علیؑ وفاطمةؑ کیلئے قبول فرمایا اور دعائے خیر کے کلمات کہے۔ (سیرت علی، ص: ۵۷)

۵۔ ولیمہ، جس میں جو کی روٹی کچھ کھورا اور پیڑ تھا۔

سبحان اللہ! کیا ہی متبرک ولیمہ تھا، جس میں نہ تکلف تھا نہ تصنع اور نہ ہی قبائلی تفاخر مد نظر تھا۔ (ایضاً، ص: ۵۸)

## معرکہ احد اور داماد رسول علی کریم اللہ

اسلامی صدی کے دو سال مکمل ہوئے، اگلے سال معرکہ احد ہوا۔ اس معرکہ اول اول اہل اسلام، اعدائے اسلام کے آگے ڈٹ کر حاوی رہے مگر گھائی والوں کی حکم عدولی سے اہل اسلام کی کامگاری ادھوری رہ گئی اور اہل اسلام اعدائے اسلام سے گھر گئے اور سارا عسکر اسلامی کٹی حصے ہو کر ادھر ادھر ہوا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کمال حوصلے اور دلاوری سے اعداء کے آگے ڈٹے رہے اور اعداء سے معرکہ آراء رہے۔

گمراہوں کے مسلسل حملے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی داڑھ ٹوٹ کر گری اور روئے مسعود گھائل ہوا اور رسول اللہ لڑا کھڑا کر گئے۔

گمراہوں کے لوگ مسلح ہو کر ادھر آئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کو حملہ آور ہوں مگر علمدار اسلام آڑے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے آگے کمال حوصلے سے لڑے اور لڑ کر گھائل ہوئے اور مال کار رسول اکرم ہی کے آگے اللہ کے گھر کو سدھار لے (ہم ساروں کا اللہ مالک ہے اور ہمارا ہر آدمی اللہ ہی کے گھر لوٹے گا) علمدار اسلام کے وصال کے آگے علی کریم اللہ آگے آئے اور علم اٹھا کر اعداء اسلام کے آگے ڈٹ گئے۔ اسی لمحے والد سعدؓ آگے ہوا اور لڑائی کے واسطے لاکاردی۔

علی کریم اللہ آگے آ کر حملہ آور ہوئے اور اک کاری و اراما کہ وہ اللہ کا عدو، گھائل ہو کر گرا اور مٹی آلود ہوا اور وہ حواس گم کردہ حلقے سے محروم ہوا۔ رحم کھا کر علی کریم اللہ اس کو اسی حال رکھ کر لوٹ آئے۔

علی کریم اللہ اور ہمد ظلم اور دوسرے ہمد آگے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کو سہارا دے کر کھڑے ہوئے اور احد کی اک کھوہ آگے کہ اللہ کا رسول ادھر آرام کر لے۔

علیٰ کریم اللہ ڈھال کی مدد سے ماہِ طاہر لائے اور مملکت دارالسلام کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیٰ  
کل رسلہ وسلم کے گھاؤ کو دھو کر مرہم لگائی۔<sup>۱</sup>

اس کے آگے گمراہوں کے اک سردار کا اہل اسلام سے مکالمہ ہوا اور اس کا کلام ہوا:  
”اگلے سال معرکہ اول کے گاؤں لڑائی کا وعدہ ہے۔“

اور وہ اگلے سال لڑائی کی دھمکی دے کر وہاں سے لوٹا۔ علیٰ کریم اللہ کو حکم رسول ہوا کہ معلوم کرو کہ  
گمراہوں کا عسکر کدھر کوراہی ہوا ہے، اگر وہ معمورہ رسول کے لئے رواں ہو رہا ہے، ہم اس  
کو روک کر حملہ آور ہوں گے۔

علیٰ کریم اللہ گئے اور معلوم کر کے آئے کہ اعدائے اسلام کا سارا عسکر سوائے مکہ مکرمہ راہی  
ہوا ہے۔

اس لڑائی سے رسول اکرمؐ کے کل ساٹھ اور دس مددگار اللہ کی راہ کے لئے  
سرکشا کردار اسلام کوراہی ہوئے۔<sup>۲</sup>

### اک اسرائیلی گروہ سے معرکہ<sup>۳</sup>

اک اسرائیلی گروہ کہ وہ اہل اسلام کا معاہدہ رہا، اس سے سوء عہدی ہوئی، رسول اللہ  
صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کے حکم سے وہ گروہ ملک سے محروم ہوا۔ اس لمحے علیٰ کریم اللہ اس کاروائی  
کے لئے علمدار رہے۔<sup>۴</sup>

۱ (سیرت علی، ص: ۶۰) ۲ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ۳ (ہادی عالم، ص: ۲۲۸) ۴ غزوہ بنو نضیر۔  
آپؐ بنو نضیر سے دو افراد کے قتل کی دیت کے معاملے میں گفتگو کرنے ان کے ہاں تشریف لے گئے، اکابر بنو  
نضیر بظاہر خوش السلوٹی سے پیش آئے مگر درپردہ انہوں نے آپؐ پر سنگ گراں گرا کر آپؐ کو شہید کرنے کی سازش کی۔  
(سیرت علی، ص: ۶۵) ۵ آپؐ نے ان کو جلا وطن کر دیا۔ (سیرت الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۵۸) ۶ (سیرت علی، ص: ۶۵)

## کھائی والا معرکہ

آگے مسطور ہوا کہ اک اسرائیلیؑ گروہ سوء عہدی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم معمورہ رسول سے محروم ہوا، وہ وہاں سے دو سو کوس دور اک مصر آ کر ٹھہرا۔ اس کی سعی رہی کہ اہل اسلام سے معرکہ آرائی کے لئے لوگوں کو اکٹھا کرے، اس گروہ کا سردارؑ ”جی“ کئی سرکردہ لوگوں کو لے کر مکہ مکرمہ آ کر مکہ کے سرداروں سے ملا اور کہا:

”لڑائی کے واسطے آمادہ رہو! ہم طرح کئے والوں کے حامی و مددگار ہوں گے۔“

اسی طرح وہ اسرائیلی سردار دوسرے گروہ کے سرداروں سے ملا۔ اس طرح سارا ملک کئے والوں کا حامی ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور گمراہوں کا نڈی دل کالی گھٹنا کی طرح سوائے معمورہ رسول رواں ہوا۔

اک ہدم رسولؐ کہ کسری کے ملک سے آ کر اسلام لائے، اس کی رائے سے کوہ سلع کے آگے اک گہری کھائی کی کھدائی کی گئی اس سے گمراہوں کے لئے معمورہ رسول کی ہر راہ مسدود ہوئی۔

گمراہوں کا وہ نڈی دل حملے کے ارادے سے کوہ سلع کے آگے وارد ہوا، گمراہوں کے عسکر کو ادھر گہری کھائی دکھائی دی اور اہل اسلام کی اس کارگردگی سے اک ہول سی اٹھی گمراہوں کے عسکر کی ورود گاہ کھائی کے ورے رہی اور کھائی سے ادھر رسول اکرمؐ عسکر اسلامی کے ہمراہ آ گئے۔

گمراہوں کا عسکر اسلام کا محاصرہ کر کے وہاں رہا۔ آدھے ماہ کا عرصہ اسی طرح طے ہوا اور ہر دو عسکر لڑائی سے دور ہے۔<sup>۵</sup> مال کار گمراہوں کے عسکر سے نکلے کے کئی سردار کھائی سے

۱۔ غزوہ خندق۔ ۲۔ بنو نضیر۔ ۳۔ جی بن اخطب۔ ۴۔ حضرت سلمان فارسیؑ۔ ۵۔ (ہادی عالم، میرالصحاب، ج: ۱، ص: ۲۵۸)



ہو کر ادھر آئے اور الگ الگ لڑائی کے لئے لگا رہی۔

مملوک و سکاٹز کا عمرو، کھائی کے ادھر آکھڑا ہوا، علی کرمہ اللہ اس کے لئے آگے آئے، اس کا کلام<sup>۱</sup> ہوا کہ عمرو کو کہاں گوارا کہ وہ علی کو ہلاک کرے؟  
علی کرمہ اللہ رد کلام ہوا:

”ہاں! مگر علی کو گوارا ہے کہ وہ عمرو کو ہلاک کرے۔“

اس کلام کو مسومع کر کے وہ کھول اٹھا اور لڑائی کے ارادے سے آگے آ کر حملہ آور ہوا، علی کرمہ اللہ اس کا وارڈ ہال سے روک کر ادھر ہوئے، مگر اک معمولی سا گھاؤ علی کرمہ اللہ کو لگا۔ اللہ کا اسم کہہ کر علی کرمہ اللہ حملہ آور ہوئے، اسی حملے سے اللہ اور رسول کے اس عدو کو گھائل کر کے مار ڈالا۔ اللہ احد کی صدا ٹھی اور اہل اسلام کے حوصلے سوا ہوئے۔

اللہ کی مدد آئی اور وہ کڑی ہوا مسلط ہوئی کہ گمراہوں کے دل ڈر سے معمور ہوئے اور گمراہوں کے سارے عساکر جو اس گم کر کے اور حوصلے ہار کے رواں ہوئے۔ عسکر اسلامی کا مگار ہو کر معمورہ رسول لوٹا۔<sup>۲</sup>

## دوسرے اسرائیلی گروہ سے معرکہ

اک اسرائیلی گروہ کہ وہ اہل اسلام کا معاہدہ رہا، مگر کھائی والے معرکے کے لمحے وہ گروہ کھلم کھلا معاہدے سے روگرداں ہو کر مکے والوں کے ہمراہ لڑائی کے لئے آمادہ ہوا۔  
کھائی والے معرکے سے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم معمورہ رسول لوٹے، مگر اللہ کا حکم ہوا:

”اللہ کا رسول اہل اسلام کو لے کر اسرائیلی گروہ کے لئے حملہ آور ہو۔“

اس لئے اہل اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ مسلح ہو کر اسرائیلی محلے کے لئے

۱ (عمرو بن عبدود) ۲ (سیر الصحاب، ج: ۱، ص: ۲۵۸) ۳ (ہادی عالم) ۴ غزوہ بنو قریظہ۔

راہی ہوں۔

عسکر اسلامی کا علم علی کرم اللہ کو ملا۔ علی کرمہ اللہ آگے ہوئے اور رسول اللہ کے عہد کی رو سے حصار کی کامگاری حاصل کر کے اس کے عرصہ آ کر عصر کی عبادت اسلام ادا کی!

اولاد سعد کے لئے علی کرمہ اللہ کی مہم

اسلامی صدی کا دو کم آٹھواں سال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسول سلم کے حکم سے مہم علی کرمہ اللہ ارسال ہوئی۔

اس کا مکمل حال اس طرح ہے کہ رسول اکرم کو اطلاع ملی کہ اولاد سعد کے لوگ اردگرد کے گروہوں کو اکٹھا کر کے لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے۔ ہادی کامل کا علی کرمہ اللہ کو حکم ہوا کہ وہ دو سو آدمی ہمراہ لے کر اولاد سعد کے مصر کے لئے رواں ہوں۔

وہ دو سو اہل اسلام کا اک عسکر لے کر اولاد سعد کے لئے اس طرح رواں ہوئے کہ لوگ اس عسکر کی آمد سے لاعلم ہوں۔

راہ کے اک مرحلے آ کر اک آدمی ملا اس کو ڈرا دھمکا کے معلوم ہوا کہ وہ اولاد سعد کا آدمی ہے اور اہل اسلام کے احوال کے علم کے لئے ادھر آ رہا ہے، اس سے کہا کہ اگر اولاد سعد کے احوال اور اس کا محل ہم سے کہو، ہلاکی سے دور رہو گے!

اس سے اولاد سعد کی راہ اور دوسرے احوال معلوم ہوئے اور اولاد سعد کے مصر آ کر اہل اسلام حملہ آور ہوئے۔

اولاد سعد حوصلہ ہار کر معرکہ گاہ سے موڑ کر دوڑ گئے، مگر کئی سو سواری اور دوسرے اموال وہاں رہ گئے۔

اہل اسلام سارے گلے اور اموال لے کر وہاں سے سوتے معمورہ رسول لوٹ آئے۔<sup>۳</sup>

۱۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۵۸) ۲۔ نو سعد۔ ۳۔ (ہادی عالم، ص: ۲۸۹، سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۵۸، سیرت علی، ص: ۶۸)

## معابدہ صلح اور داماد رسول علی کرمہ اللہ

وداع مکہ کو دو کم آٹھ سال ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم دو سو کم سولہ سوان اللہ والوں کو ہمراہ لے کر عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہوئے۔ راہ کے اک مرحلے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مکے والے ہر طرح سے لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم اور اہل اسلام کا ارادہ لڑائی سے دور رہ کر عمرے ہی کا رہا۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے حکم سے داماد رسول اسلام کے حاکم سوم مکہ مکرمہ گئے کہ وہ اہل مکہ کو اہل اسلام کے ارادے سے آگاہ کرے، وہ مکہ آئے اور ادھر روک لئے گئے۔

اہل اسلام کو کسی طرح اطلاع ملی کہ داماد رسول مارے گئے، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے آگے اہل اسلام کا عہد ہوا کہ ہمارا ہر آدمی رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمراہ اعداء اسلام سے لڑے گا۔

اس لمحے علی کرمہ اللہ کا اسی طرح کا عہد ہوا، مگر اک عرصہ ہوا کہ اہل اسلام کو اطلاع ملی کہ ہدم داماد رسول ہلاکی سے دور رہے اور وہ اہل اسلام کی ورود سے گاہ آگئے۔

مال کارنے والے صلح کے لئے آمادہ ہو گئے اور داماد رسول علی کرمہ اللہ کو حکم رسول ہوا کہ وہ معابد کے سارے امور لکھ لے!

اس طرح علی کرمہ اللہ معابدے کی لکھائی کے لئے مامور ہوئے اور سارے امور سے اول اللہ کے اسم کا حامل وہ کلمہ لکھا کہ اہل اسلام ہر کام سے اول اس کلمے کے عادی رہے وہ کلمہ اس طرح ہے:

”اللہ کے اسم سے کہ عام رحم والا کمال رحم والا ہے۔“

ولد عمر و کھڑا ہوا اور کہا: ہمارے لئے وہ کلمہ لا معلوم ہے، اس لئے ”اسمک اللہم“

کا کلمہ لکھو کہ وہی کلمہ ہمارا معمول رہا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کا علیٰ کرمہ اللہ کو حکم ہوا کہ اسی طرح لکھ لو سو وہ کلمہ اسی طرح لکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کا اسم گرامی مع رسول اللہ کے لکھا والد عمر و کھڑا ہوا اور کہا:

”اہل اسلام سے ہماری ساری لڑائی کی اساس وہی کلمہ ہے کہ محمد، اللہ کا رسول ہے اور اسی کلمے کے لئے عمرے سے روکے گئے ہو، اس لئے معاہدے سے اس کلمہ کو مٹا کر ”محمد“ کا اسم اس کے والد کے حوالے سے لکھو!“

علیٰ کرمہ اللہ کو حکم ہوا کہ اس کلمہ کو مٹو کر دو! علیٰ کرمہ اللہ کو اس امر سے دکھ ہوا اور اس کو مکروہ معلوم ہوا کہ وہ کلمہ ”رسول اللہ“ کو مٹو کرے، اس لئے سرور عالم اٹھے اور اس کلمے کو مٹو کر کے علیٰ کرمہ اللہ سے کہا:

”ہمارا اسم مع والد کے اسم کے لکھو!“

اس طرح سارا معاہدہ مکمل طور سے مسطور ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم اہل اسلام کو لے کر معمورہ رسول لوٹ آئے۔

### اسرائیلی گروہ سے اک اہم معرکہ

وداع مکہ کو اک کم آٹھ سال ہوئے، اس سال اک اسرائیلی گروہ سے اہل اسلام کا معرکہ ہوا۔

اس کا حال اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ معمورہ رسول سے دو سو کوس ادھر اسرائیلی لوگوں کے مصر آ کر حملہ آور ہوں! وہ اسرائیلی گروہ کئی محکمہ حصاروں کا مالک رہا۔ عسکر اسلام، اسرائیلی حصاروں کے آگے وارد ہوا۔

سارے اسرائیلی حصاروں کے کواڑ لگا کر محصور ہو گئے۔ اہل اسلام کے مسلسل حملوں سے اک محکمہ

حصار ٹوٹا اور معمولی لڑائی سے اہل اسلام اس حصار کے مالک ہوئے۔

اہل اسلام کو حصار اول سے کامگاری ملی، ہادی کامل کا اہل اسلام کو حکم ہوا کہ دوسرے حصار کے لئے حملہ آور ہوں اور اس مہم کے لئے سسر رسول، ہدم مکرم کو علم عطا ہوا۔ ہدم مکرم اہل اسلام کو لے کر حملہ آور ہوئے اور کمال سعی کی کہ وہ حصار محکم ٹوٹے مگر کامگاری سے محروم ہوئے۔

دوسری سحر کو عمر مکرم کو حکم ہوا کہ وہ اہل اسلام کے علمدار ہو کر حملہ آور ہوں! عمر مکرم کمال حوصلے اور ولوے سے حملہ آور ہوئے، مگر کامگاری سے محروم رہے۔

رسول اکرم سارے احوال سے مطلع ہوئے اور کہا کہ کل عسکر اسلامی کا علم اس آدمی کو ملے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا دلدادہ ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس کا دلدادہ ہے۔ اسی کے حملے سے وہ حصار ٹوٹے گا اور اہل اسلام کو کامگاری حاصل ہوگی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام سے سارے لوگوں کے دل دھڑک اٹھے اور اک دوسرے سے کہا کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ اہم اکرم کس کو حاصل ہوگا۔

الحاصل اگلی سحر ہوئی ہر آدمی کی دلی آس رہی کہ وہ اہم اکرام اسے ہی ملے۔

ہادی کامل کا سوال ہوا:

”علی کہاں ہے؟“

لوگ علی کرم اللہ کے لئے دوڑے کہ رسول اکرم کا حکم ہوا ہے کہ آکر ہم سے ملو۔ وہ

رسول اللہ کے آگے آئے رسول اکرم کا حکم ہوا:

”اے علی! اللہ کی مدد کا آسرا لے کر علم اٹھاؤ اور اس محکم حصار کے لئے حملہ

آور ہو، مگر اول اس گروہ کے لوگوں کو اسلام کی راہ دکھاؤ! اے علی! اگر اس

طرح اک آدمی اسلام لے آئے وہ ہر کامگاری سے اعلیٰ کامگاری ہے۔“  
 علی کرمہ اللہ اہل اسلام کو لے کر راہی ہوئے، اس حصار کا مالک اس گروہ کے  
 سارے لوگوں سے سوادلا ورا ورحوصلہ و رر رہا۔ اس کو معلوم ہوا کہ علی کرمہ اللہ لڑائی کے لئے آمادہ  
 ہو کر آگئے وہ آگے ہوا اور لکا کر کہا:

”لڑائی کا ماہر ہوں، دل اور حوصلے والا ہوں، اگر حوصلہ ہو آ کر لڑو!“

اور اکڑ سے معمور مصرعوں والا کلام کہا۔ علی کرمہ اللہ اسی طور سے رد کلام کر کے اس سردار کے  
 آگے آڈٹے اور دوڑ کر اس کے لئے حملہ آور ہوئے۔ علی کرمہ اللہ کا وار اس طرح کاری ہوا کہ اس  
 سردار کا سر کٹ کر وہاں گرا اور وہ اسی دم ہلاک ہو کر واصل دارالآلام ہوا۔

الحاصل اس محکم حصار کے لئے آدھے ماہ سے سوا عسکر اسلامی عسکر محاصرہ کر کے  
 وہاں رہا اور لڑائی کا سلسلہ رہا۔

مال کاراہل اسلام کی حوصلہ وری اور علی کرمہ اللہ کی دلاوری سے وہ حصار ٹوٹا اور اہل  
 اسلام اس کے مالک ہوئے۔

۱۔ مرحب۔ ۲۔ مرحب بڑے جوش و خروش سے یہ رجز پڑھتا ہوا نکلا: قد علمت خیبرانی مرحب، شاکھی  
 السلاح بطل مجرب، اذا الحروب اقبلت تلہب۔ خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سطح پوش  
 ہوں، بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں، جب کہ لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے۔ فاتح خیبر اس منکرانہ رجز کا جواب دیتے ہوئے  
 بڑھے: انالذی سمتنی امی حیدرہ، کلیت غابات کربہ المنظرہ، او فیہم بالصاع کیل السدرہ۔ میں  
 وہ ہوں میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، جھاڑی کی شیر کی طرح مہیب اور ڈرانا، میں دشمنوں کو نہایت سرعت سے  
 قتل کر دیتا ہوں۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۶۰) ۳۔ (ہادی عالم،)

## معمر کہ مکہ مکرمہ

اسلامی صدی کا آٹھواں سال ہے، اہل مکہ سے سوء عہدی ہوئی، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ مکہ حملہ آور ہوں۔

اہل اسلام کو حکم ہوا کہ لڑائی کے واسطے آمادہ رہو! اہل اسلام لا علم رہے کہ کدھر کا ارادہ ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے اطلاع ملی کہ اک مادام سارہ اہل اسلام کے حملے کی اطلاع سے معمور اک مراسلہ لے کر سوائے مکہ راہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علی کریم اللہ، ولد عوامؑ اور ولد اسودؑ کو حکم ہوا کہ دوڑ کر مادام سارہ کو روک کر اس سے وہ مراسلہ لے آؤ!

علی کریم اللہ دوسرے ہمدموں کو ہمراہ لے ادھر گئے اور مادام سارہ کو روک کر کہا: ”وہ مراسلہ ہمارے حوالے کر دو!“

وہ مگر گئی اور کہا: کس مراسلے کا کہہ رہے ہو؟ وہ مراسلے کی حامل کہاں؟ علی کریم اللہ کا کلام ہوا: ”محال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کھوٹی ہو۔“ اور اس کو ڈرا دھمکا کر کہا کہ وہ مراسلہ دے دو! ہمارا ہراک آدمی وہ مراسلہ شول کر ہی رہے گا۔ وہ ڈر گئی اور مومے سر کی گرہ کھولی اور مراسلہ لے کر علی کریم اللہ کے آگے رکھا۔

علی کریم اللہ اس مراسلہ کو لے کر معمورہ رسول آئے اور اس مراسلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ مراسلہ کھلا، معلوم

فتح مکہ۔ معقریش کے دو قبیلے بنو خزاعہ اور بنو کلبہ ایک دوسرے کے دشمن تھے صلح حدیبیہ میں بنو خزاعہ مسلمانوں کی حلیف ہو گئے اور بنو کلبہ اہل مکہ کے حلیف ہو گئے بنو کلبہ نے مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ پر اچانک حملہ کیا اور اہل مکہ نے ان کی مدد کی۔ مع حضرت زبیر بن عوام۔ مع مقداد بن اسود۔

ہوا کہ اس مراسلے کا محرر معرکہ اول والا اک معلوم ہمد رسول ہے۔<sup>۱</sup>

رسول اللہؐ کا اس سے کلام ہوا:

”اے ہمد! وہ مراسلہ اسی کا ہے؟ اور کس لئے لکھا ہے؟“

ہمد رسول آگے ہوئے اور کہا:

”اے اللہ کے رسول! مسلم ہوں اور اسلام کی روگردی سے دور ہوں۔ معاملہ اس طرح ہے کہ ہر ہمد کا اہل مکہ سے اسروئی واسطہ ہے اس سے واسطے کی رو سے معرکہ مکہ کے لمحے ہر ہمد کی اولاد و گھروالوں کی رکھوالی ہوگی، مگر وہ اس طرح کے اسروئی واسطے سے محروم ہے، دل سے کہا کہ اگر اس کے واسطے سے اہل مکہ کو معرکہ مکہ مکرمہ کی اطلاع ملے گی، لامحالہ معرکہ کے لمحے اس کے گھر والے معصوم ہوں گے۔ واللہ! اس کے علاوہ ہر طرح کے ارادہ سے دور ہوں۔“

عمر مکرم حسام لئے اٹھے اور کہا:

”اے اللہ کے رسول! اگر حکم ہو اس مکار کا سراڑ اڈوں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوا:

”اے عمر! معلوم ہے کہ وہ ہمد معرکہ اول والا ہے<sup>۲</sup> اور معرکہ اول

والوں کے سارے معاصی محو ہوئے۔

الحاصل! وداع مکہ کو آٹھ سال ہوئے، ماہ صوم کی دس کو رسول اللہ کے حکم سے دس دس سو کے دس گروہ اکٹھے ہو کر رسول اکرم کے ہمراہ مکہ کے لئے رواں ہوئے۔

اک علمدار اسلام، مددگار سعد کا اس طرح کا کلام ہوا:

”وہ لمحہ معرکہ آرائی کا لمحہ ہے، اس لمحے دار اللہ کے احاطے لوگوں کی ہلاکی روا

ہے۔“

۱۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ سے خانہ دانی تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا: اے عمر! یہ بدری ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بدریوں کے تمام گناہ معاف ہیں؟ (سیر الصحاب، ج: ۱، ص: ۲۶۱)



مددگار سعد سے اس طرح کا کلام مسوع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کا کلام ہوا:

”اے سعد! اس طرح کہو کہ وہ لمحہ دار اللہ کے علو کا لمحہ ہے۔“

اور علی کرمہ اللہ سے کہا کہ ہم سعد سے علم لے لو! علی کرمہ اللہ علم لے کر محلہ کداء سے مکہ وارد ہوئے اور اہل اسلام مکہ کے مالک ہوئے۔<sup>۱</sup>

دار اللہ کا احاطہ صد اور ساٹھ مٹی کے الہوں سے اٹا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم ادھر گئے اور اک نکڑی مٹی کے الہوں کو لگا لگا کر کلام الہی کا اک حصہ کہتا۔ اس سے وہ مٹی کے الہ گر گئے۔ لوہے کی سل لگا مٹی کا اک الہ دوسرے الہوں سے سوا محکم رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کو حکم ہوا:

”اے علی! اللہ کے رسول کو اٹھاؤ کہ وہ مٹی کے اس الہ کو گرائے!“

علی کرمہ اللہ محروم رہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کو اٹھا سکے۔ اس لئے رسول اللہ آگے ہوئے اور علی کرمہ اللہ کو اٹھا کر کہا کہ اس مٹی کے اس الہ کو گرا دو!  
علی کرمہ اللہ حکم رسول کے عامل ہوئے اور اس مٹی کے الہ کو لوہے کے سل سے اکھاڑا۔  
اس طرح دار اللہ مٹی کے الہوں سے طاہر ہوا۔

مہم حسام اللہ اور علی کرمہ اللہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ وسلم کا اک ہدم کہ وہ حسام اللہ کے اسم سے موسوم ہے اس کو حکم ہوا کہ وہ اعلائے اسلام کے لئے اک گروہ کے آگے راہی ہو!

۱ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۶۲): ۲ بت۔ ۳ آپ: جساء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ پڑھتے جاتے، خانہ کعبہ کے گرد رکھے گئے بتوں کو ککڑی سے اشارہ کرتے جاتے۔ (حوالہ بالا) ۴ حضرت علیؓ بار نبوت نہ اٹھا سکے، اس لئے آپؐ نے حضرت علیؓ کو شانہ اقدس پر چڑھا کر اس بت کو گرانے کا حکم دیا۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۶۲)

حسام اللہ گئے اور اس گروہ کو وصول اسلام کا کہا۔ وہ گروہ اسی لمحے مسلم ہوا، مگر لاعلمی سے اس طرح کا کلمہ کہا کہ حسام اللہ کو لگا کہ وہ گروہ اسلام سے روگردی کر رہا ہے، اس لئے حسام اللہ کے حکم سے اس گروہ کے کئی لوگ ہلاک اور کئی محصور کئے گئے۔

رسول اللہ کو اس کی اطلاع ملی اس اطلاع سے رسول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کو گہرا دکھ ہوا، اسی لمحے علی کرمہ اللہ کو حکم ہوا:

”اے علی! دوڑ کر ادھر رہی ہو اور ہلاک کئے گئے ہر آدمی کا مال دم ادا کرو اور محصوروں کو رہا کر دو!“

علی کرمہ اللہ ادھر گئے اور اسی طرح کر کے لوٹے۔

### معرکہ وادی واوطاسؓ

اس معرکہ اہل اسلام کے دس دس سوکے دس اور دو گروہ ۳ ماہ صوم کی آٹھ کور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمراہ رواں ہوئے۔

عسکر اسلام کے اس سوا عدد سے مسخو رہو کر عسکر کا کوئی آدمی کہہ اٹھا کہ مجال ہے کہ عسکر کی کمی کی رو سے ہم کو رسوائی ملے۔ اللہ کو وہ کلمہ مکر وہ لگا، اسی لئے اول اول اہل اسلام کی اس معرکہ سے ہوا اُکھڑ گئی اور وہ اس حد گراں حال ہوئے کہ سرور عالم کے گرد کوئی دس آدمی رہ گئے؛ ہدم مکرم، عمر مکرم، علی کرمہ اللہ، ہدم اسامہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے عم مکرم رسول اللہ کے ہمراہ ہے۔

علی کرمہ اللہ حوصلہ وری اور دلاوری سے حملہ آور ہوئے اور اعداء کے سالار کو حملہ

۱) (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۶۲) غزوہ حنین۔ حنین طائف اور مکہ کے درمیان اک وادی ہے اور اوطاس ایک مقام کا نام ہے جہاں غزوہ حنین میں ابو عامر اشعری دشمنوں کے تعاقب میں گئے اور ان کو زیر کر کے لوٹے (ہادی عالم، ص: ۳۷۰) ۲) غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار تھی، دس ہزار تو وہی صحابہ تھے جو مدینہ سے آئے تھے اس کے علاوہ مکہ مکرمہ کے دو ہزار آدمی جن کو معافی دی گئی وہ بھی ساتھ ہوئے۔ ۳) (سیرت ابن ہشام، ج: ۲، ص: ۲۶۴)

کر کے مار ڈالا۔

آل کاراہل اسلام کا مگارہوئے اور گروہ اعداء کے حد سے سوا اموال اہل اسلام

کو ملے۔

## معرکہ عسره اور علی کرمہ اللہ کا اکرام

اس معرکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علی کرمہ اللہ کے لئے حکم ہوا: اے علی!

معمورہ رسول رہ کر ہمارے گھر والوں کی رکھوالی کرو!

علی کرمہ اللہ اس معرکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی سے محروم رہ کر دکھی ہوئے، مگر رسول اللہ کے حکم کی رو سے رسول اللہ کے گھر والوں کی رکھوالی کے لئے معمورہ رسول رک گئے۔

ادھر مکاروں کی مکروہ کلامی سے گہرا دکھ ہوا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے

آئے اور سارا حال کہا۔ رسول اللہ کا علی کرمہ اللہ کی دلداری کے لئے کلام ہوا:

اے علی! مسرور ہو کہ اللہ کے رسول کے لئے علی اس طرح ہے کہ موسیٰ رسول کے لئے اس کا ولد ام۔؟ ہاں مگر محال ہے کہ رسول اللہ کے سوا امر وحی کسی اور کو عطا ہو۔

۱ (سیر الصحاب، ج: ۱، ص: ۲۶۲، تاریخ اسلام) ۲ غزوہ تبوک کو سخت آزمائشی حالات کی وجہ سے غزوہ عسره بھی کہتے ہیں۔ عسره کے معنی تنگی اور تکلیف کے ہیں۔ ۳ منافقوں نے علی کی نسبت یہ کہنا شروع کیا کہ آنحضرت کو علی کی کچھ پرواہ نہیں، اس لئے ان کو مدینہ میں چھوڑ دیا ہے۔ حضرت علیؑ سے یہ برداشت نہ ہو اوہ مسلح ہو کر مدینہ سے چل دیئے اور مقام الجرف میں مدینہ سے کوس بھر کے فاصلے پر آپؑ سے ملے اور منافقوں کی طعنہ زنی کے بارے میں بتایا۔ آپؑ نے فرمایا: اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لانی بعدی (مشکوٰۃ شریف، ج: ۱، ص: ۵۶۳) یعنی اے علی! کیا آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ میری طرف سے اس مرتبہ پر ہوں جس مرتبہ پر حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی طرف سے تھے مگر بات یہ کہ میرے بعد کسی کو منصب نبوت نہیں ملے گا۔ (سیرت علی، ص: ۹۵)

## ہمسائے ملک کے لئے مہم علی کرمہ اللہ

وداع مکہ کو دسواں سال ہو اس سال سرور عالم کے حکم سے کئی ہمد و مددگار اردگرد کے امصار کے لئے مہم لے کر گئے اور اللہ کے کرم سے کامگار لوٹے۔

اسی طرح علی کرمہ اللہ کو حکم ہوا کہ وہ ہمسائے ملک کے لئے اہل اسلام کے اک گروہ کو لے کر راہی ہو اور وہاں کے لوگوں کو کلمہ اسلام کا حکم کر کے ساروں کو راہدہ ٹی دکھائے! وہ اس مہم کے لئے رواں ہوئے اور کئی گروں سے صلح کر کے اور کئی لوگوں کو مسلم کر کے اور اموال و املاک لے کر لوٹے۔

## گروہ تپے کے لئے مہم علی

علی کرمہ اللہ سرور عالم کے حکم سے اک مہم گروہ تپے کے لئے لے کر گئے وہاں کے سردار عدی ولد طائی کو معلوم ہوا کہ اہل اسلام کی کوئی مہم ادھر آرہی ہے وہ ڈر کر وہاں سے دوڑا اور ملک روم آ کر ٹھہرا علی کرمہ اللہ اول کلمہ اسلام کہہ کر مصر ہوئے کہ اسلام لے آؤ!

مال کار معمولی معرکہ آرائی کا سلسلہ ہوا اور اس گروہ کے کئی لوگوں کو محصور کر کے لائے۔ اس ملک کا اک سرکردہ گروہ علی کرمہ اللہ کی ساعی سے مسلم ہوا اور اس گروہ کے واسطے سے وہاں کے کئی گروہ اسلام لائے۔

## احکام الہی کی اطلاع رسائی

اس سال کے موسم احرام کی آمد آمد ہوئی، گروہوں کی آمد کا سلسلہ حد سے سوار ہا، اس لئے رسول اللہ کے لئے مجال ہوا کہ وہ اس سال عمرہ و احرام کے لئے مکہ مکرمہ راہی ہوں۔

اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ ہمد مکرم اہل اسلام کو لے کر سونے مکہ راہی ہوں اور وہی سارے امور عمرہ و احرام کے معلم ہوں۔ اس طرح سہ صد اہل اسلام ہمد مکرم

کے ہمراہ سوئے مکہ راہی ہوئے۔

ادھر سرور عالم کو کلام الہی کی اک سورہ وحی کی گئی۔ اللہ کا حکم ہوا کہ گمراہوں کو اطلاع کر دو:

”اللہ کا حکم وارد ہوا ہے کہ اس سال کے علاوہ سارے گمراہ سدا کے لئے حرم سے دور ہوں۔“

اس کے علاوہ عمرہ و احرام کے دوسرے کئی امور کا حکم ہوا۔

ہمد علی کرمہ اللہ کو حکم ہوا کہ دوڑ کر راہی ہو اور عمرہ و احرام کے سارے احکام ادا کر کے گمراہوں کو اطلاع کر دو کہ اللہ کا حکم اس طرح ہوا ہے۔ ہمد علی کرمہ اللہ معمورہ رسول سے راہی ہو کر راہ کے اک مرحلے آ کر ہمد مکرم سے ملے اور سارا حال کہا اور کہا کہ مامور ہوں کہ احکام احرام ادا کر کے گمراہوں کو اکٹھا کروں اور کلام الہی کا وہ حصہ سارے لوگوں کے آگے کہوں۔ اس طرح علی کرمہ اللہ ہمد مکرم اور دوسرے اہل اسلام کے ہمراہ مکہ مکرمہ راہی ہوئے اور سارے احکام ادا کر کے لوگوں سے کہا کہ گمراہوں کے سارے گروہ اکٹھے ہوں۔ مکے اور اردگرد کے گروہ اکٹھے ہو گئے۔ ہمد علی کرمہ اللہ آگے آئے اور کلام الہی کا وہ سارا حصہ لوگوں کے آگے کہا۔

اس طرح سارے لوگوں کو حکم الہی سے مطلع کر کے علی کرمہ اللہ اور ہمد مکرم اہل اسلام کو ہمراہ لے کر معمورہ رسول لوٹ آئے۔<sup>۱</sup>

## احرام الوداع اور علی کرمہ اللہ

رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم احرام و عمرہ کے لئے سوئے مکہ راہی ہوئے، علی

۱۔ سورہ توبہ کی وہ آیات نازل ہوئیں جن میں یہ حکم تھا کہ اس سال کے بعد مشرکین مسجد حرام کے قریب نہ جائیں گے

اور ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کریں وغیرہ (باری عالم، ص: ۳۹۵) ۲ (ایضاً) ص: ۳۹۵ ج۱: حجاج الوداع۔

کر مہ اللہ کو اس کی اطلاع ملی، وہ ہمسائے ملک سے مکہ مکرمہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور عمر و احرام کے امور کے علاوہ دوسرے کئی اہم امور ادا کئے۔

### رسول اللہ کا وصال مسعود اور علی کریم اللہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے لوٹ کر معمورہ رسول آئے، وداع مکہ کا دسواں سال مکمل ہوا، اگلے سال کے ماہ محرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد سر کا سلسلہ ہوا اور اسی سے محوٴ ہوئے، گاہے گاہے درد کی کمی محسوس ہوئی، عماد اسلام کی ادائیگی کے واسطے عم رسولؐ اور علی کریم اللہ کے سہارے حرم رسول آئے۔

مال کا درد حد سے سوا ہوا اور سرور عالم کے لئے محال ہوا کہ وہ حرم رسول آ کر عماد اسلام کے لئے کھڑے ہوں۔

اک سحر علی کریم اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آ کر لوگوں سے ملے، لوگوں کا سوال ہوا کہ:

”اے علی! رسول اللہ کا حال کس طرح ہے؟“

علی کریم اللہ کا رد کلام ہوا:

”الحمد للہ! عمدہ ہے۔“

عم رسولؐ آٹھے اور علی کریم اللہ کے مومن کا مطالعہ کر کے کہا:

”واللہ! ہم کو اسرہ کے لوگوں کے مومن سے ہی معلوم رہا ہے کہ وہ لمحہ وصال

۱۔ حضرت علیؑ کو جس وقت رسول اللہؐ کے حجۃ الوداع کی اطلاع ملی تو آپؐ اس وقت یمن میں تھے فوراً وہاں سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حج کے ارادے مکہ پہنچے اور آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے ادائیگی حج کے بعد آپؐ نے ۶۳ اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح کئے، اس کے بعد حضرت علیؑ کو ارشاد فرمایا کہ بھایا اونٹوں کو آپؐ ذبح کریں! چنانچہ انہوں نے اسپر عمل درآمد کیا۔ (مشکوٰۃ شریف، ص: ۲۲۵، سیرت علی، ص: ۱۱۲) ۲۔ بخار والہ۔ ۳۔ حضرت عباسؑ۔

کالمحہ ہے، اس لئے ہمارے ہمراہ رسول اللہ کے آگے آؤ کہ ہم رسول اللہ سے ولی عہدی کے سائل ہوں۔“

علیٰ کرمہ اللہ کا رد کلام ہوا:

”وہ اس امر سے دور ہی رہے گا۔ واللہ! اگر رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کے حکم سے ولی عہدی سے محرومی ہوئی، معلوم رہے کہ سدا کے لئے محرومی ہوگی۔“<sup>۱</sup>

مال کارکنی سحر محمود رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم دار السلام کو راہی ہوئے اور اللہ واحد سے آملے اور اللہ کا رسول، اللہ کے حکم سے اس عالم مادی سے سدھارا۔  
(ہم ساروں کا اللہ مالک ہے اور ہمارا ہر آدمی اسی کے ہاں لوٹے گا)<sup>۲</sup>

علیٰ کرمہ اللہ رسول اکرم کے اسرہ اور گھر والے رہے، اس لئے سارے امور لحد سے علیٰ کرمہ اللہ سے ہی مکمل ہوئے۔

### حاکم اول ہمد مکرّم اور علیٰ کرمہ اللہ

وصال رسول کے آگے سارے لوگوں کا حاکم اول سے عہد ہوا۔ علیٰ کرمہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کے لحد کے امور مکمل کر کے آئے اور اسی لمحے اس کا ہمد مکرّم سے عہد ہوا<sup>۳</sup> اور ساری عمر ہمد مکرّم، عماد اسلام کے لئے علیٰ کرمہ اللہ کے امام رہے۔<sup>۴</sup>

### ہمد مکرّم سے علیٰ کرمہ اللہ کا لگاؤ

حاکم اول کی رائے ہوئی کہ صحرائی لوگوں سے معرکہ آرائی ہو، وہ سواری لے کر اٹھے

۱۔ (بخاری باب مرض النبی، مستدرک حاکم، ج: ۳، ص: ۱۱۱) ج: ہادی عالم، بالاختصار والتعمیر۔ س: تجہیز و تکفین۔ ج: بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی نے چھ ماہ تک بیعت نہیں کی یہ بالکل غلط ہے اور راویوں کی طرف سے روایت میں ادراج ہے ہر قول نہیں تفصیل کیلئے ملاحظہ فرمائیں رحماء بینہم۔ (حصہ صدیقی باب دوم، ص: ۲۶۲۳۲۳۸ اور سیرت علی المرتضیٰ مولفہ محمد نافع مدظلہ ص: ۱۳۱) ۵۔ (سیرت علی، ص: ۱۵۱) ۶۔ جنگی قبائل۔

اور صحرائی لوگوں سے لڑائی کے واسطے سوئے وادیٰ راہی ہوئے۔  
 علی کرمہ اللہ کو معلوم ہوا وہ دوڑ کر آئے اور حاکم اول کی سواری کی لگام لے کر کہا:  
 ”حاکم اول سے ہمارا کلام اسی طرح کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کل رسلہ  
 وسلم کا معرکہ احد کو ہوا۔“<sup>۱</sup>

اے حاکم اسلام! حسام کو ڈھک لو اور اہل اسلام کو ہر طرح کی الم رسانی سے دور رکھو!  
 واللہ! اگر ہلاک ہو گئے، اسلامی کارواں ٹکڑے ٹکڑے ہو گا۔ علی ہر طرح کی مدد کے لئے آمادہ  
 ہے۔

علی کرمہ اللہ کے اس کلام سے حاکم اول معمورہ رسول لوٹ آئے اور دوسرا عسکر سوئے وادی  
 رواں ہوا۔

اسی طرح دوسرے اہم اسلامی امور کے واسطے علی کرمہ اللہ حاکم اول کے ہمراہ رہے۔  
 عمر مکرم اور علی کرمہ اللہ

حاکم اول کے وصال کا لمحہ آگیا، ولی عہدی کا اک مراسلہ لکھوا کر حاکم اول کا لوگوں  
 سے کلام ہوا:

”لوگو! ہم سے کہو کہ ہمارے اس عہد کے عامل ہو گئے؟“

لوگوں کا رد کلام ہوا: ہاں! عامل ہوں گے۔

علی کرمہ اللہ کا کلام ہوا:

”اگر اولوالا عمر ہوں گے ہم کو وصول ہے۔“

۱۔ وادی القصبہ ۲۔ حضرت علیؑ نے فرمایا میں آپؐ کو وہی بات یاد دلاتا ہوں جو رسول اللہؐ نے احد کے دن فرمائی تھی، آپؐ اپنی تلوار نیام میں کریں اور اپنی ذات کے متعلق ہمیں کسی پریشانی میں نہ ڈالیں، اللہ کی قسم! اگر ہمیں آپؐ کی ذات کے متعلق کوئی مصیبت پہنچی تو آپؐ کے بعد اسلام کیلئے کوئی صحیح نظم قائم نہ رہ سکے گا۔ (سیرت علی، ص: ۱۵۳) تقسیم اموال خمس، اہم دینی مسائل میں مشادات اور تدوین قرآن وغیرہ۔



اور وہ عہد عمر مکرم ہی کے لئے رہا!

عہد عمر اور عہدہ علی کرمہ اللہ

عمر مکرم کے دور کو علی کرمہ اللہ لوگوں کے واسطے اک عمدہ حکم ہے۔

اہم امور کے لئے علی کرمہ اللہ سے رائے

عمر مکرم اہم امور کے لئے علی کرمہ اللہ سے رائے لے اس رائے کے عامل ہے۔

عمر مکرم کی ولی عہدی

عمر مکرم کے ہاں علی کرمہ اللہ سدا اہل رائے رہے، اس لئے اگر کسی لمحے عمر مکرم کا ارادہ

کسی محل کے رحلہ کا ہوا، علی کو ولی عہد کر کے گئے،

علی کرمہ اللہ عمر مکرم کے سر

علی کرمہ اللہ کا عمر مکرم اسروى واسطہ رہا، علی کرمہ اللہ کی اک لڑکی کی عروسى، علی کرمہ

اللہ کے حکم سے عمر مکرم سے ہوئی۔

اس طرح عمر مکرم، علی کرمہ اللہ کے داماد ہو گئے اور علی کرمہ اللہ عمر مکرم کے سر ہو گئے اور اللہ کے

کرم سے عمر مکرم کو اس لڑکی سے اولاد عطا ہوئی۔

۱۔ سبحان اللہ! سیدنا علیؑ بھی ابو بکر صدیقؓ کے بعد عمر فاروقؓ کی خلافت کے قائل تھے۔ (سیرت علی، ص: ۱۶۷) ۲۔

قاضی۔ ۳۔ یہ درست ہے کہ عہد فاروقی میں حضرت علیؑ کے مخلصانہ مشوروں کو ہمیشہ اہمیت دی گئی اور بیشتر ان کی رائے کی

موافقت میں فیصلے کئے گئے مثلاً: (۱) حاصل شدہ اموال میں وقتی طور پر صدقہ ادا کرنے کے متعلق مشورہ۔ (۲) دیت

میں مشورہ۔ (۳) بدغلی کی سزائیں احراق کا مشورہ۔ (۴) شراب خوری کی سزائیں اضافے کا مشورہ۔ (۵) تیسری

چوری کی سزا کا مشورہ۔ (۶) فاروق اعظمؓ کے مشاہرہ اور تعین کا مشورہ۔ (۷) سن ہجری کے اجراء کے بارے میں

مشورہ۔ (۸) علاقہ نہاد کی طرف اقدام کرنے میں خروج خلیفہ کے بارے میں مشورہ۔ (۹) غزوہ روم میں خلیفہ ثانی

کے بذات خود تشریف نہ لے جانے کے متعلق مشورہ۔ (۱۰) مال غنائم کی تقسیم کے بعد بقایا مال کو پس انداز کرنے

کا مشورہ۔ (حوالہ بالا) ۴۔ نیابت فاروقی۔ ۵۔ ام کلثوم جن کی والدہ سیدہ فاطمہؓ ہیں۔ ۶۔ ایک لڑکا زید اور ایک لڑکی رقیہ۔

## وصال عمر اور ولی عہدی کے لئے اسم علی کریمہ اللہ

عمر مکرم کے وصال کا لمحہ آگیا، عمر مکرم کے حکم سے اہل رائے لوگوں کا اک گروہ ولی عہدی کے لئے طے ہوا، اس گروہ کو حکم ہوا کہ وہ رائے سے کسی اک کو حاکم اسلام طے کر لے۔  
علی کریمہ اللہ اسی گروہ کے آدمی رہے۔

## عمر مکرم کی علی کریمہ اللہ کو داد و عطا

عمر مکرم کے عہد کو عمر مکرم کے حکم سے علی کریمہ اللہ کو منیٰ کا اک عمدہ حصہ ملا وہ حصہ ماء طاہر کا حامل رہا اور علی کریمہ اللہ کے لئے کمائی کا واسطہ ہوا۔

## علی کریمہ اللہ کے مومنوں سے عمر مکرم کے رسالہ اعمال کی مدح سرائی

عمر مکرم کا وصال ہوا، اس کو اک ردا اوڑھائی گئی، علی کریمہ اللہ آئے اور کہا:  
”عمر مکرم سے عمدہ ہمارے آگے اور کوئی کہاں؟ اللہ کرے، علی کا رسالہ اعمال، عمر مکرم کے رسالہ اعمال کی طرح ہو۔“

## لحدِ عمر مکرم کے لئے علی کریمہ اللہ کی مددگاری

عمر مکرم کے وصال کے آگے امور لحد کے لئے علی کریمہ اللہ دوسرے ہمد مومنوں کے ہمراہ

رہے۔

## دو رِ عمر کے واسطے علی کریمہ اللہ کا کلام

عمر مکرم کے دور کے لئے علی کریمہ اللہ کا کلام ہوا:  
”دو رِ عمر کے سارے امور کمال عمدہ رہے اور عمر مکرم اک اعلیٰ حاکم رہے۔  
واللہ! ہم اس سے دور ہوں گے کہ عمر مکرم کے لاگو کردہ امور مجھوں۔“

۱۔ (سیرت علی، ص: ۱۶۷) ۲۔ نامہ اعمال۔ ۳۔ (سیرت علی، ص: ۱۸۱) ۴۔ عبداللہ بن عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت

## داماد رسول حاکم سوم اور علی کرمہ اللہ

### اسرومی واسطہ

حاکم سوم، علی کرمہ اللہ کی سگی عمہ مکرمہ کی لڑکی ارومی کا لڑکا ہے اور ولد علی کرمہ اللہ کی لڑکی کی عروسی حاکم سوم کے لڑکے کے لڑکے سے ہوئی اور دوسری لڑکی کی عروسی حاکم سوم کے دوسرے لڑکے کے لڑکے سے ہوئی۔

### حاکم سوم سے عہد

اہل رائے کی رائے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہرے داماد حاکم اسلام ہوئے۔ اک آدمی کے سوا سارے لوگوں سے اول ہمدم علی کرمہ اللہ کا حاکم سوم سے عہد ہوا۔<sup>۷</sup>

### علی کرمہ اللہ، حاکم سوم کے مددگار

اہم امور کے لئے علی کرمہ اللہ سدا حاکم سوم کے مددگار رہے۔<sup>۸</sup> کلام اللہ کے مسئلے کے لئے علی کرمہ اللہ کا لوگوں سے کلام ہوا:  
”لوگو! کلام الہی کے معاملے کے واسطے حاکم سوم راہ ہدیٰ کا رہو ہے اس کے حکم کی روگردی سے دور رہو۔“<sup>۹</sup>

### محاصرہ حاکم سوم اور علی کرمہ اللہ کا کردار

روگردوں کا گروہ حاکم سوم کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑا ہوا، علی کرمہ اللہ صلح کے لئے

۱۔ حضرت عثمان غنیؓ۔ ۲۔ ام کلثوم البیضاء بنت عبدالمطلب جو حضرت علیؓ کی سگی چھو بھئی تھیں۔ ۳۔ حضرت حسینؓ۔ (سیرت علیؓ، ص: ۱۸۶) ۴۔ سکینہ بنت حسینؓ۔ (ایضاً) ۵۔ زید بن عمرو بن عثمانؓ، حضرت عثمانؓ کا پوتہ۔ (ایضاً) ۶۔ حضرت فاطمہ بنت حسینؓ۔ (ایضاً) ۷۔ عبد اللہ بن عمرو بن عثمانؓ، حضرت عثمانؓ کا پوتہ۔ (ایضاً) ۸۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے خلافت عثمانؓ کا اعلان کر کے اول خود بیعت کی اس کے بعد حضرت علیؓ نے۔ (طبقات ابن سعد، ص: ۴۳، ۴۴، بخاری شریف، ص: ۵۲۵) ۹۔ سیرت علیؓ، ص: ۱۸۸، ۱۰۔ (ایضاً، ص: ۱۸۹) ۱۱۔ باغیوں۔

ہر طرح سے ساعی رہے، مگر محال ہوا کہ روگردوں کا محاصرہ ٹوٹے، اس لئے علی کرمہ اللہ کا لڑکوں<sup>۱</sup> کو حکم ہوا کہ وہ رکھوائی کے لئے حاکم سوم کے گھر آگے کھڑے ہوں۔

**حاکم سوم کی گواہی اور علی کرمہ اللہ کا رد عمل**

حاکم سوم روگردوں کے حملے سے اللہ کے گھر کو سدھارے، علی کرمہ اللہ کو اس کی اطلاع ہوئی، اسی لمحے کہا:

”اے اللہ! علی حاکم سوم کی ہلاکی کے معاملے سے الگ ہے۔“

اور آکر لڑکوں کو مارا کہ کس طرح کی رکھوائی کی کہ حاکم سوم ہلاک کر دئے گئے۔<sup>۲</sup>

**حاکم سوم کے امور لحد علی کے حکم سے**

حاکم سوم کے وصال کو دو سحر سے سوا عرصہ ہوا، روگردوں کے ڈر سے لوگ حاکم سوم کے امور لحد سے محروم رہے، مگر علی کرمہ اللہ اٹھے اور اس کے حکم سے حاکم سوم کو مٹی دی گئی۔<sup>۳</sup>

### عہد علوی

حاکم سوم کے وصال کے آگے سہ سحر لوگ حاکم اسلام سے محروم رہے، اس عرصہ لوگوں کا علی کرمہ اللہ سے اصرار رہا کہ وہ اہل اسلام کے لئے ”اولوالامر“ ہوں، مگر علی کرمہ اللہ اس سے روگرداں رہے۔

مال کار ہمدموں اور مددگاروں کی رائے سے طوعاً و کرہاً اولوالامری کے لئے آمادہ ہو کر حرم رسول آئے اور لوگوں کا علی سے عہد ہوا۔<sup>۴</sup>

### اول معاملہ

اولوالامر ہو کر علی کرمہ اللہ کے لئے اہم معاملہ وہ رہا کہ وہ حاکم سوم کے مہلکوں<sup>۵</sup>

۱۔ حضرات حسین رضی اللہ عنہما۔ ۲۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۶۸) ۳۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۲۱۵) ۴۔ (سیرت علی، ج: ۲، ص: ۲۲۸) ۵۔ قاتلون۔

کو معلوم کر کے صلہ دم کی وصولی کرے، مگر معاملہ اس لئے گراں ہوا کہ حاکم سوم کی گواہی کے لئے ایک حاکم سوم کی گھر والی ہی گواہ ہوئی۔  
حاکم سوم کی گھر والی سے معلوم ہوا کہ حاکم سوم کی گواہی کے لئے محمد ولد ہمد مکرّم اور دو اور لا معلوم آدمی گھر آئے۔

علی کرّمہ اللہ کا محمد ولد ہمد مکرّم سے سوال ہوا:  
”اے محمد! ہم سے کہو کہ وہ حاکم سوم کا مہلک ہے؟“  
محمد کا رد کلام ہوا:

”واللہ! وہ حاکم سوم کے گھر گھسا، مگر حاکم سوم کا کلام مسموع کر کے عار آئی اور وہ وہاں سے لوٹا، اس لئے وہ لاعلم ہے کہ حاکم سوم کا مہلک کس اسم سے موسوم ہے؟“

حاکم سوم کی گھر والی محمد ولد ہمد مکرّم کے اس کلام کی گواہ ہوئی۔ اس طرح حاکم سوم کے مہلک لا معلوم رہے اور علی کرّمہ اللہ کے لئے گراں ہوا کہ وہ کوئی کاروائی کرے۔

### عمال و حکام کی معطلی

علی کرّمہ اللہ کو معلوم رہا کہ لوگوں کی حاکم سوم سے روگردی اور حاکم سوم کی ہلاکی کی راہ حاکم سوم کے طے کردہ عمال کی سوء راہ روی سے ہموار ہوئی،<sup>۵۱</sup> اس لئے اولوالامر ہو کر علی کرّمہ اللہ کے حکم سے حاکم سوم کے دور کے کئی عامل معطل ہوئے اور دوسرے عامل طے کئے گئے۔

۱۔ قصاص ۲۔ قاتلوں کے علاوہ اس وقت گھر میں صرف سیدنا عثمان غنیؓ کی اہلیہ حضرت نانئہؓ ہی تھیں۔ ۳۔ حضرت علیؓ نے محمد بن ابی بکر سے پوچھا کہ آیا وہ بھی قاتلین عثمانؓ میں شامل تھا، اس نے انکار کیا، جس کی تائید سیدنا عثمان غنیؓ کی اہلیہ حضرت نانئہؓ نے کی۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۶۹) ۴۔ کیونکہ تحقیق و تفتیش کے باوجود بھی قاتلوں کا پتہ نہ چلا تھا۔ ۵۔ حضرت علیؓ کے نزدیک شہادت عثمانؓ کا اصلی سبب عمال کی بے اعتدالیوں تھیں، اس لئے آپؓ نے تمام عثمانی عمال کو معزول کر کے دوسرے لوگوں کو طے کیا۔

سہل کو حکم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے یعنی محرومی کے ملک کا عامل ہو کر ادھر رہا ہی ہو!

وہ علی کرمہ اللہ کے حکم سے ادھر رواں ہوئے، مگر راہ کے اک مرحلے محرومی کے سوار آڑے آئے اور اس کو روکا، اس لئے سہل معمرہ رسول لوٹ آئے اور آکر سارا حال علی کرمہ اللہ سے کہا۔

اس اطلاع کو مسموع کر کے علی کرمہ اللہ کو معلوم ہوا کہ اس کا عہد معرکہ آرائی سے معمر ہوگا۔

علی کرمہ اللہ کے حکم سے محرومی کو اک مراسلہ ارسال ہوا اس کا ما حاصل اس طرح ہے:

”سارے ہمدوموں اور مددگاروں کا ہم سے عہد ہوا ہے، اس لئے آکر ہم

سے عہد کرو اور روگردی سے دور رہو! روگردی کرو گے، معرکہ آرائی ہوگی۔“

محرومی کا رد کلام ہوا:

”اے علی! اول حاکم سوم کے مہلکوں سے صلہ دم وصول کرو اس کے اس

کے آگے ہمارا عہد ہوگا۔“

مگر علی کرمہ اللہ کا اصرار رہا: اول ہم سے عہد کرو! اس کے آگے دادرسی کے لئے ہم

سے کہو! اللہ کے حکم سے حاکم سوم کے مہلکوں سے صلہ دم لے کر رہوں گا۔

علی کرمہ اللہ، محرومی کے ہاں

اہل مطالعہ کو معلوم رہے کہ محرومی اولوالامری کے ارادے سے دور رہے اور اس

کو معلوم رہا کہ علی کرمہ اللہ ہی اولوالامری کا اہل ہے، مگر عہد علی سے روگرداں اسی لئے رہے کہ

اس کا مدعا رہا کہ علی کرمہ اللہ اول حاکم سوم کا صلہ دم لے۔

اللہ کا حکم اسی طرح رہا کہ علی کرمہ اللہ سے طوعاً و کرہاً کئی امور اس طرح کے

صادر ہوئے کہ لوگ اک اک کر کے علی کرمہ اللہ سے روگرداں ہوئے۔ امر اول: حاکم سوم کے

مہلک لا معلوم رہے۔ امر دوم: حاکم سوم کے اعداء اور مہلک، علیٰ کرمہ اللہ کے عسکر کا حصہ ہو کر اس کے مددگار ہوئے۔ امر سوم: حاکم سوم کے طے کردہ عمال و حکام کی معطلی<sup>۱</sup>۔ اسی لئے اہم، اہم لوگوں کے دل و ساوس سے معذور ہوئے۔

### ہمد مطلقہ و ولد عوام کا ملے کا ارادہ

ہمد مطلقہ و ولد عوام علیٰ کرمہ اللہ سے عہد کر کے عمرہ و احرام کی ادائے گی کے لئے سوئے مکہ راہی ہوئے۔ عروس مطہرہ<sup>۲</sup> کہ اول ہی سے احرام کی ادائے گی کے لئے مکہ رواں رہی، اس سے آکر ملے اور سارا حال کہا۔

ہمسائے ملک سلمہ کا اک والی کہ وہ حاکم سوم کے دور کو اس ملک کا والی رہا اور علیٰ کرمہ اللہ کے حکم سے معطل ہوا، وہ اسی لمحے مکہ وارد ہوا اور مسطورہ لوگوں سے ملا اور اس کی سعی سے مسطورہ لوگ حاکم سوم کے صلہ دم کے لئے آمادہ ہوئے اور رائے آئی کہ سارے لوگ اک گروہ ہو کر دوسرے اسلامی ملک تیرا ہی ہوں کہ وہاں کے لوگوں کو ہمراہ کر کے اکٹھے صلہ دم کے لئے آمادہ ہوں۔ اس طرح حاکم سوم کے مہلکوں سے صلہ دم کی وصولی ہبل ہوگی۔ اس طرح طے کر کے سارے لوگ عروس مطہرہ کے آگے آئے اور کہا کہ اے اہل اسلام کی ماں! ہمارے ہمراہ اس ملک کے لئے راہی ہو کہ کسی طرح اہل اسلام دہرا کر اک ہوں اور ہر طرح کی لڑائی سے دور ہوں۔<sup>۳</sup>

### عروس مطہرہ اصلاح احوال کے ارادہ سے ہمراہ ہوئی

عروس مطہرہ اصلاح احوال کے لئے اس گروہ کی ہمراہی کے لئے آمادہ ہوئی اور وہ اس اسلامی ملک رواں ہوئے۔<sup>۴</sup>

۱۔ یہ وہ امور تھے کہ ان کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے تھے۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۷۰) ۲۔ سیدہ عائشہؓ۔ ۳۔ یحییٰ بن امیہ (خلافت راشدہ، ص: ۷۵، تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۴۳۰، ہیرت سیدنا علی المرتضیٰ، ص: ۲۳۷) ۴۔ بصرہ۔ ۵۔ (سیرت سیدنا علی المرتضیٰ، ص: ۲۳۸) ۶۔ (ایضاً)

## اسی ملک کے لئے رحلہ علیٰ کرمہ اللہ

علیٰ کرمہ اللہ کو اسی حال کی اطلاع ملی، لوگوں سے کہا کہ آمادہ رہو! ہمارا اسی ملک کا ارادہ ہے۔

کئی ہمد و مددگار آمادہ ہوئے، اسی طرح روگردوں کا وہ گروہ کہ حاکم سوم کا مہلک اور سطحی طور سے علیٰ کرمہ اللہ کا مددگار اور دراصل عدو اسلام رہا، وہ گروہ علیٰ کے ہمراہ ہوا۔ کئی ہمدوں کا علیٰ سے کلام ہوا کہ وہ اس ارادے سے دور رہے اور معمورہ رسول رہ کر ہی لوگوں کو حکم کرے! لوگ معرکہ آرائی کے واسطے راہی ہوں گے۔ مگر علیٰ کرمہ اللہ سارے لوگوں کو ہمراہ لے کر رواں ہو گئے۔

راہ کے اک مرحلے علیٰ کرمہ اللہ کا لڑکے اور ہمد عمار کو حکم ہوا کہ وہ والد موسیٰ کے ملک راہی ہوں اور کہا کہ وہاں کے لوگوں کو ہماری مدد کے لئے آمادہ کرو! والد موسیٰ کی اس معاملے، رائے اس طرح کی رہی کہ لوگ گھروں کے کواڑ لگا کر ہر طرح کی لڑائی سے الگ ہوں۔

ولد علیٰ اور ہمد عمار ادھر آئے اور لوگوں سے کہا:

”وہ علیٰ کرمہ اللہ کی مدد کے لئے کھڑے ہوں!“

کئی لوگ آمادہ ہو گئے۔

۱۔ حضرت عبداللہ بن سلامؓ حضرت علیٰؓ کی سواری کی باگ پکڑ کر فرمانے لگے، امیر المؤمنین آپؓ مدینہ طیبہ کی اقامت ترک نہ فرمائیں اگر آپؓ مدینہ طیبہ سے باہر چلے گئے تو کوئی مسلمانوں کا خلیفہ مدینہ طیبہ کی طرف عود نہ کر سکے گا۔ (ایضاً، ص: ۲۳۶) اسی طرح حضرت عقبہ بن عامرؓ نے جو بڑے پایہ کے صحابی اور غزوہ بدر میں رسول اللہؐ کے ساتھ شریک تھے انصاری طرف سے گزارش کی اور حضرت علیٰؓ کو روکا کہ دارالخلافہ چھوڑ کر جانا کسی طرح مناسب نہیں۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۴۱) حضرت حسنؓ۔ سیدنا علیٰؓ اشعریؓ کو نہ کے گورز تھے۔ (سیرت سیدنا علیٰؓ المرتضیٰ، ص:

۲۳۷، سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۴۱)



## عروس مطہرہ کا اکرام

وہاں ہمدم عمار سامع ہوئے کہ اک آدمی عروس مطہرہ کے لئے مکروہ کلامی کر رہا ہے۔ اسی لمحے اس کو روکا اور کہا کہ او مردود! عروس مطہرہ کے لئے مکروہ کلامی سے دور رہو! واللہ! عروس مطہرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دو عالم کی عروس ہے! ولد علی اور ہمدم عمار کوئی دس دس سو کے دس گروہ<sup>۲</sup> ہمراہ لے کر عسکر علی کریم اللہ سے آئے۔ علی کریم اللہ سارے عسکر کے ہمراہ اسی ملک کے لئے رواں ہوئے کہ عروس رسول، ہمدم طلحہ، اور ولد عوام آ کر ٹھہرے۔

علی کریم اللہ اور عروس رسول کی دلی آس رہی کہ کسی طرح اہل اسلام لڑائی سے دور ہوں اور کسی طرح صلح ہی سے سارا معاملہ طے ہو، اس لئے عسکر علی سے ولد عمرو<sup>۳</sup> صلح کے ارادہ سے عروس رسول کے آگے آئے اور کہا:

”اے اہل اسلام کی ماں! اس ملک کس ارادے سے آئی ہو؟“

عروس رسول کا رد کلام ہوا:

”اصلاح احوال کے لئے آئی ہوں۔“

اسی طرح کا مکالمہ ہمدم طلحہ و ولد عوام سے ہوا۔<sup>۴</sup> ولد عمرو کا کلام ہوا:

”اگر ارادہ اصلاح احوال کا ہے، وہ اسی طرح سہل ہوگا کہ علی کریم اللہ سے

عہد کر لو! سارے لوگ لڑائی سے دور ہوں گے۔“

اس کلام سے عروس مطہرہ ہمدم طلحہ، ولد عوام، عہد علی کے لئے آمادہ ہو گئے۔<sup>۵</sup>

۱۔ اس واقعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ اور حضرت علی کریم اللہ وجہ اور ان قبیلین کے دل کس قدر صاف تھے۔ ۲۔ ساڑھے نو ہزار آدمی کونے سے چل کر حضرت علیؓ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۷۲) ۳۔ بصرہ سے حضرت قعقاع بن عمرو التیمی صحابی رسولؐ۔ (سیرت علیؓ، ص: ۲۵۰) ۴۔ (ایضاً ص: ۲۵۱) ۵۔ افہام و تفہیم کے اس بیان کے بعد حضرت طلحہؓ حضرت زبیرؓ اور سیدہ صدیقہؓ نے ارشاد فرمایا: اصبحت واحسنت فارجع الخ یعنی آپ نے درست بات کی اور بہتر چیز بیان کی ہے، ہم لوگ اس بات پر آمادہ ہیں۔ (ایضاً)

لوگوں کو اس کی اطلاع ہوئی، سارے اہل اسلام اس سے مسرور ہوئے۔

## روگردوں مکاروں کی مکروہ کاروائی

روگردوں اور حاکم سوم کے مہلکوں کو اس اطلاع سے اک دھکالگا اور ڈرے کہ اگر صلح

ہوگئی، سارے کے سارے ہلاک ہوں گے۔

اس لئے طے ہوا کہ اُس لمحے کہ سارے لوگ سو رہے ہوں گے، ہمارے آدمی ہر دو عسکر کے لئے حملہ آور ہوں گے، اس طرح لڑائی کا سلسلہ ہوگا اور ہم معصوم ہوں گے اور اسی طرح ہوا کہ سحر مکمل ہوئی سارے لوگ سو گئے، روگردوں کا گروہ اٹھا اور اٹھ کر دوسرے عسکر کے لئے حملہ آور ہوا، ہر اک عسکر کو لگا کہ دوسرا عسکر دھوکہ دہی کی راہ لگ کر حملہ آور ہوا ہے، اس لئے اک دوسرے سے معرکہ آراء ہو گئے!

عروس رسول کے لئے اک سواری لوہے کی ڈوبلی سے ڈوبلی کی گئی، عروس رسول اسی سواری کی سوار ہوئی، اسی لئے اس معرکہ کا اسم ”سواری والا معرکہ“ ہوا۔ عروس رسول کی سعی رہی کہ لوگ لڑائی سے دور ہوں، اسی طرح علی کرمہ اللہ سعی رہے کی کس طرح لڑائی رکے، مگر روگردوں، مکاروں کی سعی کا مگار ہوئی اور لڑائی کی آگ سلگ اٹھی۔

## سواری والا معرکہ

اس سے اول کہ معرکہ عام ہو، علی کرمہ اللہ آگے آئے اور ولد عوام سے کہا:  
 ”اے ولد عوام! معلوم ہے کہ اک سحر رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم  
 کا اس سے کلام ہوا: اے ولد عوام! علی سے دلی لگاؤ ہے؟ رد کلام ہوا:  
 ہاں! رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا کلام ہوا: اے ولد عوام! اک  
 سحر آئے گی کہ راہ ہدئی سے ہٹ کر علی سے لڑو گے۔“

۱۔ (سیرت علی ص: ۲۵۳، ۲۵۶، سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۷۳، تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۴۵۵، خلافت راشدہ، ص: ۱۸۱)

۲۔ ہودج۔ ج: ۱، جنگ جمل، جمل عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں۔ (خلافت راشدہ، ص: ۱۸۱)

ولد عوام کا کلام ہوا:

”ہاں! ہم کو اسی لمحے معلوم ہوا ہے۔“

علیٰ کرمہ اللہ کے اس کلام سے ولد عوام لڑائی سے الگ ہو گئے اور لڑکے سے کہا:  
”اے لڑکے! ہدم علی، راہ ہدیٰ کار ہر وہے، اس لئے لڑائی سے الگ  
رہو!“

مگر وہ وصول کلام سے دور رہا، اس حال کا مطالعہ کر کے ہدم طلحہ کا ارادہ ہوا کہ وہ لڑائی  
سے الگ ہو، مگر عسکر علی سے کسی مردود کا اسم آلود سہم ہدم طلحہ کو لگا، اس سے وہ دارا سلام کو راہی  
ہوئے<sup>۱</sup> (ہم ساروں کا اللہ مالک ہے اور ہر آدمی اسی کے ہاں لوٹے گا)<sup>۲</sup>  
اس کے آگے معرکہ عام کا سلسلہ ہوا۔

عروس رسول کی سواری کی رکھوالی کے لئے صد با صد لوگ کٹ مرے۔ علی کرمہ اللہ  
کو محسوس ہوا کہ اگر عروس رسول کی سواری کھڑی رہے گی، لڑائی کا سلسلہ اسی طرح رہے گا، اس  
لئے اک آدمی کو پھلکے سے کہا:

”عروس رسول کی سواری کو گھائل کر کے گرادو! کہ لڑائی رکے۔ وہ آدمی اٹھا اور حسام<sup>۳</sup> لے کر حملہ  
آور ہوا، اس حملے سے وہ سواری گھائل ہو کر گری اور معاً لڑائی رک گئی اور عسکر علی کا مگار ہوا۔  
محمد ولد حاکم اول کو ہدم علی کا حکم ہوا کہ والدہ کی لڑکی<sup>۴</sup> کو اک عمدہ اور الگ محل لے کر راہی  
ہو اور عسکر کو حکم ہوا:

”دوسرے عسکر کا کوئی آدمی دوڑ رہا ہو، اس کی ہلاکی سے دور رہو!

گھائل لوگوں کی ہلاکی سے دور ہو اور اموال کا مگاری<sup>۵</sup> سے دور رہو!“

اور آگے آ کر عروس رسول سے احوال معلوم گئے<sup>۶</sup>

۱ (سیر الصحاب، ج: ۱، ص: ۲۴۳) ۲ یہ اناللہ وانا الیہ راجعون کا مفہوم ہے۔ ۳ اشارہ کیا ہے تلوار سے۔ ۴ بہن یعنی سیدہ

صدیقہ۔ ۵ مال غنیمت۔ ۶ مزاج پرسی کی۔

## عروس رسول کا اکرام

علی کریم اللہ، سلام کر کے عروس رسول کے آگے آئے، اک آدمی سے اطلاع ملی کہ دو آدمی عروس رسول کو گالی دے کر مکروہ عملی کے عامل ہوئے۔

علی کریم اللہ کا اسی لمحے عمرو کو حکم ہوا کہ ہرد کو لاؤ اور کوڑے لگا کر اسلامی حد تکمیل کرو اور کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا:

”لوگو! عروس رسول اسی طرح اکرام والی ہے کہ لڑائی سے اول رہی۔“<sup>۱</sup>

عروس رسول کا ارادہ ہوا کہ سوائے معمورہ رسول راہی ہو، اس لمحے عروس رسول کو علی کریم اللہ سے حد سوا اکرام ملا، سواری عطا ہوئی۔

عروس رسول، ولد ام محمد کے ہمراہ معمورہ رسول کو رواں ہوئی اور علی کریم اللہ عروس رسول کی سواری کے ہمراہ اکرام کے واسطے کئی کوس آئے اور دارالسلام کے سرداروں کو حکم ہوا کہ وہ عروس رسول کی سواری کے ہمراہ رواں ہوں۔<sup>۲</sup>

اس لمحے عروس رسول کا کلام ہوا:

”اے لڑکوا! علی کی حسد سے دور ہوں۔ ہماری لڑائی لاعلمی سے ہوئی، اس سے اول ہم اک دوسرے کی حسد سے سدا دور رہے۔“

علی کریم اللہ کا کلام ہوا:

”ہاں اسی طرح ہے اور کہا: عروس رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی اور ہماری ماں ہے اور مکرمہ ہے۔“<sup>۳</sup>

اس کے آگے علی کریم اللہ اس ملک کو رواں ہو گئے کہ وہ علی کے لئے دارالامارہ رہا، وہاں کے لوگوں کا ارادہ ہوا کہ علی کریم اللہ اک اعلیٰ واولیٰ محل آ کر ٹھہرے، مگر علی کریم اللہ کا کلام ہوا کہ

۱۔ (سیرت سیدنا علی المرتضیٰ، ص: ۲۶۷) حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما۔ ۳۔ (سیرت علی، ص: ۲۷۰)

۲۔ (سیرت الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۷۵) حضرت علیؑ دارالخلافہ کوفہ لوٹ آئے۔

عمر مکرم کے لئے سدا اس طرح کے محل مکروہ رہے، اس لئے علی اس طرح کے محل سے دور رہے گا<sup>۱</sup> اس لئے اللہ کے گھر سے ملے ہوئے اک عام سے محل آ کر ٹھہرے<sup>۲</sup> اور عماد اسلام کی ادائے گی کی اور لوگوں سے ہمکلام ہو کر کہا:

”لوگو! راہِ ہدیٰ کے رہو رہو! مکروہِ عملی سے دور رہو۔“

اور اس ملک کے لوگوں کی مدح سرائی کی۔

اور ساری عمر اسی ملک<sup>۳</sup> کو دارالامارہ کر کے رہے اور ملکی امور کی عمدگی کے لئے سرگرم ہوئے۔<sup>۴</sup> اردگرد کے ملکوں کے امور مکمل کر کے علی کرمہ اللہ کا ارادہ ہوا کہ محرومی<sup>۵</sup> اور اس کے ملک کے لوگوں کو عہد کا کہے، اس لئے محرومی کو صلح اور عہد کا کہا۔ محرومی کا رد کلام ہوا کہ اول حاکم سوم کے مہلکوں سے صلہ دم لو کرو! اس کے آگے ہمارا عہد ہوگا، اس کے علاوہ ہم ہر طرح کے عہد سے دور ہوں گے۔

### سوئے معرکہ گاہ

اس اطلاع کو مسوع کر کے علی کرمہ اللہ، محرومی کے ملک کا ارادہ کر کے اٹھے اور دس دس سو کے اسی گروہ ہمراہ لے کر ادھر راہی ہوئے اور ماء طاہر سے معمور اک محل آ کر ٹھہرے۔<sup>۶</sup> محرومی کو اس کی اطلاع ہوئی وہ اک عسکر طرار کے ہمراہ ملکی سرحد آ گئے۔

۱۔ سبحان اللہ! سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو اتباعِ عمر فاروقؓ کا کس قدر اہتمام تھا۔ (ازمؤلف) ۲۔ اہل کوفہ نے قصر امارت میں مہمان نوازی کا اہتمام کیا، مگر آپؓ نے میدان میں قیام فرمایا۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۷۶) ۳۔ کوفہ۔ ۴۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو بصرہ کی ولایت سپرد کی، مدائن پر یزید بن قیس، اصفہان پر محمد بن سلیم، کسکر پر قدامہ بن عجلان ازدی، بھستان پر ربیع بن کاس اور تمام خراسان پر خلید بن کاس کو مامور کر کے بھیجا۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۷۶) ۵۔ کتاب وحی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ۶۔ اسی ہزار۔ ۷۔ حضرت علیؓ اپنے عساکر سمیت ارض شام کی طرف روانہ ہوئے اور دریائے فرات کے قریب ذوالحجہ ۳۶ھ میں قیام فرمایا۔ (سیرت علیؓ، ص: ۳۰۳)

## مدعائے علی و محرو جی (اللہ ہر دو سے مسرور ہوا)

مدعائے علی کرمہ اللہ اس طرح رہا: مددگاروں، ہمدموں کا علی سے عہد ہوا ہے، اس لئے عائد ہے کہ محرو جی اور اس کے ملک کے لوگوں کا عہد ہو، اس کے آگے وہ دادرسی کے لئے ہمارے آگے وارد ہوں۔ اس طرح اللہ کے حکم سے حاکم سوم کے مہلکوں سے صلہ دم کی وصولی سہل ہوگی۔

مگر محرو جی کا مدعا رہا: اول صلہ دم وصول ہو، اس کے آگے عہد ہوگا۔

### اہل اسلام سے معرکہ دوم

عسکر علی کرمہ اللہ، محرو جی (اللہ اس سے مسرور ہوا) کے ملک کی سرحد طے کر کے

ادھر وارد ہوا۔

ادھر محرو جی (اللہ اس سے مسرور ہوا) کے عسکر سے والد دعور سلمی آگے ہوئے اور معرکہ آراء ہو کر عسکر علی کرمہ اللہ کو روکا۔ سحر مکمل ہوئی، عسکر علی کے لئے مکہ آگئی۔ اس حال کا مطالعہ کر کے والد دعور ادھر سے ہٹ گئے اور سارے احوال کی اطلاع محرو جی کو دی، محرو جی کے حکم سے معرکہ گاہ طے ہوا۔

محرو جی کا عسکر ادھر رواں ہوا اور وہاں کے گھاٹ کا مالک ہوا اس طرح عسکر علی کرمہ اللہ ماء طاہر سے محروم ہوا ادھر حصول ماء کے لئے معرکہ آرائی ہوئی، عسکر علی حاوی ہو کر گھاٹ کا مالک ہوا۔

علی کرمہ اللہ کا حکم ہوا کہ ہر دو عسکر ماء طاہر سے مالا مال ہوں گے اور اس سے دور رہو کہ کسی کو ماء طاہر کی وصولی سے محروم کرو!

## صلح کے لئے علی کرمہ اللہ کی اک اور سعی

علی کرمہ اللہ کے حکم سے صلح کی اک اور سعی کی گئی ولد عمروؓ کو حکم ہوا کہ دو آدمی ہمراہ لے کر ادھر رہی ہو اور صلح کی سعی کرو! وہ گئے مگر محروم ہوئے۔

ہردو عسا کر کے اہل علم لوگ سعی رہے کہ اہل اسلام لڑائی سے دور ہوں اس لئے سہ ماہ کا عرصہ ہوا کہ لڑائی رکی رہی، مگر سہ ماہ کے آگے لڑائی کا سلسلہ ہوا اور مسلسل رہا کہ ماہ حرامؓ کی آمد ہوئی اور ماہ حرام کے اکرام کے واسطے ہردو عسکر لڑائی سے الگ رہے۔

ماہ حرام مکمل ہوا، دہرا کر لڑائی کا سلسلہ ہوا کہ صد ہا لوگ مارے گئے اور صد ہا لڑکے والد کے سائے سے محروم ہوئے، مگر ہردو عسکر اک دوسرے کے آگے ڈٹے رہے۔

اس حال کا مطالعہ کر کے علی کرمہ اللہ کا لوگوں سے اس طرح کا کلام ہوا کہ لوگوں کا حوصلہ اور سوا ہوا اور وہ عسکر محرومی سے اس طرح معرکہ آراء ہوئے کہ اس عسکر کے کئی سو ما ڈر کر دوڑے۔

علی کرمہ اللہ کے ہمراہی ہمد عمار اسی معرکہ اللہ کے گھر کو سدھارے۔ اس عسکر علی حاوی رہا۔

## اک ہمد رسولؐ ہمراہی علیؑ کا معاملہ

معرکہ کے لمحے اک ہمد رسول، ہمراہی علیؑ کا الگ ہی معاملہ رہا، وہ اس طرح کہ اس کا معمول رہا کہ لڑائی اور عماد اسلام کے لمحے علی کرمہ اللہ کے ہمراہی رہے اور طعام کے لمحے محرومی کے مطعم آ کر طعام سے مالا مال ہوئے۔ کسی کا سوال ہوا: کس طرح کے آدمی ہو؟ کہ لڑائی اور عماد اسلام کے لمحے علی کرمہ اللہ کے ہمراہی رہے اور طعام کے لمحے محرومی کے؟ کہا: عماد اسلام علی کرمہ اللہ کی عمدہ ہے اور وہی حاکم اسلام ہے۔ اس لئے لڑائی اور عماد اسلام کے

۱ حضرت بشیر بن عمرو بن حسن انصاری، سعید بن قیس ہمدانی اور شیبث بن ربیع کو صلح کیلئے بھیجا۔ (ایضاً) ۲ وہ مہینہ جس میں لڑائی حرام ہے یعنی محرم الحرام۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۴۷۴) ۳ حضرت ابو ہریرہؓ۔

لئے اس کی ہمراہی کا معمول ہے، مگر طعام محررومی کے ہاں کا عمدہ ہے، اس لئے طعام کے لئے ادھر آمد کا معمول ہے۔ اس کلام کو مسموع کر کے محررومی کمال مسکرائے۔<sup>۱</sup>

### دو حکموں کے مسئلہ

اس معر کے محررومی کے عسکر کے حد سے سوالوگ کام آئے، اس لئے محررومی کے عسکر سے رائے آئی کہ کسی طرح لڑائی رکے۔

اس لئے عمرو ولد عاص کی رائے سے لوگ کلام الہی اٹھا کر لائے اور کہا کہ ہم کو کلام الہی کا حکم وصول ہوگا۔

اس طرح لڑائی رکی اور طے ہوا کہ ہر دو عسکر سے اک اک آدمی حکم ہوگا اور دو سو اور دو سو لوگ اس کے ہمراہی ہوں گے۔ حکموں کی رائے سے مسئلہ حل ہوگا اور حکموں کا ہر حکم سارے لوگوں کو وصول ہوگا۔

اس لئے طے ہوا کہ عسکر علی سے والد موسیٰ حکم ہوں گے اور محررومی کے عسکر سے عمرو ولد عاص حکم ہوں گے اور صدور حکم کے لئے دومہ کا مثل طے ہوا۔<sup>۲</sup>

### ”الحکم لله“ کی صدا

سارے احوال کا مطالعہ کر کے عسکر علی سے اک گروہ<sup>۳</sup> اس دو حکموں والی رائے سے روگراں ہوا کہ وہ رائے، کلام اللہ سے نکر رہی ہے، اس لئے کہ اللہ کا کلام ہے:

”حکم اک اللہ ہی کے لئے ہے“۔<sup>۴</sup>

اس طرح کہہ کر وہ گروہ کہ اس کا عدد دس دس سو کے دس اور دو رسالے رہا، عسکر علی سے الگ ہوا اور مروءاء آ کر ٹھہرا۔

۱۔ (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۲۵۲) تحکیم حکمین۔ طے ہوا کہ دومۃ الجندل آ کر حکمین اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ (سیرت علی المرتضیٰ، ص: ۳۱۸) بی خارجی۔ ۵۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ ان الحکم الا للہ: (یوسف: ۴۰)



ہر دو عسکر حکموں کو طے کر کے گھروں کو لوٹ گئے، مگر عسکر علی دو ٹکڑے ہو اور محرومی کا عسکر اسی طرح رہا۔

اس طرح کئی ماہ ہو گئے کہ حکموں کے حکم کا لمحہ آگیا، اس لئے ہر دو حکم اور صد ہا لوگ طے کردہ محل ”دومہ“ آ گئے۔

محرومی (اللہ اس سے مسرور ہو) کئی لوگوں کے ہمراہ ادھر آئے مگر علی کرمہ اللہ ”دومہ“ آمد سے دور رہے اور ہمد رسولؐ ولد عم کو حکم ہوا کہ وہ دومہ راہی ہو اور سارے احوال کی اطلاع لائے۔

مال کار ہر دو حکم اکٹھے ہوئے اور ہر دو کی رائے ہوئی کہ علی کرمہ اللہ اور محرومی (اللہ اس سے مسرور ہو) ہر دو کو معطل کر کے اولوالامری کا معاملہ اہل اسلام کی رائے سے حل ہو اور اہل اسلام کا حاکم کوئی اور آدمی ہو۔

کئی علماء سے مروی ہے کہ والد موسیٰ کی رائے ہوئی کہ عمر مکرّم کا لڑکا حاکم اسلام ہو اور عمر و ولد عاص کی رائے ہوئی کہ اسی کا لڑکا تسلّی والی ہو کہ وہ علم و عمل کے عالی عہدے کا حامل ہے۔

والد موسیٰ کا کلام ہوا کہ ہاں معاملہ اسی طرح ہے، مگر وہ اہل اسلام سے لڑائی کے واسطے محرومی کا ہمراہی رہا ہے، اس لئے محال ہے کہ وہ حاکم اسلام ہو۔

دوسرے کئی علماء سے اس طرح مروی ہے کہ عمر و ولد عاص کی رائے ہوئی کہ محرومی حاکم اسلام ہو، مگر والد موسیٰ اس سے دورائے ہو کر اس رائے کو رد کر گئے۔

مال کار ہر دو حکم محروم رہے کہ اک رائے اکٹھے ہوں، اس لئے اس وہ مسئلہ ادھورار رہا

۱ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کو اپنا قائم مقام بنا کر بھیجا۔ (سیرت سیدنا علی المرتضیٰؑ، ص: ۳۲۱) ۲ عبد اللہ بن عمرؓ۔ (ایضاً ص: ۳۲۲) ۳ حضرت عمرو بن العاصؓ کی رائے اپنے لڑکے عبد اللہ بن عمروؓ کو والی بنانے کی ہوئی حضرت ابو موسیٰؓ نے فرمایا کہ وہ آدمی تو صادق اور صحیح ہیں مگر آپؐ نے اپنے فرزند کو ان فتن میں ملوث کر دیا ہے۔ (سیرت علیؑ، ص: ۳۲۲)

اور ہر دو حکم دوسرے سے الگ ہوئے۔<sup>۱</sup>

اس کے آگے محرومی کے لوگوں کا محرومی سے اولوالامری کا عہد ہوا، حالاں کے اس سے اول لوگ اس طرح کے عہد سے دور ہے۔

اس طرح اعداء اسلام کی سعی کا مگار ہوئی اور اہل اسلام کئی ٹکڑے ہو گئے۔

### مراسلہ علی کرمہ اللہ

اس کے آگے علی کرمہ اللہ کا اک کھلا ہوا مراسلہ ممالک محروسہ کے عمال کے لئے

ارسال ہوا۔ لکھا:

”معلوم رہے کہ ہماری محرومی سے لڑائی ہوئی، حالاں کہ سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا اللہ، رسول، اسلام اک ہی ہے۔ ہر اک مسلم ہے اور اسلام کی رو سے کوئی کسی سے آگے کہاں؟ ہاں! حاکم سوم کی گواہی کے مسئلے کے لئے ہم دورائے ہوئے، مگر ہم حاکم سوم کی ہلاکی سے الگ ہی رہے۔“

### محرومی کا کلام (اللہ اس سے مسرور ہوا)

محرومی اور علی کرمہ اللہ کے دل اک دوسرے کے حسد سے طاہر رہے، اس لئے اہل

تحکیم کے موقع پر مورخین اور ان کے بعض رواۃ نے جو تعبیریں اختیار کی ہیں، وہ حقائق و واقعات کے خلاف ہیں، کیونکہ ان میں حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کے متعلق یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ معاملات میں ظاہرین تھے اور سیاسی بصیرت کے حامل نہیں تھے نیز وہ معاملہ نبیؐ میں زیرک نہیں تھے اور کئی مورخین حضرت عمرو ولد عاصؓ کو واقعہ ہذا میں خداع اور مکار شخص کی صورت میں پیش کرتے ہیں یہ سب بیان کرنے والوں کی اپنی قبیح تعبیریں ہیں یہ روایات کسی صورت میں صحیح نہیں۔ (سیرت علیؑ، از مولانا محمد نافع مدظلہ) حضرت علیؑ کے اسی خط سے واضح ہو گیا کہ اہل صفین و حضرت علیؑ کا اختلاف مذہبی نہ تھا، بلکہ دونوں جماعتوں کا مذہب ایک تھا، دونوں جماعتیں مسلمان و مؤمن تھیں، دونوں کی دعوت دینی ایک تھی، تصدیق ایمانی میں دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے فائق نہیں تھا، دونوں کامل ایمان تھے، صرف ایک سیاسی مسئلہ باعث اختلاف تھا یعنی دم عثمانؓ کے معاملہ میں باہمی وقتی نزاع درپیش تھا۔ (ایضاً)

اسلام کے اس معرکے کے لمحے حاکم روم کا ارادہ ہوا کہ وہ اسلامی ملکوں کے لئے حملہ آور ہو، محرومی کو اس کی اطلاع ہوئی اسی لمحے اس کو لکھا کہ اورومی مردود! اسلامی ملکوں کے حملے کے ارادے سے دور رہی رہ! اگر اس طرح کا ارادہ ہوا، واللہ! ہماری اولاد عم سے صلح ہوگی اور ہم مل کر روم حملہ آور ہوں گے کہ گھر سے محروم ہو گئے۔ اس سے حاکم روم ڈرا اور وہ مکروہ ارادے سے دور رہا۔

### ”الحکم للہ“ والوں کا معاملہ

آگے لکھی گئی سطور سے معلوم ہوا کہ مسئلہ حکم سے روگراں ہو کر عسکر علی سے اک گروہ ”الحکم للہ“ کہہ کر الگ ہوا اور حروراء آ کر ٹھہرا، علی کریمہ اللہ ساعی ہوئے کہ وہ گروہ کسی طرح راہ ہدیٰ لگے، اس لئے علی کریمہ اللہ کا دل عم کو حکم ہوا کہ اس گروہ سے ملو اور اس کو راہ ہدیٰ کی رہروی کا کہو!

وہ اسی حکم کے عامل ہوئے۔ اس گروہ کے معمولی لوگ راہ ہدیٰ لگے، مگر کئی لوگ محروم ہی رہے۔

### عمدہ کلمہ کھوٹی مراد

اک سحر علی کریمہ اللہ لوگوں کے آگے اللہ کی حمد کے لئے کھڑے ہوئے کہ ”الحکم للہ“ والوں کا اک آدمی کھڑا ہوا اور کہا:

”اے علی! اللہ کا کلام ہے: ”حکم اللہ ہی کے لئے ہے“ اور لوگوں کو حکم کر کے کلام الہی سے روگرداں ہوئے ہو۔ دوسرے کئی لوگ اس کے ہم رائے ہوئے اور بل کر ”الحکم للہ“ کی صدا لگائی۔ علی کریمہ اللہ کا رد کلام ہوا: ”کلمہ عمدہ ہے مگر مراد کھوٹی ہے۔“

(۱) سیرت علیؑ، ص: ۳۳۵) ۲) خوارزمی۔ کلمۃ حق اربیدبہ الباطل، ص: ۱۱۰ ان الحکم الا للہ: (یوسف: ۴۰)

”الحکم للہ“ والوں سے علی کرمہ اللہ کا معاملہ اولاً بکارہا، اس سے اس گروہ کو حوصلہ ملا اور وہ حد سے سوا کمروہ کاموں کے عامل ہوئے۔ علی کرمہ اللہ کو اطلاع ملی کہ ”الحکم للہ“ والوں کا گروہ لوٹ مار کی راہ لگا ہے اور اسلامی محارم کو حلال کئے ہوئے ہے، اس لئے علی کرمہ اللہ کا اس گروہ سے لڑائی کا ارادہ ہوا۔

### معرکہ آرائی سے اول

علی کرمہ اللہ سماعی رہے کہ وہ گروہ لڑائی سے الگ رہ کر ہی راہ ہدیٰ لگے، اس لئے ولد سعدؑ اور اک دوسرے مددگار کو حکم ہوا:

”دہرا کر اس گروہ سے ملو اور ہر طرح سے سعی کرو کہ وہ گروہ راہ ہدیٰ کار ہو۔“

وہ گئے اور اس گروہ کے سر کردہ لوگوں سے ملے، مگر اس گروہ کے دلوں کو مہر لگی رہی، اس لئے ہر دو مددگار سوائے علی کرمہ اللہ لوٹ آئے۔

### ”الحکم للہ“ والوں سے معرکہ

علی کرمہ اللہ کی سعی رہی کہ لوگ لڑائی سے دور ہی ہوں، اس لئے علی کرمہ اللہ کے حکم سے اک آدمی علم اٹھا کر کھڑا ہوا اور علی کرمہ اللہ کا کلام ہوا:

”ہر وہ آدمی کہ ”الحکم للہ“ والوں سے الگ ہو کر اس علم کے گرد آئے گا، ہلاکی سے معصوم رہے گا، اس طرح وہ آدمی کہ کسی دوسرے ملک کی راہ لے گا، معصوم رہے گا۔“

اور عسکر سے کہا:

”جملے سے رکے رہو! ہاں! اس لمحے کہ ”الحکم للہ“ والوں کا حملہ ہو، جملہ کر دو!“

اس لئے اول ”الحکم للہ“ والوں کا حملہ ہوا، اس کے آگے معرکہ عام ہوا، اس گروہ کے

حد سے سوالوگ مارے گئے، کئی دوڑ لگا گئے۔

## لوگوں کا وسوسہ اور اس کا حل

عسکر علی کے کئی لوگوں کے دل اس وسوسے سے معمور ہوئے کہ ”الحکم لئہ“ والوں کی ہلاکی روا ہے کہ لا روا؟ اس کی اطلاع علی کریمہ اللہ کو ہوئی، اسی لمحے کھڑے ہو کر کہا: ”رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا کلام ہے: لوگوں کا اک گروہ، اسلام سے اسی طرح الگ ہوگا کہ سہم، کماں سے اور وہ گروہ، اسلام سے روگرداں ہی رہے گا، اس گروہ کا اک آدمی اس طرح کا ہوگا کہ اس کے دودھ مادام<sup>۲</sup> کے دودھ کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے اور اس کے گردا گرد اک کم آٹھ کالے کالے اعلام<sup>۳</sup> ہوں گے۔“

علی کریمہ اللہ کا حکم ہوا کہ اس آدمی کو ٹنٹو لو! اس کو ٹنٹولا۔ وہ مڑوں سے اٹا ہوا اور اس کے گلے گماں لنگی ہوئی ملی۔ اس کا مطالعہ کر کے علی کریمہ اللہ مسرور ہوئے اور اللہ کے اسم کی صدا لگا کر کہا:

”اللہ اور اس کے رسول کا کہا، صدا کھرا رہا۔“

## ملکی امور

آگے لکھی گئی سطور سے معلوم ہوا کہ علی کریمہ اللہ حاکم ہوئے اور اس کے حکم سے حاکم سوم کے طے کردہ کئی اعمال معطل ہوئے، اسی لئے والی مصر ولد والد سرخ<sup>۴</sup> معطل ہوئے اور علی کریمہ اللہ کے حکم سے ولد سعد<sup>۵</sup> والی مصر ہوئے، مگر کئی عوامل اس طرح کے ہوئے کہ علی کریمہ اللہ کا ارادہ ہوا کہ ہدم سعد کو معطل کر کے والی مصر، محمد ولد حاکم اول کو طے کرے، اس لئے حکم علی سے اک محدود عرصہ والی مصر رہ کر ہدم سعد معطل کئے گئے اور محمد ولد حاکم اول، والی مصر ہوئے، مگر کم

۱۔ بعض لوگوں کے دل میں ان کے مقتول ہونے کی وجہ سے شبہ پیدا ہوا تو حضرت علیؑ نے نبی اکرمؐ کا فرمان نقل کیا۔ (سیرت علیؑ، ص: ۲۰۱) ۲۔ عورت۔ ۳۔ تل۔ آپؐ کی پیشین گوئی حرف بہ حرف درست ثابت ہوئی۔ (ایضاً) ۴۔ عبد اللہ بن ابی سرح۔ ۵۔ قیس بن سعد۔

عمری کی رو سے ملکی امور سے لاعلم رہے اور محروم رہے کہ اہل مصر کے لئے ملکی امور کو محکم کر سکے۔  
اس حال کی اطلاع علی کریم اللہ کو ہوئی اسی لمحے مالک کو حکم ہوا:  
”محمد ولد حاکم اول کی مدد کے لئے راہی ہو!“

وہ مصر کے ارادے سے رواں ہوئے، مگر راہ کے اک مرحلے اس کا لمحہ موعود آگیا اور وہ راہی ملک  
عدم ہوئے۔<sup>۲</sup>

مخروجی کو اس حال کی اطلاع ملی، عمر و ولد عاص کو مصر کی حملہ آوری کا حکم دے کر کہا:  
”اے عمرو! اللہ کے ڈرو، ہمدردی اور حوصلہ وری کے عامل رہو!“

وہ مصر آئے اور محمد ولد حاکم اول کے عسکر سے معرکہ آراء ہوئے۔ محمد ولد حاکم اول اس معرکہ  
ہلاک ہوئے<sup>۳</sup> اور علی کریم اللہ اس سے کوسوں دور رہے، اس لئے اس کی امداد سے محروم رہے  
اور اس طرح عمر و ولد عاص مصر کے عامل ہو گئے۔

### کسروی روگردوں سے معرکے

اس عرصے ملک کرماں اور اس سے ملے ہوئے ملک کے لوگ روگرد ہوئے اور مال  
صلح کی ادائے گی سے مکر گئے۔

علی کریم اللہ کے حکم سے اک عمدہ رائے والے سالار اک گروہ کے ہمراہ ادھر راہی

ایماک، اشتر الخنمی۔<sup>۴</sup> یہاں پر مورخین (طبری وغیرہم) نے الاشتر الخنمی کے انتقال کے اسباب بیان کرتے ہوئے  
تحریر کیا ہے: حضرت امیر معاویہؓ نے ان کی موت کی خاطر جلد گری کی تھی اور الاشتر کو شہد کا شربت پلانے والے شخص  
کو انعامات کے وعدے دے کر زہر دینے پر مامور کیا تھا، پھر اس نے اشتر کو مسوم شربت پلا کر ہلاک کر دیا، اس واقعے  
کے متعلق حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ فسی ہذا نظر یعنی یہ واقعہ قابل تا مل ہے اور اس کی صحت میں شک و شبہ  
ہے۔ (سیرت علی، ص: ۴۰۷) علی اسی طرح محمد بن ابی بکر جو معاویہ بن خدیج کے ساتھ معارضہ میں مقتول ہوئے تھے،  
اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی میت کو گدھے کی کھال میں لپیٹ کر جلاد یا تھا یہ سب حضرت معاویہؓ پر الزام تراشی  
ہے اور داستان کوہلوناک بنانے کی سعی ہے اور ان کے حق میں تنفر اور نفرت نشر کرنے کی تدبیریں ہیں۔ (ایضاً) علیؓ عجمی  
بانی۔<sup>۵</sup> خراساں۔<sup>۶</sup> زیاد بن امیہ۔

ہوئے اور معرکہ آرائی کر کے ادھر کے لوگوں کو محکوم کر آئے اور علی کرمہ اللہ کا کسروی لوگوں سے اس طرح عمدہ سلوک رہا کہ سارے کسروی لوگ علی کرمہ اللہ کے دلدادہ ہوئے۔  
 عہد علی کرمہ اللہ کا سارا حصہ اسی طرح کی لڑائی سے اٹا رہا اور اگلے ملکوں کی کامگاری معمولی رہی۔<sup>۱</sup>

### ملکہ اور معمورہ رسول

آگے لکھی گئی سطور سے معلوم ہوا کہ اولوالاہر ہو کر علی کرمہ اللہ معمورہ رسول کو وداع کر کے اک دوسرے ملک<sup>۲</sup> راہی ہوئے اور سدا اسی ملک کو دارالامارہ کر کے رہے، اس لئے معمورہ رسول حاکم اسلام سے محروم ہوا۔

ادھر محرومی کئی امصار و ممالک کے مالک ہو گئے اس لئے محرومی کے حکم سے ولد ارطاط<sup>۳</sup> آک عسکر کے ہمراہ ملکہ اور معمورہ رسول کی کامگاری کے لئے ادھر وارد ہوا۔  
 ادھر کے لوگ ہر طرح کی معرکہ آرائی سے دور رہے، اس لئے ولد ارطاط معرکہ آرائی کے علاوہ ہی ملکہ کرمہ اور معمورہ رسول کا مالک ہوا اور لوگوں سے محرومی کے لئے عہد لے کر آگے ہمسائے ملک کے لئے راہی ہوا۔

ہمسائے ملک آ کر معمولی معرکہ آرائی سے ہی اس ملک کا مالک ہوا۔

اس طرح اک اک کر کے علی کرمہ اللہ کئی ملکوں سے محروم ہوئے۔ اس کا اصل محرک عسکر علی کی ہٹ دھرمی اور حکم علی سے روگردی رہا۔

۱۔ چنانچہ سیستان اور کابل کی سمت میں بعض عرب خود مختار ہو گئے تھے، ان کو قابو میں کر کے آگے قدم بڑھایا۔ اور ۳۸ھ میں بعض مسلمانوں کو بحری راستے سے ہندوستان پر حملے کی اجازت دی اس وقت کوکن بمبئی کا علاقہ سندھ میں شامل تھا، مسلمان رضا کار سپاہیوں نے سب سے پہلے اس عہد میں کوکن پر حملہ کیا۔ (سیر الصحابہ، ج: ۱، ص: ۲۹۶) ۲۔ کوفہ۔ (بسر بن ارطاط، تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۵۰۴)

## علی کرمہ اللہ دو ملکوں کے اولوالا امر

اس طرح علی کرمہ اللہ دو ملکوں کے حاکم رہ گئے۔ گو کہ محمدریوی اک اک کر کے کئی ملکوں کے مالک ہو گئے، مگر وہ سدا علی کرمہ اللہ کی ہمسری کے دعوے سے دور رہے۔

### ولد ام<sup>۱</sup> اور ولد عم<sup>۲</sup> روٹھ گئے

اسی عرصے کہ وداع مکہ کو دس سال کم آدھی صدی ہوئی، دو اہم آدمی علی کرمہ اللہ سے روٹھ گئے۔

اول: ولد عم کہ وہ علی کرمہ اللہ کے حکم سے اک مصر کے عامل رہے، اک حاسد سے علی کرمہ اللہ کو اطلاع ملی:

”اس کا ولد عم دارالمال کا مال اڑا رہا ہے۔“

علی کرمہ اللہ کا ولد عم سے کلام ہوا کہ:

”مال کا معاملہ ہم سے کہو!“

اس کا رد کلام ہوا:

”وہ مال اسی کا ہے، دارالمال کا کہاں؟“

علی کرمہ اللہ کا دہرا کر سوال ہوا:

”ہم سے کہو کہ وہ مال کہاں سے حاصل ہوا؟“

ولد عم کا رد کلام ہوا:

”اس طرح کی عمالی سے دور ہی رہوں گا۔“

اس طرح کہہ کر وہ مکہ مکرمہ آ گئے۔

دوم: اسی طرح علی کرمہ اللہ کا ولد ام علی کرمہ اللہ کے کسی کلام سے روٹھ کر محمدریوی کے ملک راہی

۱۔ عراق اور ایران۔ ۲۔ عقیل بن ابی طالب۔ ۳۔ عبداللہ بن عباس۔ ۴۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ میں ایسی گورزی سے باز آیا۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۵۰۵)



ہوا، محرومی سے اس کو کمال اکرام و مال ملا، اس سے علی کرمہ اللہ کو گہرا ملال ہوا۔  
اس لئے علی کرمہ اللہ کا ارادہ مصمم<sup>۲</sup> ہوا کہ محرومی سے دہرا کر معرکہ آرائی ہو اس لئے کھڑے  
ہو کر لوگوں سے ہمکلام ہوئے اور کہا:

”لوگو! محرومی سے معرکہ آرائی کے لئے آمادہ رہو!“

علی کرمہ اللہ کے کلام سے دس دس سو کے ساٹھ گروہ<sup>۳</sup> معرکہ آرائی کے لئے آمادہ ہوئے  
اور سارے لوگوں کا علی کرمہ اللہ سے عہد ہوا کہ سدا علی کرمہ اللہ کے ہمراہ ہی ہوں اور محال ہے کہ  
اک لمحے کے لئے علی کرمہ اللہ سے الگ ہوں۔

علی کرمہ اللہ اسلئے اور دوسرے لوگوں کے حصول کے لئے سرگرم ہو گئے کہ آں مکرم کی  
گواہی<sup>۴</sup> کا لمحہ آگیا اور آں مکرم دارالسلام کو راہی ہوئے۔

### گواہی علی کا حال

گواہی علی کا مکمل حال اس ہے کہ ”الحکم لله“ والوں سے علی کرمہ اللہ کی لڑائی ہوئی۔  
اس گروہ کے کئی لوگ ہلاک ہوئے اور کئی دوڑ لگا گئے، اسی گروہ کے سر آدمی<sup>۱</sup> مکہ آ کر اکتھے ہوئے  
اور علی کرمہ اللہ سے معرکہ آرائی اور گروہ کے لوگوں کی ہلاکی کو دہرا کر دکھی ہوئے اور حسد کی  
آگ سے ساروں کے دل سلگ اٹھے۔ ہر آدمی کی رائے ہوئی کہ اٹھو اور سرمداروں کے کوکہ وہ  
عالم اسلام کو دکھی کر کے رہے، ہلاک کر ڈالو اور طے ہوا کہ مرادی مصری، علی کرمہ اللہ کو ہلاک  
کرے گا اور عمرو سعدی، عمرو ولد عاص کو اور ولد مملوک اللہ<sup>۵</sup>، محرومی کو ہلاک کرے گا اور طے  
ہوا کہ وہ کاروائی اک ہی سحر اور اک ہی لمحے کو ہوگی۔

۱۔ تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۵۰۵ (۲۲۲)۔ سنیہ ارادہ ۳۔ ساٹھ ہزار لوگوں نے حضرت علیؑ سے تازیست ساتھ رہنے کا عہد کیا۔  
۲۔ شہادت ۵۔ خوارج۔ ۳۔ یہاں: عبدالرحمن ابن بلجم مرادی مصری، دوسرا: ابرک بن عبداللہ تمیمی اور تیسرا: عمرو بن بکر تمیمی  
سعدی۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۵۰۶) ۴۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، سیدنا امیر معاویہؓ، حضرت عمرو بن العاصؓ۔ (ایضاً)  
۵۔ عبداللہ کا مفہوم اور مرادی معنی ہے۔

اس لئے ماہِ صوم کی سولہ اور سحر کی عماد اسلام کا لمحہ اس کا روائی کے واسطے طے ہوا اور ہر آدمی طے کردہ آدمی کے ملکِ راہی ہوا۔

ولدِ مملوک اللہ محرومی کے دارالامارہ آکر اس لئے اللہ کے گھر وارد ہوا کہ محرومی سحر کی عماد اسلام کے لئے لوگوں کے امام ہوئے، وہ آگے ہوا اور مصمام کا اک وار کر کے دوڑا، اس کو لگا کہ محرومی اس اک وار سے ہلاک ہوں گے، مگر اللہ کے حکم سے معمولی گھاؤ لگا اور محرومی ہلاکی سے معصوم رہے، مگر ولدِ مملوک اللہ محصور ہو کر ہلاک ہوا۔ اسی سحر کے اسی لئے عمر و سعدی، مصر کے عماد اسلام گاہ<sup>۳</sup> وارد ہوا اور ولدِ عامر<sup>۴</sup> کو کہ وہ اس سحر، سحر کی عماد اسلام کے لئے لوگوں کے امام ہوئے، حسام کے اک ہی وار سے ہلاک کر ڈالا۔ اس کو دھوکہ لگا کہ لوگوں کا امام عمر و ولدِ عاص ہی ہے، حالاں کہ عمر و ولدِ عاص اس سحر روٹی شہر ہے، اس لئے وہ عماد اسلام کے لئے اللہ کے گھر آمد سے محروم رہے۔ اس طرح عمر و ولدِ عاص ہلاکی سے معصوم رہے۔

ادھر مرادی مصری مردود، علی کریمہ اللہ کے دارالامارہ وارد ہوا، وہاں اس کو اک ماہ روٹی لڑکی سے لگاؤ ہوا اور وہ اس کا دلدادہ ہوا۔

مرادی کا ارادہ ہوا کہ کسی طرح اس لڑکی سے عروسی ہو، اس لئے لڑکی کے گھر آکر لڑکی کو اطلاع دی:

”اس کا عروسی کا ارادہ ہے۔“

اس لڑکی کا رد کلام ہوا:

”ہاں! عروسی کے لئے آمادہ ہوں، اگر مہر ادا کر دو!“

۱۔ مسجد۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۵۰۶) مسجد۔ خارجہ بن ابی جہہ بن عامر یہ ایک فوجی افسر تھے جو حضرت عمرو بن العاص کی غیر موجودگی میں امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ (ایضاً) ۵۔ بیمار۔ ۶۔ حسین و جمیل لڑکی جس کا نام نظام تھا اس کا والد اور بھائی خارجی تھے اور جنگ نہرواں میں حضرت علیؑ کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے تھے۔ (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۵۰۷)

مرادی مصری سائل ہوا:

”ہم سے کہو! کس طرح کا مہر لوگی؟“

لڑکی کا کلام ہوا:

”اس کا مہر ہے، اول: علی کا کٹنا ہوا سر۔ دوم: اک مملوک اور اک مملوکہ۔

سوم: دس دس سو درہموں کی سہ صرہ“

مرادی مصری کا کلام ہوا:

”امر دوم و سوم محال ہے۔ ہاں! امر اول کے لئے آمادہ ہوں“

لڑکی آمادہ ہو گئی اور اس کے حکم سے اس کے اسرے کا اک آدی ”وردان“ مرادی کے

بمراہ ہوا۔

ماہ صوم کی سولہ ہے اور سحر کی عماد اسلام کے لئے معمول کی طرح علی کرمہ اللہ

لوگوں کو صد اے کر اللہ کے گھر وارد ہوئے۔ اول وردان، مرد و جملہ آور ہوا، علی کرمہ اللہ اس کے

وار سے معصوم رہے۔ اس کے آگے مرادی مرد و اٹھا اور صمصام سے علی کرمہ اللہ کے سر کو گھائل

کر کے دوڑا، مگر علی کے حکم سے محصور ہوا۔

علی کرمہ اللہ کا اس کے لئے لوگوں سے کلام ہوا کہ اگر گھاؤ مہلک ہو، اس کو صلہ دم

کے لئے ہلاک کر دو! اور اگر ہلاکی سے معصوم رہوں، مرادی سے ہمارا معاملہ وہی ہوگا کہ ہم کو عمدہ

لگے گا اور لڑکوں کو حکم ہوا کہ ادھر آؤ! وہ آگئے۔ لڑکوں سے کہا:

”اک دوسرے سے عمدہ سلوک اور ہمدردی کا معاملہ رکھو!“

اک دلدادہ آگے ہوا اور کہا:

تفسیلی۔ ع مرادی تو آیا ہی اس کام کیلئے تھا، اس لئے اس کا ارادہ اب مزید پختہ ہو گیا۔ (ایضاً) ع ابن الجهم

گرفتار ہو کر حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو تم بھی اس کو قتل کر دینا اور

اگر میں اچھا ہو گیا تو خود جو مناسب سمجھوں گا کروں گا (تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۵۰۸) ع سیدنا حسن سیدنا حسین اور محمد بن

الحنفیہ۔ ع جناب بن عبد اللہ۔

”اے حاکم اسلام! رائے دو: آں مکرم کے وصال کے آگے آں مکرم کا لڑکا حاکم اسلام ہو؟“ علی کرمہ اللہ کا رد کلام ہوا:  
 ”وہ اہل اسلام کی رائے سے ہی ملے ہوگا، اس مسئلے کے لئے علی ہر رائے اور حکم سے دور ہے۔“

مال کارسہ ماہ کم ساٹھ ماہ حاکم اسلام رہ کر ماہ صوم کی اک کم اشعارہ کو ساٹھ اور سہ سال کی عمر مکمل کر کے داماد رسول دارالسلام کوراہی ہوئے (ہم ساروں کا اللہ مالک ہے اور ہمارا ہر آدمی اس کے گھر لوٹے گا)

## مرادی کا مال

وصال علی کرمہ اللہ کے آگے لوگ مرادی کو اولاد علی کرمہ اللہ کے آگے لائے، اولاد علی کرمہ اللہ سے وہ اس کڑے طور سے ہلاک ہوا کہ اس کے دھڑکے ٹکڑے کئے گئے، گرم سلائی لگائی گئی اور اس کی لساں کانی گئی اور اس کے دھڑکے آگ لگا دی گئی۔<sup>۹</sup>

## امور لحد

امور لحد کے لئے دارالسلام کے سردار اور علی کرمہ اللہ کے ولد ام کا لڑکا آگے آئے اور سارے امور مکمل کئے اور علی کے ولد اول کے رکوع سے عاری عماد اسلام کے واسطے لوگوں کے امام ہوئے اور وہی ملک کہ وہ علی کرمہ اللہ کا دارالامارہ رہا، اسی ملک اللہ کے گھر سے ملے ہوئے اک محل آ کر علی کرمہ اللہ کو مٹی دی۔<sup>۹</sup>

۱۔ چار سال نوامہ۔ (سیرت علی، ص: ۵۲۷) ۲۔ تاریخ اسلام، ج: ۱، ص: ۵۰۷) ۳۔ طبقات ابن سعد اردو حصہ سوم، ص: ۹۵، سیرت خلفائے راشدین، ص: ۲۵۵) ۴۔ تمہیر اور تفتیح کے مراحل۔ ۵۔ حضرت حسنینؓ۔ ۶۔ حضرت علیؓ کا بھتیجا، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار۔ ۷۔ سیدنا حسنؓ۔ ۸۔ نماز جنازہ۔ ۹۔ آپ کا مزار کوفہ میں مسجد الجمانہ کے قریب الرحبہ کے مقام پر واقع ہے اور رونق لوگ جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ آنجنابؐ کی قبر مشہد (نجف اشرف) میں ہے وہ سراسر غلط ہے اور بے بنیاد ہے، اس بات پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، چنانچہ حافظ ابن کثیر رقمطراز ہیں: وما یعتقدہ کثیر من جہلۃ الروافض من ان قبرہ بمشدد النجف فلا دلیل علی ذالک ولا اصل بہ۔ (سیرت علی، ص: ۵۲۷)

## سراسر کھوٹا کلام

کئی لوگوں کا دوسوہ ہے کہ ”الحکم للہ“ والوں کے ڈر سے علی کریم اللہ کو وصال کے آگے اک سواری سے کس کر سواری دوڑا دی گئی، وہ سواری لامعلوم محل کو رواں ہو گئی اور لوگ سدالاعلم رہے کہ وہ سواری کہاں گئی اور لحد علی کہاں ہے؟ حالاں کہ وہ کلام سراسر کھوٹا اور اصل سے دور ہے!

الحمد للہ! کہ رسالہ ”دوسر دوداماد“ مکمل ہوا، دعا گو ہوں کہ اللہ اس رسالے کے واسطے سے عالم اسلام والحاد کے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے دوسر دوداماد اور ہر ہر ہمراہی کے لگاؤ سے معمور کر دے۔

اے اللہ! محرر اور اس کے والد مکرم، والدہ مرحومہ، سارے معلموں اور وہ لوگ کہ اس رسالے کے لئے کسی طرح ہی سہی مددگار رہے، ساروں کے معاصی محو کر دے اور ساروں کو ہر دو عالم کا سرور و کامگاری عطا کر دے۔ (اللہ اسی طرح کرے)

اے اہل علم! رائے دو

محرر کا ہر علم والے سے سوال ہے کہ اس رسالے کے واسطے ہر طرح کی رائے دے! اہل علم کی عمدہ آراء مسموع ہوں گی اور وصول ہوں گی۔

محرر

والد محمد رائی

سوموار دس مئی سال اشعارہ سوار دوسو دس

## اردو کے معرے سے عام اردو کے

کلمے	عام اردو	کلمے	عام اردو
	اوطاس		مقام وادی حنین
آدم دوم	نوحؑ	اہل کہسار	اہل طائف
آس	امید	امراء	بڑے لوگ
آگاہ کرو	اطلاع دو	امر محال	مشکل معاملہ
اسرائیلی	یہودی	امروچی	نبوت
اطوار	طریقے	الم رسائی	تکلیف پہنچانا
الحاد	کفر		ح
اساس	بنیاد	حاکم اول	سیدنا ابوبکر صدیقؓ
اسماء	اسم کی جمع	حاکم دوم	سیدنا عمر فاروقؓ
اسراء سماوی	معراج	حاکم سوم	سیدنا عثمان غنیؓ
اسلامی صدی	سن ہجری	حکام	حاکم کی جمع
اسرہ	خاندان	حلم	برداشت
اطوار مجموعہ	عمدہ طور طریقے	حصار	قلعہ
اصحہ	نجاشی بادشاہ کا نام	حاوی	غالب
اعلائے اسلام	اسلام کی ترقی	حسام	تلوار
اعلام	اعلان - علامتیں	حرم رسولؐ	مسجد نبویؐ

کلمے	عام اردو	کلمے	عام اردو
حمام صحرائی	جنگلی کبوتر	﴿ ر ﴾	عام اردو
حکم	فیصلہ کرنے والا	رائی کا کہسار	بات کا بتلوانا
حر	آزاد	راعی	چرواہا
حامی	مددگار	ردی کام	گھنٹیا کام
	﴿ و ﴾	رداء	چادر
داعی	بلانے والا	ردکلام	جواب
دارالآلام	جہنم	روح اللہ رسول	حضرت عیسیٰؑ
دار اللہ	بیت اللہ	رحلہ	ہجرت - سفر
دارالسلام	جنت	راہوار	گھوڑا سواری
دال	دلالت کرنے والا	رواں	جاری
دم سادھے ہوئے	چپ	رحلہ کے آگے	سفر آخرت کے بعد
دارالامارہ	دارالخلافہ	رہرو	مسافر
دھڑ	جسم	رونداد	واقعہ
دو حکم	دو فیصلہ کرنے والے	روگ	بیماری
دل سے دہراؤ	یاد کرو	رکوع سے عاری	نماز جنازہ
دارالمطہر	بیت المقدس	روا	جائز
دکھوں والا صلہ	عذاب	روگردی	نافرمانی، حکم عدولی
دور	زمانہ - طواف	☆☆	☆☆

کلمے	عام اردو	کلمے	عام اردو
﴿س﴾		﴿ص﴾	
ساعی	کوشش کرنے والا	صاع	۲۳۳ تو لے، وزن کا پیمانہ
سامع	سننے والا	صدائے عماد اسلام	اذان
سوا	علاوہ۔ زیادہ	صلۃ دم	قصاص
سوءعمال	برائے انجام	صلۃ مسلسل	صدقہ جاریہ
سہام کار	تیرا انداز	صمصام	تلوار
سوء عملی	بد عملی	صاد	تصدیق کرنا
سہل	آسان	﴿ط﴾	
سر کرے	پار کرے۔ کھل کرے	طوعاً و کرہاً	مجبوراً
سواری	اونٹ	طور	طریقہ
سوئے اعداء	دشمنوں کی طرف	﴿ع﴾	
سوء عہدی	بد عہدی	عاری	خالی۔ ننگا
سواری والا معرکہ	جنگِ جمل	عائد	لازم
سردار ملتانک، الروح	حضرت جبریل	عساکر	عسکر کی جمع۔ لشکر
سراسر	بالکل	عمال	عامل کی جمع
سہو	بھول	عم	چچا
سعی	کوشش	عماد اسلام	نماز
سہم	حصہ	علمدار	جھنڈا اٹھانے والا



کلمے	عام اردو	کلمے	عام اردو
عروس	دلہن	کھڑاؤں	جوتے
عروس مطہرہ	سیدہ عائشہ صدیقہ	کھائی	خندق
عمدہ عملی	اچھے کام	کھوٹا	جھوٹا
علی العکس	برعکس	﴿گ﴾	
علام الاسرار	عالم غیب	گام	قدم
عدو	دشمن	گل کدے	باغات
علو	بلندی	گواہی	شہادت
عالی	بلند	گرد آلود	مٹی لگا ہوا
عالم مادی	دنیا	گودے دار ڈال	پھل دار درخت
عالم معاد	آخرت	گھاؤ	زخم
﴿ک﴾		گھائل	زخمی
کامگار	کامیاب	﴿ل﴾	
کوہ سلع	مدینہ منورہ کا ایک پہاڑ	لامعدوم	ناختم ہونے والا
کسرئی	ایرانی بادشاہ کا لقب	لامحدود	بے حساب
کوہ	پہاڑ	لااصل	بے دلیل
کہسار	پہاڑی علاقہ	لا حاصل	فضول
کھوہ	غار	لبو	فضول
☆☆	☆☆	لے لی	کبری

عام اردو	کلمے	عام اردو	کلمے
منقطع السند	معدوم سلسلہ راہی	خارجی	لاحکم والے
طے شدہ ضابطے	مسلمہ اصولوں	زبان	لساں
لکھنے والا	محرر	محبت	لگاؤ
آباد	معمور	قبر	لحد
روایت	مروی	گوشت	لحم
تعریف کرنے والے	مداحوں	چھوٹا	لمس
خوش	مسرور	﴿م م﴾	
آخر کار	آمال کار	دفن کیا	مٹی دی
فرشتے	ملائک	قاتل	مہلبک
محفوظ	معصوم	پانی	ماء
بد عملی	مکروہ عملی	کھانا کھانے کی جگہ	مطعم
انصاری۔ مدد کرنے والا	مددگار	موت	مرگ
پاک پانی	ماء طاہر	غلام	مملوک
تابع	مامور	اصلاح کرنے والا	مصلح
تابع	محلوم	کاتب وحی، حضرت معاذیہؓ	محرر وحی
لکھا ہوا	مسطورہ	برابر	مساوی
مثنا	محو	فرشتے	ملا اعلیٰ
باعزت	مکرم	گناہ	معاصی

کلمے	عام اردو	کلمے	عام اردو
مہدی	ہدایت یافتہ	محمود	تقریف کیا ہوا
مُد	دورِ ظل کا پیمانہ	مولودی سلسلہ	شجرہ نسب
مسموع ہو	سنائی دے	معمر	عمر رسیدہ
معاد	آخرت	ملکِ عدم	دنیا
موسوم	نام رکھا ہوا	مسلمہ حکم	قاضی
معرکہ آرائی	لڑائی	ماءِ سکر	شراب
مردود	لعنتی	مٹی کے الہ	بت
مکارہ	برائیاں	ماہرِ کلام	شاعر
ملع گری	بدعت	مداح رسول	حضرت حسان بن ثابتؓ
مکر وہ گو حاسد	بد زبان	مُحکم	مضبوط
مرگ	موت	مساہم	شریک
مملوک	غلام	معماری	تعمیر
مسدود	بند	معمور ہو	آباد ہو
مصدر	مأخذ	محصور	قیدی
مطالعہ	غور کرنا	محل	جگہ
ماہِ عالم	دنیا کا چاند	محرم اسرارِ عہدہ رسول	راز دارِ نبوت
مہرِ عالم	دنیا کا سورج	مہم	سریہ
ہمراہی	ساتھی۔ صحبت	موسمِ احرام	ایام حج

عام اردو	کلمے	عام اردو	کلمے
موسم کی جمع	وساوس	مقررہ	موعود
میانہ روی	وسط روی	مالی	مادی
ہجرت	وداع مکہ	نزم	ملائم
فضول	واہی	مدینہ رسول	معمورۃ رسول
آسمانی وحی	وحی سماوی	بخارولا	محموم
بھائی	ولیدام	عورت	مادام
آپ کا سفر آخرت	وصال رسول	سر کے بال	موئے سر
﴿ ۵ ﴾		خط	مراسلہ
مہاجر صحابی۔ ساتھی	ہمد	غزوۃ بدر	معرکہ اول
برابر	ہمسر	﴿ ۶ ﴾	
حضرت ابو بکر صدیقؓ	ہمد مکرم	انتقال	وصال

## رسائل و مصادر

تاریخ اسلام	اختلاف امت اور صراطِ مستقیم
حیات الصحابہ	تاریخ الخلفاء
خلافت راشدہ	جامع اللغات
سیرت علی المرتضیٰ	سیرت مصطفیٰ
سیر الصحابہ	سیرت خلفائے راشدین
صحاح ستہ	صحابہ کرام انسانوں کی پیدیا
مقام صحابہ	طبقات ابن سعد
لغات کشوری	فیروز اللغات
ہادی عالم	المنجد

محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم

قرآن کریم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عالی مقام  
 معتبر علمائے کرام کے ترجموں اور تفاسیر کی روشنی میں قرآن کریم کی ان  
 آیات مقدسہ کا مجموعہ جن میں حق تعالیٰ شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے  
 جانثار ساتھیوں کی تعریف و تحسین فرمائی ہے

مؤلف

ابو محمد  
 محمد عظیم رانی

ادارہ

اساس العلم کراچی

(عنقریب منصفہ شہود پر ہوگی، نا، (لد))



صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زریں اقوال  
 دنیا سے بے رغبتی اور فکرِ آخرت پیدا کرنے والے مختلف مواقع پر حضرات  
 صحابہ کرام سے منقول، راہنما اقوال کا حسین گلدستہ

مؤلف

ڈاکٹر محمد  
 محمد عظیم رانی

ادارہ

اساس العلم کراچی

(عنقریب منصفہ شہود پر ہوگی) (۱۰۰) (لند)



# اسلامی مہینے تاریخ کے آئینے میں

مؤلف

ڈاکٹر محمد  
محمد عظیم رانی

ادارہ

اساس العلم کراچی

(عنقریب منصفہ شہود پید ہوگی (۱۹۸۰ء))